

ایک جامع روایت کی تشریح کے ضمن میں  
اہم ترین اصلاحی مضامین کا مرتب اور مستند مجموعہ

اللہ  
سے شرم کیجئے

مکتبۃ المدین  
18-42210-011



مترجم:  
مفتی محمد سلیمان منصور پوری علیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُ

سے شکر م کیجئے

مفتی محمد سلیمان منصور پوری رتیلہ

۱۸- اردو بازار لاہور پاکستان

Ph: 7211788-7231788

مکتبہ اعلم



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ سَمِيحٌ كَرِيمٌ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

\*\*\* توجہ فرمائیں! \*\*\*

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* تنبیہ \*\*\*

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر  
تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں

ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

[webmaster@kitabosunnat.com](mailto:webmaster@kitabosunnat.com)

[www.KitaboSunnat.com](http://www.KitaboSunnat.com)

## دس باتیں

- ۱- توحید مسلمانوں کے لئے ایمان کی جڑ ہے۔
- ۲- اتباع رسول ﷺ مسلمین مسلمانوں کی کامیابی ہے۔
- ۳- شریعت پر عمل کرنا مسلمانوں کے لئے امن ہے۔
- ۴- جہالت پر چلنا انسان کے لئے بربادی ہے۔
- ۵- افتراق سے رہنا مسلمانوں کی خاص شان ہے۔
- ۶- تقویٰ سے انسان معرفت تک پہنچ سکتا ہے۔
- ۷- نفسانی خواہش انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔
- ۸- توبہ کر لینا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔
- ۹- ضد پراڑے رہنا ابلیس کا عمل ہے۔
- ۱۰- منزل تک وہی پہنچتا ہے جس کو حق کی تلاش ہے۔

۴۵۶

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

## حسن ترتیب

۲۱	انتساب
۲۲	اتنہار مسرت اور دعا (امیر الہند حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی
۲۳	پیش لفظ
۲۶	مقدمہ (حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری
۳۰	تقریظ (حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب مفتی و استاذ حدیث
۳۱	حرف آغاز

## اللہ سے شرم کیجئے

۳۱	الحیاء من اللہ
۳۲	اسلام میں حیاء کی اہمیت
۳۳	حیاء کا مستحق کون؟
۳۶	اللہ سے حیاء کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟

## سر کی حفاظت

۳۹	باب اول
۴۰	پہلی فصل: سر کی حفاظت
۴۰	شُرک سے اجتناب
۴۱	ایک غلط فہمی کا ازالہ
۴۳	شُرک خفی
۴۶	دوسری فصل: بگمیر سے پرہیز
۵۰	تیسری فصل: زبان کی حفاظت



۵۳	زبان کی آفتیں
۵۵	چوتھی فصل: جھوٹ
۵۸	سچ میں نجات ہے۔
۶۰	یہ بھی جھوٹ ہے
۶۰	تجارت پر مشہور حضرات متوجہ ہوں
۶۲	ہمارا عمل
۶۲	جھوٹی تعریفیں
۶۳	تعریف میں احتیاط
۶۶	پانچویں فصل: غیبت بھی بے حیائی ہے
۶۶	غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے
۶۷	غیبت کیا ہے؟
۶۸	سامنے برائی کرنا بھی گناہ ہے۔
۶۹	آنکھیں کھولنے!
۷۴	علماء کی غیبت
۷۵	چغلی خوری
۷۶	چغلی اور غیبت سے تو کیا کرے؟
۷۷	حضرت حاجی امداد اللہ کا معمول
۷۷	بعض بزرگوں کے اقوال و واقعات
۷۹	ایک واقعہ
۸۰	چھٹی فصل: کالم گلوچ اور خوش کلامی
۸۳	اپنی عزت اپنے ہاتھ
۸۵	ساتویں فصل: آنکھ کی حفاظت



- ۸۶ بعض احادیث شریفہ
- ۸۷ پردہ کے احکامات
- ۹۲ باریک اور چست لباس بھی ممنوع ہے
- ۹۳ تنہائی میں بھی بلا ضرورت ستر نہ کھولیں
- ۹۴ میاں بیوی بھی ستر کا خیال رکھیں
- ۹۶ میاں بیوی اپنا راز بیان نہ کریں
- ۹۷ دوسرے کے گھر میں تاک جھانک
- ۹۹ آٹھویں فصل: کان کی حفاظت
- ۱۰۰ احادیث شریفہ میں گانے کی حرمت
- ۱۰۱ گانا بجانا علماء و فقہاء کی نظر میں
- ۱۰۳ مروجہ قوالی بھی حرام ہے
- ۱۰۴ رمضان کی بے حرمتی
- ۱۰۴ دوسروں کی راز کی باتیں سننا۔
- ۱۰۵ ایک عبرت ناک واقعہ
- ۱۰۷ نویں فصل: ڈاڑھی منڈانا بھی بے شری ہے
- ۱۰۹ لہو فکریہ
- ۱۱۰ سر پر انگریزی بال
- ۱۱۱ عورتوں کے بال

- ۱۱۳ باب دوم پیٹ کی حفاظت
- ۱۱۴ پہلی فصل: مال حرام سے اجتناب
- ۱۱۵ ارشادات نبویہ
- ۱۱۸ مال طیب کے ثمرات

- ۱۱۹ تاجروں کو خوشخبری
- ۱۲۱ حرام سے بچنے کا جذبہ کیسے پیدا ہو؟
- ۱۲۲ مال دار روک لئے جائیں گے
- ۱۲۳ دوسری فصل: آمدنی کے حرام ذرائع
- ۱۲۳ سود
- ۱۲۵ بینک کا انٹرسٹ بھی یقیناً سود ہے
- ۱۲۶ سود اور دار الحرب
- ۱۲۹ جواز اور سٹ
- ۱۳۰ لائبریری وغیرہ
- ۱۳۱ انشورنس
- ۱۳۱ دوسرے کے مال یا جائیداد پر ناحق قبضہ کرنا
- ۱۳۳ رشوت خوری
- ۱۳۵ تاجائز ذخیرہ اندوزی
- ۱۳۸ تیسری فصل: مدارس اور ملی اداروں کی رقومات میں احتیاط
- ۱۳۹ جملہ تملیک صرف مجبوری میں جائز ہے
- ۱۳۹ مولانا بنوری کا طرز عمل
- ۱۴۱ کمیشن پر چندہ
- ۱۴۲ اجرت پر تراویح وغیرہ
- ۱۴۳ اگر قلع حافظہ نہ ملے؟
- ۱۴۴ محض تلاوت اور دیگر عبادت کی اجرت میں فرق
- ۱۴۵ معصیت پر تعاون کی اجرت
- ۱۴۶ چوتھی فصل: شرمگاہ کی حفاظت



- ۱۳۷ سب سے زیادہ خطرہ کی چیز  
 ۱۳۷ زنا کار کی دعاء قبول نہیں  
 ۱۳۸ زنا کار آگ کے تنور میں  
 ۱۳۹ زنا کار، بد بودار  
 ۱۵۰ زنا، موجب عذاب  
 ۱۵۰ زنا، موجب فقر و فاقہ  
 ۱۵۲ پانچویں فصل: ہم جنسی کی لعنت  
 ۱۵۳ خو بی صورت لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا موجب فتنہ ہے  
 ۱۵۳ شرمگاہ کی حفاظت پر انعام  
 ۱۵۶ زنا سے بچنے کی ایک عمدہ تدبیر  
 ۱۵۷ یہ قرب قیامت کی علامت ہے

## دل کی حفاظت

باب سوم

- ۱۵۹ پہلی فصل: دل کی حفاظت  
 ۱۶۱ دل کے امراض  
 ۱۶۱ دنیا کی محبت  
 ۱۶۳ حرص  
 ۱۶۳ حرص کا ایک مجرب علاج  
 ۱۶۶ دوسری فصل: بخل  
 ۱۶۷ ایک عبرت ناک واقعہ  
 ۱۷۰ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرنے والوں کیلئے بھیانک سزا  
 ۱۷۴ تیسری فصل: جود و سخا  
 ۱۷۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت

- ۱۷۵ اپنی چار مسائل کو دیدی
- ۱۷۶ دیہاتیوں کی بے ادبیوں کا تحمل
- ۱۷۷ مسائل کے لئے قرض لینا
- ۱۷۸ ایک کوڑے کے بدلے اسی بکریاں
- ۱۷۸ بے حساب بکریاں عطا کیں
- ۱۸۰ حضرات صحابہ کرام وغیرہم کی سخاوت کے چند واقعات
- ۱۸۰ حضرت ابو بکر ؓ کی سخاوت
- ۱۸۱ حضرت عمر ؓ کی سخاوت
- ۱۸۱ حضرت عثمان غنی ؓ کی سخاوت
- ۱۸۲ حضرت علی ؓ کی سخاوت
- ۱۸۳ حضرت طلحہ ؓ کی سخاوت
- ۱۸۳ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سخاوت
- ۱۸۳ حضرت سعید بن زید ؓ کی سخاوت
- ۱۸۳ حضرت عبداللہ بن مظہر ؓ کی سخاوت
- ۱۸۵ سیدنا حضرت حسین ؓ کی سخاوت
- ۱۸۶ حضرت عبداللہ بن عباس ؓ کی سخاوت
- ۱۸۷ خانوادہ نبوت کی سخاوت کا نمونہ
- ۱۸۷ حضرت ایوب بن سعید ؓ کی سخاوت
- ۱۸۸ حضرت عبداللہ بن عامر ؓ کی سخاوت
- ۱۸۹ چوتھی فصل: مہمان نوازی
- ۱۹۰ آنحضرت ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ ؓ کی مہمان نوازی
- ۱۹۱ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مہمان کے ساتھ معاملہ

- ۱۹۲ مہمان کے حقوق
- ۱۹۳ مہمان کی ذمہ داری
- ۱۹۶ پانچویں فصل: بغض و عداوت
- ۱۹۷ بول چال بند کرنا
- ۱۹۹ بغض کے بعض مفاسد
- ۱۹۹ بغض کا سبب
- ۲۰۰ اگر غصہ آجائے تو کیا کریں؟
- ۲۰۲ سب سے بڑا پہلو ان
- ۲۰۲ غصہ پینے کا اجر و ثواب
- ۲۰۳ حضرت زین العابدین کا واقعہ
- ۲۰۴ غصہ کہاں پسندیدہ ہے
- ۲۰۶ دینی ضرورت سے ترک تعلق بھی جائز ہے
- ۲۰۷ دل کو صاف رکھنے کا مجرب عمل
- ۲۰۷ عذر تلاش کرنا
- ۲۰۸ غلطی کو نظر انداز کرنا
- ۲۰۹ مخاطب کی عزت نفس کا خیال
- ۲۱۰ چھٹی فصل: تزکیہ کی ضرورت
- ۲۱۱ دل کی بیماریوں کا علاج
- ۲۱۲ استغفار کی کثرت سے دل کی صفائی
- ۲۱۳ صالحین کی صحبت
- ۲۱۳ شیخ کامل سے وابستگی
- ۲۱۴ شیخ کامل کی پہچان

﴿ ۱۲ ﴾

۲۱۵

تصوف کی محنتوں کا منہجائے مقصود

۲۱۵

عارف باللہ حضرت رائے پوریؒ کا ارشاد

۲۱۷

تصوف کی راہ سے دینی خدمت میں جلا پیدا ہوتی ہے

۲۱۸

فقہوں سے ہوشیار

۲۱۹

## باب چہارم موت کی یاد

۲۲۰

ولہذا ذكر الموت والہلی

۲۲۲

پہلی فصل: موت کی یاد کا حکم

۲۲۵

موت کے متعلق اصحاب معرفت کے اقوال و احوال

۲۲۷

موت کو یاد کرنے کے بعض فوائد

۲۲۸

موت کو بھول جانے کے نقصانات

۲۲۹

موت کو یاد کرنے کے چند ذرائع

۲۳۰

مردوں کو نہلانا اور جنازوں میں شرکت کرنا

۲۳۲

دوسری فصل: موت کی حقیقت

۲۳۳

موت کی شدت

۲۳۴

موت کے وقت کیا محسوس ہوتا ہے؟

۲۳۵

موت کے وقت شیطان کی آخری کوشش

۲۳۷

مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندیؒ کی وفات کا عجیب و غریب واقعہ

۲۴۰

تیسری فصل: اللہ انجام بخیر کرے!

۲۴۱

سوء خاتمہ سے ڈرتے رہیں

۲۴۱

بد نظری کا انجام

۲۴۲

حضرات شیخینؒ پر تہرا کرنے کی سزا

۲۴۲

شراب نوشی، بد انجامی کا سبب

- ۲۴۲ دنیا سے حد سے زیادہ لگاؤ کا انجام
- ۲۴۳ اللہ والوں کو اذیت دینے کا انجام
- ۲۴۴ سیدنا حضرت حسینؑ کو تیر مارنے والے کا بدترین انجام
- ۲۴۴ سیدنا حضرت سعید بن زیدؓ پر جھوٹا دعویٰ کرنے والی عورت کا انجام
- ۲۴۵ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ پر بہتان لگانے والے کا انجام
- ۲۴۶ صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے والے پر حضرت سعدؓ کی بدعا
- ۲۴۸ چوتھی فصل: حسن خاتمہ عظیم دولت
- ۲۴۸ اللہ والوں کی رحلت کے بعض قابل رشک اور بشارت آمیز حالات
- ۲۴۹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حادثہ وفات
- ۲۵۵ امیر المؤمنین سیدنا حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات
- ۲۵۸ امیر المؤمنین سیدنا حضرت فاروق اعظمؓ کی وفات کے وقت ہوشمندی
- ۲۶۲ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنیؓ کی مظلومانہ شہادت
- ۲۶۳ شہادت کے وقت امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہؓ کی بیڑماری مغزی
- ۲۶۵ سیدنا حضرت حسنؑ
- ۲۶۶ سیدنا حضرت حسینؑ کی دردناک شہادت
- ۲۶۷ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی وفات
- ۲۶۷ وفات کے وقت حضرت ابو ہریرہؓ کا حال
- ۲۶۸ فقیہ امت خادم رسول حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
- ۲۶۸ سپہ سالار اعظم حضرت خالد بن ولیدؓ
- ۲۶۹ حضرت معاذ بن جبلؓ کو وفات کے وقت جنت کی بشارت
- ۲۶۹ مؤذن رسول حضرت بلال حبشیؓ کا وفات کے وقت ذوق شوق
- ۲۷۰ حضرت ابو ثعلبہؓ کی شہادت کی حالت میں وفات
- ۲۷۰ حضرت ابو شیبہ خدریؓ کا آخری کلام
- ۲۷۰ حضرت عمرو بن العاصؓ رب واحد کے حضور میں

﴿ ۱۴ ﴾

- ۲۷۱ بوقت وفات حضرت امیر معاویہ کی اثر انگیز دعا
- ۲۷۲ سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی الم تاک شہادت
- ۲۷۵ سیدنا حضرت سلمان فارسیؓ کا وفات کے وقت حال
- ۲۷۵ حضرت عمارؓ کا آخری دم تک حدیث نبویؐ میں اشتغال
- ۲۷۵ حضرت انسؓ پر حالت رجا کا غلبہ
- ۲۷۶ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو وفات کے وقت بیثارت
- ۲۷۶ خلیفہ راشد سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ بارگاہ ذوالجلال میں
- ۲۷۷ امام اعظم حضرت امام ابوحنیفہؒ کی حالت ہجرت میں وفات
- ۲۷۸ حضرت امام مالکؒ کی وفات
- ۲۷۸ وفات کے وقت حضرت امام شافعیؒ کا حال
- ۲۷۹ حضرت امام احمد بن حنبلؒ کی سرخ روئی
- ۲۸۰ تاریخ کاسب سے بڑا جنازہ
- ۲۸۰ بعض صالحین کے حالات وفات
- ۲۸۲ پانچویں فصل: نزع کے عالم میں تیار دار کیا پڑھیں؟
- ۲۸۳ تدفین میں جلدی کریں
- ۲۸۳ نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کا ثواب
- ۲۸۴ جنازہ قبرستان میں
- ۲۸۶ قبروں کو پختہ بنانا ان کی بے حرمتی کرنا ممنوع ہے
- ۲۸۶ عورتوں کو قبروں پر جانا

- ۲۸۸ باب پنجم
- ۲۸۹ پہلی فصل: قبر میں سوال و جواب
- ۲۹۲ مبشر، مبشر



- ۲۹۳ قبر میں کافر منافق کا بدترین حال
- ۲۹۵ قبر میں کیا ساتھ جائے گا؟
- ۲۹۶ دوسری فصل: یہ بدن گل سڑ جائے گا
- ۲۹۶ وہ خوش نصیب جن کا بدن محفوظ رہے گا
- ۲۹۷ عبداللہ بن تامر کا واقعہ
- ۲۹۷ غزوہ احد کے بعض شہداء کا حال
- ۲۹۸ قبر پر خوشبو اور روشنی
- ۲۹۹ مؤذن مختص کو بشارت
- ۳۰۰ تیسری فصل: قبر میں راحت و عذاب برحق ہے
- ۳۰۳ عذاب قبر سے پناہ
- ۳۰۳ جانور بھی قبر کا عذاب سنتے ہیں
- ۳۰۳ کن لوگوں سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتا
- ۳۰۴ پہلا سبب
- ۳۰۵ دوسرا سبب
- ۳۰۵ جمعہ کے دن اور رمضان کے مہینے میں وفات پانے والوں کو بشارت
- ۳۰۶ عذاب قبر سے نجات کیسے؟
- ۳۰۷ عذاب قبر کے عمومی اسباب
- ۳۰۷ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عبرت ناک خواب
- ۳۰۹ ناجائز مقاصد سے زینت کرنے والوں کو عذاب
- ۳۱۰ نماز بے وقت پڑھنے والے کی سزا
- ۳۱۰ چغل خور کی سزا
- ۳۱۰ سود خور کی بدترین سزا

۳۱۱	زنا کاروں کا انجام
۳۱۲	لواطت کرنے والوں کی بدترین سزا
۳۱۲	بے عمل واعظوں کا انجام
۳۱۲	قوی مال میں خیانت کرنے والوں کو عذاب قبر
۳۱۳	قبر کے عذاب کا عام لوگوں کو مشاہدہ
۳۱۳	دھوکے باز کو عذاب قبر
۳۱۴	عسل جنابت نہ کرنے کی سزا
۳۱۴	نماز چھوڑنے اور جاسوسی کی سزا
۳۱۵	ایوجہل کو عذاب قبر
۳۱۵	قبر میں جاری نفع بخش امور
۳۱۶	ایصال ثواب

## باب ششم قیامت کے احوال

۳۱۸	باب ششم قیامت کے احوال
۳۱۹	پہلی فصل: قیامت ضرور آئے گی
۳۱۹	قیامت کب آئے گی؟
۳۲۰	قیامت کی دس قریمی علامتیں
۳۲۰	(۱) دخان
۳۲۰	(۲) دجال
۳۲۱	(۳) دلہۃ الارض
۳۲۱	(۴) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا
۳۲۱	(۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول
۳۲۲	(۶) یاجوج ماجوج کا خروج
۳۲۲	(۷-۹، ۸) زمین دھسنے کے تین واقعات

- ۳۲۳ (۱۰) یمن میں آگ
- ۳۲۳ علامات کی ترتیب
- ۳۲۴ قیامت سے پہلے لوگوں کا شام میں اجتماع
- ۳۲۵ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟
- ۳۲۷ جب صور پھونکا جائے گا۔
- ۳۲۹ دوسری فصل: دوبارہ زندگی اور میدان محشر میں اجتماع
- ۳۳۰ اللہ کی عظمت و جلال کا زبردست مظاہرہ
- ۳۳۱ میدان محشر کی زمین
- ۳۳۳ موجودہ زمین کو روٹی بنا دیا جائے گا
- ۳۳۵ میدان محشر کی عزت و ذلت
- ۳۳۷ میدان محشر میں سب سے پہلے لباس پوشی
- ۳۳۸ محشر میں پسینہ ہی پسینہ
- ۳۴۰ محشر کے دن کی طوالت
- ۳۴۱ تیسری فصل: حوض کوثر
- ۳۴۲ پہچان کیسے ہوگی؟
- ۳۴۳ سب سے پہلے حوض کوثر سے سیراب ہونے والے
- ۳۴۳ بے عمل اور بدعتی حوض کوثر سے دھتکار دیئے جائیں گے
- ۳۴۵ ایک اشکال کا جواب
- ۳۴۷ چوتھی فصل: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ
- ۳۴۸ شفاعت کی اقسام
- ۳۵۰ پانچویں فصل: حساب کتاب کا آغاز
- ۳۵۲ سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟
- ۳۵۳ نماز کا حساب

- ۳۵۳ مظالم اور حق تلفیوں کا بدلہ
- ۳۵۶ ناحق زمین غصب کرنے والوں کا انجام
- ۳۵۷ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا برا حال
- ۳۵۸ قومی مال میں خیانت کرنے والوں کا انجام
- ۳۵۹ تکبر کرنے والوں کی ذلت ناک حالت
- ۳۶۱ غداری اور بدعہدی کرنے والے کی رسوائی
- ۳۶۱ چھٹی فصل: میزان عمل
- ۳۶۲ ترازو میں اعمال کیسے تولے جائیں گے؟
- ۳۶۳ ترازو میں کن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے؟
- ۳۶۵ نیکیوں کے وزن میں اضافہ کیسے؟
- ۳۶۶ حضرات صحابہؓ کے اعمال سب سے زیادہ وزنی ہونے کا سبب
- ۳۶۶ بعض وزنی اعمال کا ذکر
- ۳۶۹ ساتویں فصل: رحمت خداوندی کا زبردست مظاہرہ
- ۳۷۰ عرش کے سایہ میں!
- ۳۷۲ ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا
- ۳۷۳ حافظ قرآن کا اعزاز
- ۳۷۴ حافظ قرآن کے والدین کا اعزاز
- ۳۷۵ محشر میں نور کے منبر
- ۳۷۶ چار عمومی سوال

- ۳۷۷ باب ہفتم آخری ٹھکانہ کی طرف
- ۳۷۸ پہلی فصل: میدان محشر میں ”جہنم“ کو لائے جانے کا منظر
- ۳۷۸ مشرکین اپنے معبود لئ باطلہ کے ساتھ جہنم میں

- ۳۷۹ یہود و نصاریٰ کا انجام
- ۳۸۰ اہل ایمان اور منافقین میں امتیاز اور ساق کی جلی
- ۳۸۳ دوسری فصل: میدان محشر کی اندھیروں میں نور کی تقسیم
- ۳۸۴ نور میں زیادتی کے اسباب
- ۳۸۵ پل صراط
- ۳۸۶ شفاعت کا دوسرا مرحلہ
- ۳۸۷ پل صراط پر امانت اور رحم کی جانچ
- ۳۸۸ پل صراط پر گزرتے ہوئے اہل ایمان کی شان
- ۳۸۹ تیسری فصل: جنت کی طرف روانگی اور معاملات کی صفائی
- ۳۹۰ جنت کا دروازہ کھلوانے کیلئے آنحضرت ﷺ کی سفارش
- ۳۹۱ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے خوش نصیبوں کا حال
- ۳۹۳ جنت میں اہل جنت کے داخلہ کا شاندار منظر
- ۳۹۴ جنت کی وسعت
- ۳۹۵ قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کا مختصر حال
- ۳۹۷ احادیث طیبہ میں جنت کا بیان
- ۳۹۹ چوتھی فصل: قرآن کریم میں جہنم کا ذکر
- ۴۰۰ احادیث شریفہ میں جہنم کی ہولناکیوں کا بیان
- ۴۰۳ پانچویں فصل: بد عمل اہل ایمان کو جہنم سے نکلنے کیلئے آنحضرت کی سفارش
- ۴۰۵ جنتیوں کی اپنے بد عمل بھائیوں کے لئے سفارش
- ۴۰۶ اللہ تعالیٰ کے خصوصی آزاد کردہ لوگ
- ۴۰۷ جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کا حال
- ۴۰۹ جب موت کو بھی موت آجائے گی

## حرف آخر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے

- ۴۱۰ دنیا کی زیب و زینت ترک کرنے کی ہدایت
- ۴۱۱ دنیوی زیب و زینت کی مثال
- ۴۱۲ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حیثیت
- ۴۱۳ کافروں کی دنیوی شان و شوکت دیکھ کر پریشان نہ ہو
- ۴۱۵ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
- ۴۱۶ دنیا میں اشتغال کس حد تک؟
- ۴۱۹ دنیا عافیت کی جگہ ہے ہی نہیں
- ۴۲۰ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے
- ۴۲۰ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے
- ۴۲۱ دنیا سے تعلق آخرت کے لئے مضر ہے
- ۴۲۳ دنیا کی محبت دلی بے اطمینانی کا سبب ہے
- ۴۲۴ شوقین مزاج لوگ اللہ کو پسند نہیں
- ۴۲۴ دنیا سے بے رغبتی موجب سکون ہے
- ۴۲۵ قناعت دائمی دولت ہے
- ۴۲۶ دنیا میں مسافر کی طرح رہو
- ۴۲۶ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
- ۴۲۸ صحت اور وقت کی ناقدری
- ۴۲۹ ہر وقت مستعد رہنے
- ۴۳۱ جنت تک جانے کا راستہ
- ۴۳۳ ماخذ و مراجع





فصلہ تعالیٰ و عونہ

## انتساب

اپنے محبت و محبوب اور مشفق و محسن استاد اعظم، فقیہ الامت، عارف باللہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کے نام..... جن کی توجہات عالیہ اور پرفیض صحبتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے ہزاروں افراد کی ہدایت و اصلاح، تذکیر آخرت، اور دینی مزاج میں پختگی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ آمین۔

اپنے مخدوم و مکرم، والد معظم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری مدظلہ العالی استاذ حدیث و نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند کے نام..... جو احقر کے صرف مشفق باپ ہی نہیں بلکہ محسن ترین استاذ اور مربی بھی ہیں، جن کی مثالی تربیت اور کامل نگرانی اس ناکارہ کے لئے برابر راہِ حق پر استقامت اور دینی خدمات کی انجام دہی کے لئے معاون بنتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آں موصوف کا سایہ شفقت و عاطفت تادیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم رکھے اور آپ کی عنایتوں کا بہتر سے بہتر بدلہ داریں میں عطا فرمائے۔ آمین۔

اپنی مخدومہ و مکرمہ، والدہ معظمہ مدظلہا (صاحبزادی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ) کے نام..... جن کی مخلصانہ سحر گاہی دعائیں احقر کے لئے زندگی کا بڑا سرمایہ ہیں۔ رب رحمن و رحیم آں موصوف کا سایہ رحمت، صحت و عافیت کے ساتھ باقی رکھے، اور آپ کی دعاؤں کی بدولت اس ناکارہ کو ایسی دینی خدمات کی توفیق عطا فرمائے جو رضائے خداوندی کے ساتھ والدین محترمین کے دلوں میں سرور اور آنکھوں میں بے مثال شہدک پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ آمین، وما ذلک علی اللہ بھیز۔

فقط واللہ الموفق

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ،

۱۴۲۳/۱۲/۱۳ھ

## اظہار مسرت اور دعا

امیر الہند حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ، اما بعد!

آج کل مسلم معاشرہ میں اخلاقی زبوں حالی حد سے تجاوز کر رہی ہے ہر طرف بے حیائی، معاصی، اور منکرات کا دور دورہ ہے، اسلامی اخلاق رو بہ زوال ہیں آخرت سے غفلت عام ہے حالانکہ قرآن و حدیث میں جا بجا اسلامی اخلاق اپنانے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور آخرت کو یاد رکھنے کی نہایت تاکید وارد ہوئی ہے۔

مجھے خوشی ہے کہ عزیزم مولوی مفتی محمد سلمان سلمہ نے امر بالمعروف و نہی المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے شرم و حیا سے متعلق ایک جامع روایت کی تشریح کے ضمن میں بہت سے اصلاحی مفید موضوعات پر مستند مواد یکجا طور پر جمع اور مرتب کر دیا ہے۔ جس کے مطالعہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اب وہی کا احساس پیدا ہوگا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کا داعیہ دل میں ابھرے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آن عزیز کی محنت کو قبول فرمائے۔ اور اس کتاب کو عوام و خواص کے لئے نفع بخش بنائے۔ آمین۔

اسعد غفرلہ

۱۴۲۳/۲/۲۳ھ



﴿ اللہ سے شرم کیجئے ﴾

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

## پیش لفظ

الحمد لله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا

ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين، اما بعد!

آج احقر کے جسم کا رواں رواں منعم حقیقی، رب کریم کی بارگاہ میں تشکر و امتنان کے جذبات لئے معمور ہے۔ بلاشبہ یہ اللہ رب العالمین کا عظیم فضل و احسان اور محسن انسانیت، فخر دو عالم، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتساب کی برکت ہے کہ اس ناکارہ و نالائق کو سر اپانا کاری اور تساہلی کے باوجود آیات قرآنیہ، احادیث طیبہ اور اقوال و احوال سلف کو ایک خاص ترتیب سے جمع کرنے کی سعادت میسر آئی۔ اس عظیم نعمت پر رب کریم کا جس قدر بھی شکر یہ ادا کیا جائے کم ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے:

إِنَّ الْمَقَادِيرَ إِذَا سَاعَدَتْ لَمْ أَحْقَقِ الْعَاجِزَ بِالْقَادِرِ

(ترجمہ: تقدیر الہی جب کسی کی مددگار ہوتی ہے تو وہ عاجز اور در ماندہ شخص کو بھی

کسی قابل بنا دیتی ہے)

واقف احقر کا حال بھی اسی شعر کا مصداق ہے۔

یہ مضمون آج سے دس سال قبل لکھنا شروع کیا تھا۔ اور اس کی تحریک اس طرح ہوئی تھی کہ رمضان المبارک میں جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کی ”شاہی مسجد“ میں ظہر کی نماز کے بعد مختصر اصلاحی بیان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رمضان ۱۴۱۳ھ میں یہ خدمت احقر کے سپرد کی گئی۔ احقر نے مناسب سمجھا کہ روزانہ الگ الگ حدیث پر بیان کرنے کے بجائے پورے مہینہ کسی ایک باطن حدیث کو بنیاد بنا کر گفتگو کی جائے۔ تاکہ بیان کا تسلسل برقرار رہے۔ اور ہر روز پہلی بات دہرانے کی وجہ سے سامعین کے لئے یاد کرنا بھی آسان ہو۔ چنانچہ حدیث: ”استحيوا من الله“ الخ کو منتخب کر کے گفتگو شروع ہوئی اور ۲۷-۲۸ دن تک مسلسل اسی حدیث شریف کے متعلقات پر بیان ہوتا رہا، اس دوران احقر نے اپنی



﴿ اللہ سے علوم کھینچنے ﴾

ہے مگر سستی اور کاہلی کا غلبہ رہا۔ جسکی وجہ سے نعمتوں کا کچھ بھی حق ادا نہ ہو سکا۔ مگر اب تک کی تقریباً ۳۵ سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جن اعمال خیر کی توفیق بخشا ہے ان میں اس اصلاحی مضمون لکھنے کی سعادت کو احقر اپنے لئے سب سے زیادہ موجب نجات عمل تصور کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات سے کامل یقین ہے کہ یہ مضمون احقر کے لئے آخرت میں زاد راہ بنے گا۔ اور خود احقر کی غفلت کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

اس رب کریم کی شان بھی کیسی عجیب ہے کہ خیر کی توفیق مرحمت فرما کر خود ہی قبولیت سے بھی مشرف فرماتا ہے۔

اے اللہ! اس محنت کو خالص اپنی رضا کا ذریعہ بنا لے۔ اور ہم سب کے حق میں دارین میں صلاح اور فلاح اور عافیت کے فیصلے فرما دے۔ آمین۔

فقط واللہ الموفق

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۲/۲۱ھ



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### مقدمہ

از: حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری مدظلہ العالی  
خداوند قدوس جل مجدہ نے آقائے نامدار، سرکارِ دو عالم ﷺ کو خاتم النبیین بنا کر جن مقاصد عالیہ کے تحت مبعوث فرمایا ان میں اہم مقصد ترکیب ہے یعنی انسانوں کو اچھے اخلاق اختیار کرنے اور برے اخلاق سے دور رہنے کی تلقین کر کے بہترین، مہذب اور بااخلاق انسان بنانا، یہ کام اگرچہ تمام دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی اپنے اپنے زمانے میں انجام دیتے چلے آئے ہیں۔ مگر جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت اس کام کی تکمیل کرنے کے لئے ہوئی ہے چنانچہ آپ کا ارشاد ہے:

بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ

میں اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچانے کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں۔ (رواہ احمد بن ابی حریزہ)  
ایک صاحب ایمان کے لیے اخلاقِ حسنہ سے آراستہ ہونا کتنا ضروری ہے اس کو جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشاد مبارک میں یوں واضح فرمایا ہے:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

سب سے کامل درجہ کا مسلمان وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔

(رواہ ابو داؤد، والدارمی)

”خلقِ حسن“ اس ملکہِ راستہ کا نام ہے جس کی بناء پر اچھے اعمال آسانی کے ساتھ بلا تکلف صادر ہوتے ہیں اسلام میں پسندیدہ اخلاق کی ایک طویل فہرست جن میں صبر و شکر، صدق و امانت، خوش کلامی، نرم مزاجی، انس و محبت، زہد و قناعت، توکل و رضا، ایثار و قربانی، تواضع و خاکساری، احسان و سخاوت، رحم دلی وغیرہ شامل ہیں، مگر ان میں شرم و حیا کی خصلت بڑی اہمیت کی حامل ہے کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک حدیث پاک میں ایمان و حیا



کے درمیان بڑا گہرا تعلق بیان فرمایا ہے:

إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرْنَاءُ جَمِيعًا فَأَ إِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ  
حیا اور ایمان ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں جب ان میں سے ایک اٹھایا گیا تو دوسرا  
بھی اٹھایا گیا۔ (بیہقی)

یعنی اگر کسی شخص میں ”حیا“ نہیں پائی جاتی تو سمجھو کہ ایمان بھی نہیں پایا جاتا، اور  
ایک دوسری حدیث میں ہے کہ

إِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ.

حیا ایمان کا جز ہے۔ (منفق علیہ)

”حیا“ اس انفعالی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو اس بات کے اندیشہ کی وجہ سے  
لاحق ہوتی ہے کہ اس کام کے کرنے پر اس کو ملامت کی جائے گی یا اس کو سزا دی جائے  
گی۔ اور اصطلاح شریعت میں طبیعت انسانی کی اس کیفیت کا نام ہے جس سے ہر نا  
مناسب اور ناپسندیدہ کام سے اس کو انقباض اور اس کے ارتکاب سے اذیت ہو جو درحقیقت  
ایمان کا تقاضہ ہے اور دین اسلام کا امتیازی خلق ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ.

ہر دین کا امتیازی خلق ہوتا ہے اور دین اسلام کا امتیازی خلق حیا ہے۔ (ابن ماجہ بیہقی)

یعنی جناب رسول ﷺ کی شریعت میں حیا کے اختیار کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے کیوں کہ  
انسان کو برائیوں سے روکنے اور خوبیوں پر آمادہ کرنے میں شرم و حیا کو بڑا دخل ہے۔

مخلوق سے شرما کر برائیوں و فواحش و منکرات سے دور رہتا بھی اچھی خصلت ہے  
لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک حق سبحانہ و تعالیٰ سے شرم و حیا کرے،  
جو تمام محسنوں سے بڑا محسن ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اس کے ساتھ جس کا زیادہ  
احسان و کرم ہوتا ہے اسی سے زیادہ شرماتا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے سے باز  
رہتا ہے اسی لئے نبی کریم ﷺ نے ایک موقع پر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نصیحت

﴿ اللہ سے شرم کھجئے ﴾

فرمایا کہ:

اسْتَسْخُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

اللہ تعالیٰ سے اسکی جیا کرو جیسی اس سے جیا کرنی چاہئے۔

راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم

حاضرین نے عرض کیا کہ:

إِنَّا نَسْتَسْخِي مِنَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

ہم الحمد للہ، اللہ سے شرم کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا:

لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ الْأَسْتَسْخِيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ

الرَّاسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ

تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا وَآثَرَ الْآخِرَةِ عَلَى الْأُولَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَسْخَى مِنَ

اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. (ترمذی شریف)

جیا کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے جیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر

اور جن کو وہ جامع ہے (انکار و خیالات) انکی گنہداشت کرو اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا

ہو اسے (غنا وغیرہ) ان سب کی بھرائی کرو اور موت کو اور بوسیدگی کو یاد کرو، جو شخص آخرت

کو اپنا مصلحت نظر سمائے وہ دنیا کی شیب ٹاپ سے کنارہ کش رہے گا اور آخرت کی راحتوں کو

دنیا کی لذتوں پر ترجیح دے گا۔ جس شخص نے یہ سارے کام کر لئے سمجھو کہ وہ واقعی طور پر اللہ

سے جیا کرتا ہے۔

اس حدیث پاک میں جیاء ایمانی اور اس کے ثمرات و نتائج کو بڑے جامع و مختصر

انداز میں بیان فرمایا گیا ہے جن کی تفصیل و وضاحت کرنے کی توفیق عزیز مكرم جناب مولوی و

مختی سید محمد سلمان منصور پوری سلمہ استاذ حدیث و مفتی جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کو

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملی ہے۔

﴿ اللہ سے شرم کیجئے ﴾

آں عزیز کی زیر نظر تالیف ” اللہ سے شرم کیجئے “ میں قارئین کو ” حیا “ سے متعلق بہت سے مضامین یکجا مل جائیں گے جن کو پڑھ کر حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

خداوند کریم آں عزیز کی محنت کو شرف قبولیت سے نوازے، اور مسلمانوں کو اس تالیف سے استفادہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

احقر محمد عثمان منصور پوری عفی عنہ

۱۵ صفر ۱۴۲۳ھ



## تقریظ

حضرت مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی مدظلہ

الحمد لله الذي جعل الحياء شعبة من الايمان. والصلاة والسلام

على امام المتقين و خاتم الانبياء و على آله و صحبه. اما بعد!

حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری کی تازہ تصنیف بنام ”اللہ سے

شرم کیجئے“ سے اس خاکسار نے استفادہ کیا ہے۔

یہ کتاب اسلامی معاشرہ میں بڑھتی ہوئی بے حیائی اور عریانیت اور امریکہ اور یورپ کی فیشن پرستی کی اصلاح اور سدھار کے لیے نہایت قیمتی تحفہ ہے، اس وقت ہر مسلمان اور ایمان والے کے گھر میں اس طرح کی کتابیں ہونی ضروری ہیں، نیز اس قسم کی کتابیں ہندی اور انگلش میں شائع ہو کر نئے دور کے ہر مرد عورت کے مطالعہ میں ڈھنی چائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب موصوف سے وقت کی ضرورت کی اہم خدمت لی۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت سے نوازے اور موصوف کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین۔

شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ ذیقعدہ ۱۴۲۲ھ



## حرف آغاز

# اللہ سے شرم کیجئے

اسلام میں حیا کی اہمیت

حیا کا مستحق کون؟

حیا کا جذبہ کیسے پیدا ہو؟

ذکر اللہ

ار الحمد لله نحمده و نستعينه من يهده الله فلا مضل له و من يضل له فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريك له (مسلم شريف ۲۸۵۱)  
 و اشهد ان سيدنا و مولانا محمد أعبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله  
 و اصحابه و اهل بيته و ذرياته اجمعين.. اما بعد..

## الحياء من الله

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابان بن اسحق عن الصباح بن محمد عن مرة  
 الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله  
 ﷺ ذات يوم: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء قال قلنا يا رسول الله  
 : انا نستحي و الحمد لله قال: ليس ذلك ولكن من استحي من الله حق  
 الحياء فليحفظ الرأس و ما حوى و ليحفظ البطن و ما وعى. وليذكر  
 الموت و البلى. و من اراد الاخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد  
 استحي من الله عز وجل حق الحياء. (مسند احمد بن حنبل رقم ۳۶۷۱)

قال المحقق احمد محمد شاكر: اسناده ضعيف، ابان بن اسحق  
 الاسدي وثقه العجلي و ذكره ابن حبان في الثقات و ترجمه البخاري في  
 الكبير ۱ / ۴۵۳ فلم يذكر فيه جرحا الصباح بن محمد بن ابى حازم  
 فحلى الاحمسي ضعفه ابن حبان جدا. و قال كان ممن يروى  
 الموضوعات عن الثقات و هو غلو، و قال العقيلي في حديثه و هم و يرفع  
 الموقوف و قال الذهبي في الميزان رفع حديثين هما من قول عبد الله  
 يعني هذا و الذي بعده الخ (المستدبر تحقيق احمد محمد شاكر ۵۳۸/۳)

و قال المحقق محمد احمد عبد القادر عطا: الحديث، اورده  
 السيوطي في الجامع الصغير مع اختلاف يسير في اللفظ و عزاه لا حمد بن

﴿ اللہ سے شکر کیجئے ﴾ ﴿﴾

حنبل فی المسند والترمذی فی سننہ والحاکم فی المستدرک والبیہقی فی شعب الایمان عن قین مسعودؓ ورمز لصحتہ، ورواہ المناوی، وفی سندہ ابان بن اسحاق قال الازدی ترکوہ لکن وثقہ المعجلی عن الصباح بن مرة قال الذهبی فی المیزان:

والصبح واه، وقال المنذری: رواه الترمذی وقال غریب لا يعرف الامن هذا الوجه ای من حدیث ابان سب اسحق عن الصباح، وقال المنذری: ابان فیہ مقال، والصبح مختلف فیہ، وقالوا الصواب وقفہ، انظر الحدیث فی: سنن الترمذی ۲۴۵۸ ومسند احمد ۱/۳۸۷ والمستدرک ۳/۳۲۳ والمعجم الکبیر للطبرانی ۳/۲۴۶، والجمع الصغیر للطبرانی ۱/۱۷۷، ومشکاة المصابیح ۱/۶۰۸، والدر المنثور ۱/۲۶۳، ومجمع الزوائد ۱۰/۳۸۴، ومالی الشجرى ۲/۱۹۷، وحلیة والاولیاء ۱/۳۵۸ رقم: ۲۰۹۳، واتحاف اساحة المتقین ۳/۱۲۱، ۳۲۸۹-۳۲۹، وکنز العمال ۵۷۸۱، ۵۷۵۲، ۵۷۵۳، ۵۷۷۹، والمطالب العابیة ۱۵۶۲، والجامع الصغیر ۳/۹۷۳، وفیض القدیر ۱/۳۸۷ (مکارم الاخلاق لابن ابی الدنيا تعليق: محمد عبدالقادر عطاء، ص ۸۰)



## اسلام میں ”حیا“ کی اہمیت

حیا انسان کی فطری صفت ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ حیا دار ہوگا اتنا ہی وہ اپنے معاشرے میں باوقار سمجھا جائے گا اس لیے کہ حیا ایک خاص حالت کا نام ہے جو انسان کے دل میں ایمان کے سبب سے ہر برائی اور عیب کے کام سے شکر اور انقباض پیدا کرتی ہے۔

(معارف ۱۷۶)

شریعت اسلامی میں اس صفت کو نمایاں مقام حاصل ہے اور جناب رسول اللہ ﷺ نے امت کو اسکی نہایت تاکید فرمائی ہے۔ اس سلسلہ کی چند احادیث درج ذیل ہیں۔

۱۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ وَفِي رِوَايَةِ الْحَيَاءِ خَيْرٌ كُلُّهُ. (بخاری شریف ۲/۳۳۸)

حیا کا نتیجہ صرف خیر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حیا ساری کی ساری خیر ہی ہے۔ حضرت زید بن ظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ.

(بہقی فی شعب الایمان ۱۳۶/۶، حدیث ۸۸۱۶، مشکوٰۃ شریف ۲/۳۳۲)

ہر دین کی (خاص) عادت ہوتی ہے اور اسلام کی عادت حیا ہے۔

۳۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرْنَاءٌ جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ

الْآخَرُ. (بہقی فی شعب الایمان ۱۳۰/۶، حدیث ۷۷۲۷، مشکوٰۃ شریف ۲/۳۳۲)

حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھ جائے تو دوسرا بھی خود بخود اٹھ جاتا ہے۔



﴿ اللہ سے شکر کہنے ﴾ ﴿ ۳۵ ﴾

۴۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنْ بَمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَىٰ إِذَا لَمْ يَسْتَحْيِ  
فَأَصْنَعْ مَا شِئْتُ. (بخاری شریف ۹۰۳/۲، حدیث ۶۱۲۰، مشکوٰۃ شریف ۳۳۱/۲)

پہلے انبیاء کے کلام سے لوگوں نے یہ جملہ بھی پایا ہے کہ اگر تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔ (یعنی کوئی چیز تجھ کو برائی سے روکنے والی نہ ہوگی۔)

۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. (بخاری شریف ۶۱، حدیث ۹ مسلم شریف ۳۸/۱، مشکوٰۃ شریف ۳/۱)

حیا ایمان کا (اہم ترین) شعبہ ہے۔

۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَدَأُ مِنَ الْحَفَاءِ  
وَالْحَفَاءُ فِي النَّارِ. (ترمذی شریف ۲۱/۲، مشکوٰۃ ۳۳۱/۲)

حیا ایمان میں سے ہے۔ اور ایمان (یعنی اہل ایمان) جنت میں ہیں۔ اور بے حیائی بدی میں سے ہے اور بدی (والے) جہنمی ہیں۔

۷۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ.  
(ترمذی شریف ۱۸۷۲، عن انس العرہب والنزهب ۲۶۹/۳)

بے حیائی جب بھی کسی میں ہوگی تو اسے عیب دار ہی بنائے گی۔ اور حیا جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے مزین اور خوبصورت ہی کرے گی۔

۸۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿ اللہ سے شرم کھنے ﴾

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ عَبْدًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ فَاِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ اِلَّا مُقَيَّتًا مُّمَقَّتًا فَاِذَا لَمْ تَلْقَهُ اِلَّا مُقَيَّتًا مُّمَقَّتًا نَزَعَتْ مِنْهُ الْاِمَانَةَ فَاِذَا نَزَعَتْ مِنْهُ الْاِمَانَةَ لَمْ تَلْقَهُ اِلَّا خَائِنًا مُّخَوَّنًا فَاِذَا لَمْ تَلْقَهُ اِلَّا خَائِنًا مُّخَوَّنًا نَزَعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةَ فَاِذَا نَزَعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةَ لَمْ تَلْقَهُ اِلَّا رَجِيْمًا مُّلاَعِنًا فَاِذَا لَمْ تَلْقَهُ اِلَّا رَجِيْمًا نَزَعَتْ مِنْهُ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ.

(الترغيب و الترهيب ۲۰۱۳ء، ابن ماجہ شریف ۲۹۳ عن ابن عمر)

اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے حیا کی صفت چھین لیتا ہے۔ پس جب اس سے حیا نکل جاتی ہے تو وہ (خود) بغض رکھنے والا اور (دوسروں کی نظر میں) مبغوض ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ بغض و مبغوض ہو جاتا ہے تو اس سے امانت نکل جاتی ہے۔ جب اس سے امانت نکل جاتی ہے تو وہ خائن اور (لوگوں کی نظر میں) بددیانت ہو جاتا ہے۔ جب وہ خائن اور بددیانت ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سے رحم کا مادہ نکل جاتا ہے۔ جب اس سے رحمت نکلتی ہے تو وہ لاعن و ملعون ہو جاتا ہے پس جب لاعن اور ملعون ہوتا ہے تو اس سے اسلام کا پھندا (عہد) نکل جاتا ہے۔

الغرض برائیوں سے حیا اور شرم نہ صرف عام لوگوں بلکہ شریعت کے نزدیک بھی نہایت پسندیدہ عادت ہے۔ جو ہر مومن میں پوری طرح پائی جانی چاہئے مسلمان اگر اس صفت سے محروم ہو تو وہ کبھی کامل طور پر ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر سکتا۔

## حیاء کا مستحق کون؟

دیئے تو ہر انسان اپنے اندر کچھ نہ کچھ حیا اور شرم کا مادہ رکھتا ہے۔ یعنی وہ دوسرے انسانوں کے سامنے عموماً بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ اسے کوئی شخص برائی کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ اسی طرح اپنی بے عزتی کے خیال سے بہت سے لوگ برسر عام برائی سے بچتے رہتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کا داعیہ انسانوں سے شرم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جس سے دنیا میں بچاؤ کی بہت سی شکلیں موجود ہیں۔ مثلاً ستر کھولنا ایسا عمل ہے جو لوگوں کے سامنے حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا لیکن خلوت اور تنہائی

## ﴿ اللہ سے شرم کہنے ﴾

میں یہ عمل حیا اور مروت کے خلاف نہیں سمجھا جاتا وغیرہ۔ مگر اسلامی شریعت میں حیا سے مراد محض انسانوں سے حیا نہیں بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس اللہ عظیم و خیر سے شرم کرنے کی تلقین کرتا ہے جو ظاہر و پوشیدہ، حاضر و غائب ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اس سے شرم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جو فعل بھی اس کی نظر میں برا ہو اسے کسی بھی حال میں ہرگز ہرگز نہ کیا جائے اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اس کا پابند بنایا جائے کہ ان سے کسی بھی ایسے کام کا ضد ورنہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے شرم ماننے کے تقاضے کے خلاف ہو۔ اس سلسلے میں آنحضرت ﷺ نے امت کو واضح ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک مرتباً آپ ﷺ نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

اَسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوا إِنَّا نَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مَنِ اسْتَحْيَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ  
فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىٰ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ وَلْيَذْكَرِ الْمَوْتَ وَالْبَلِيَّ  
وَمَنْ آزَلَا إِلَّا حِمْرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا لَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَى مِنَ اللَّهِ  
حَقَّ الْحَيَاءِ. (حسب الامسان للبيهقي ۱۳۲/۶ مشکوٰۃ شریف ۱۳۰/۱ برمذی شریف

۸۶/۲، الترغیب و الترہیب ۳/۲۶۹)

اللہ تعالیٰ سے اتنی شرم کرو جتنی اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اے اللہ کے نبی! ہم اللہ سے شرم تو کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: یہ مراد نہیں بلکہ جو شخص اللہ سے شرم ماننے کے حق کو ادا کریگا تو (اسے تین کام کرنے ہونگے اول یہ کہ) اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جس کو سرنے جمع کیا اور (دوسرے یہ کہ) پیٹ کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جو پیٹ سے لگی ہوئی ہے اور (تیسرے یہ کہ) موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کرے اور (خلاصہ یہ ہے کہ) جو شخص آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے پس جو ایسا کریگا تو وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کریگا۔

اس واضح حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اللہ سے حیا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے محض زبانی دعویٰ کافی نہیں بلکہ اپنے جسم و روح اور خواہشات کو اطاعت خداوندی کے

رنگ میں رنگنا اور ہر حالت میں اللہ کی بندگی کا خیال رکھنا ضروری اور لازم ہے۔

## اللہ سے حیا کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟

اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا جذبہ کیسے پیدا کیا جائے؟ اس کے متعلق علماء عارفین کے درج ذیل اقوال انتہائی چشم کشا اور مفید ہیں۔

ملاحظہ فرمائیں:

۱- حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ ”اللہ کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنے سے جو درمیانی حالت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام حیا ہے۔“

(شعب الایمان ۱۳۷/۶)

۲- حضرت ذوالنون مصریؒ کا ارشاد ہے کہ ”جو چیز انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے پر آمادہ کرتی ہے وہ انعامات خداوندی کی معرفت اور اس کے مقابلے میں ان پر جو شکر گزاری واجب ہے اس کو کوتاہی کا احساس ہے، اس لئے کہ جس طرح اللہ کی عظمت بے حد و حساب ہے اسی طرح اس کے شکر کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ (عولہ ہالا ۱۳۷/۶)

۳- محمد بن فضلؒ فرماتے ہیں ”کہ حیا اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اولاً تم اپنے محسن کے احسانات کی طرف نظر کرو پھر یہ غور کرو کہ ان احسانات کے بدولت تم اپنے محسن کے ساتھ کیسی زیادتیاں کر رکھی ہیں؟ جب تم ان دونوں باتوں کا استحضار کرنے لگو گے۔ تو تمہیں انشاء اللہ حیا کی صفت سے سرفراز کیا جائے گا۔“ (عولہ ہالا ۱۳۷/۶)

ان اقوال کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اولاً اللہ تعالیٰ کی ان انمول اور بے حساب نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو ہم پر ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہیں، پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ اور ہم سے کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں؟ اس استحضار سے خود بخود ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارے لئے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہرگز مناسب نہیں جس سے ہمارے عظیم محسن کو ناگواری ہوتی ہو، اور اس کی نعمتوں کی ناقدری لازم آتی ہو، اسی احساس کا نام ”حیا“ ہے جو مومن کی اہم ترین امتیازی صفت ہے، اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرد کو صفت ”حیا“ سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔

## سر کی حفاظت

- ☆ شرک سے اجتناب
- ☆ تکبر سے پرہیز
- ☆ زبان کی حفاظت
- ☆ آنکھ کی حفاظت
- ☆ ستر پوشی کا اہتمام
- ☆ کان کی حفاظت
- ☆ داڑھی منڈوانا بھی بے شرمی ہے

## سر کی حفاظت

حدیث بالا میں پہلی ہدایت سر اور اس سے متعلق اعضاء کی حفاظت کی دی گئی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ سر کو محض جسمانی بیماریوں سے بچایا جائے اور دوا وغیرہ کے ذریعہ سے اسکی حفاظت کے طریقے اختیار کئے جائیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ سر اور اس سے متعلقہ اعضاء کو ہر اس برائی سے محفوظ رکھا جائے جس سے شریعت میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ مثلاً ہمارا سر اللہ کے دربار کے علاوہ کسی اور کے دربار میں نہ جھکے۔ ہماری آنکھیں ناجائز چیزوں کو نہ دیکھیں، ہمارے کان حرام آوازوں کو نہ سنیں۔ اور ہماری زبان ناجائز باتوں کا تلفظ نہ کرے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں ان چیزوں کی حفاظت پر مختلف انداز میں زور دیا گیا ہے۔ جس کی قدرے تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔

## شرک سے اجتناب

سر کی حفاظت کا اول عنصر یہ ہے کہ آدمی کا دماغ کسی بھی حال میں اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کا روادار نہ ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنانا یا سمجھنا اسلام کی نظر میں ناقابل معافی جرم ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

(سورہ نساء آیت: ۴۸: ۱۱۶)

بیشک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے۔

احادیث طیبہ میں سختی کے ساتھ شرک کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اور نہ صرف شرک حقیقی (یعنی معبود سمجھ کر غیر اللہ کو سجدہ کرنا وغیرہ) بلکہ شرک کے شائبہ (یعنی غیر اللہ سے معبود

﴿ اللہ سے شرم کھنے ﴾ ﴿ ۳۱ ﴾

جیسا معاملہ کرنے) سے بھی بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ مرض الوفا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو چند اہم ترین وصیتیں ارشاد فرمائیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ:

الْأَوَانُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ. إِلَّا أَفْلَاتِنْتُمْ خُذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. إِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

(مسلم شریف ۱/۱۰۱)

خبردار! تم سے پہلی امتوں کے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ خبردار! تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ میں تم کو اس کام سے روکتا ہوں۔

عام طور پر انبیاء یا اولیاء اللہ کو خدا نہیں سمجھا جاتا، اور نہ انہیں خدا سمجھ کر سجدہ کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی قبروں کو سجدہ کرنے سے نہایت شدت سے منع کر دیا گیا۔ اس لیے کہ یہ ظاہری طور پر شرک حقیقی کے مشابہ ہے۔ اور رفتہ رفتہ آدمی کے اندر شرک کے جراثیم کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا سر کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا اس بات کی متقاضی ہے کہ ہمارا سر اللہ تعالیٰ کے دربار کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، اور اللہ تعالیٰ جیسی تعظیم اور کسی کی نہ کی جائے۔

## ایک غلط فہمی کا ازالہ

آج کل قبروں کے سامنے سر جھکانے اور ماتھا ٹیکنے کا رواج عام ہے۔ جب لوگوں کو اس بد عملی سے منع کیا جاتا ہے اور ان کے سامنے وہ صحیح احادیث پڑھی جاتی ہیں جن میں قبروں کے سجدہ سے ممانعت کی گئی ہے تو ان میں سے بعض بے توفیق لوگ محض تلبیس کے لیے یہ ریکم تاویل کرتے ہیں کہ ”احادیث شریفہ میں جس سجدہ کی ممانعت وارد ہے وہ نماز والا سجدہ ہے۔“ یعنی قبروں کو ایسا سجدہ نہ کیا جائے جیسا نماز میں ہوتا ہے۔ لہذا ”نماز کے سجدہ کے علاوہ دوسری طرح سر جھکانا احادیث کی رو سے ممنوع نہیں ہے۔“ حالانکہ یہ تاویل بالکل بے اصل ہے۔ یہاں جو حکم سجدہ کا ہے وہی حکم رکوع یا کسی بھی طرح ماتھا ٹیکنے کا ہے۔ اور اس طرح کی کبھی عبادات جیسی حرکتیں غیر اللہ کے لیے ناجائز اور حرام ہیں۔ خود

﴿اللَّهُ يَسِّرُ لِلرُّعُومِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

فقہاء احناف نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ چنانچہ فقہ کی مشہور کتاب درمختار میں لکھا ہے:

وَكَذَا مَا يَفْعَلُونَهُ مِنْ تَقْبِيلِ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ  
فَحَرَامٌ وَالْفَاعِلُ وَالرَّاضِي بِهِ الثَّمَانِ، لِأَنَّهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الرَّثَنِ. وَهَلْ يُكْفَرُ؟ إِنْ  
عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَالْتَعْظِيمِ كُفْرٌ وَإِنْ عَلَى وَجْهِ التَّحِيَةِ لَا. وَصَارَ الثَّمَانُ مُرْتَكِبًا  
لِلْكَبِيرَةِ. (در مختار)

اور اسی طرح جو جاہل لوگ علماء اور سربراہان اور وہ حضرات کے سامنے زمین چومنے کا  
عمل کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ اور اس عمل کا کرنے والا اور اس سے راضی ہونے والا دونوں  
گنہگار ہیں اس لیے کہ یہ بت کی عبادت کے مشابہ ہے۔ اور کیا اسکی تکفیر کی جائے گی؟ تو اگر  
عبادت اور تعظیم کی نیت سے ہو تو تکفیر ہوگی اور اگر محض احترام کے طور پر ہو تو تکفیر تو نہ  
ہوگی۔ مگر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔

اس پر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَفِي الزَّاهِدِي: الْإِيْمَاءُ فِي السَّلَامِ إِلَى قَرِيبِ الرُّكُوعِ كَمَا لِسُجُودٍ وَفِي  
الْمُحِيطِ: أَنَّهُ يَكْفَرُ الْإِنْحِنَاءَ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرٌ كَلَامُهُمْ إِطْلَاقَ  
السُّجُودِ عَلَى هَذَا التَّقْبِيلِ.

(شامی بیروت ۳۶۸/۹) کتاب الحظر والاباحہ، قبل فصل فی البیع، شامی کراچی ۳۸۳/۶

اور فتاویٰ زاہدی میں ہے کہ رکوع کے قریب تک جھک کر سلام کرنا بھی سجدہ ہی  
کے حکم میں ہے اور محیط میں ہے کہ بادشاہ کے سامنے جھکتا مکروہ تحریمی ہے۔ اور فقہاء کے  
ظاہر کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی تقبیل پر سجدہ ہی کا حکم لگایا گیا ہے۔

بہر حال فقہاء کی یہ عبارت سے یہ طے ہو گیا کہ ممانعت صرف نماز جیسے سجدہ تک  
محدود نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح بھی حد سے زیادہ تعظیم کی جائے اور عبادت کی صورت اپنائی  
جائے وہ غیر اللہ کے سامنے ممنوع ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اللہ سے شرم کریگا وہ اپنے سر کو  
کبھی بھی قبروں وغیرہ کے سامنے جھکانے کی جسارت نہ کر سکے گا۔



## شُرکِ خفی

شُرک کی ایک قسم اور ہے جسے شُرکِ خفی یا ریا کاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسکے یہ معنی ہیں کہ اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے تاکہ کوئی دوسرا شخص اس سے خوش ہو۔ یا اس کا کوئی دنیوی مطلوب شہرت و عزت، دولت وغیرہ اس کے ذریعہ حاصل ہو جائے۔ شریعت کی نظر میں یہ عمل اگرچہ کفر و شرک کے درجہ کا نہیں، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نہایت مبغوض ہے، اور انسان کی ساری محنت کو اکارت کر دیتا ہے۔ اس بارے میں آنحضرت ﷺ کے بعض ارشادات مبارکہ ذیل میں درج ہیں:

۱۔ مَنْ تَزَيْنَ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَهُوَ لَا يُرِيدُهُمَا وَلَا يَطْلُبُهَا لِنَفْسِهِ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. (الرغیب ۳۲/۱ عن ابی ہریرہ)  
جو شخص آخرت کے عمل کو مزین کرے در انحالیکہ وہ آخرت کا طالب نہ ہو تو اس پر  
آسمان و زمین میں لعنت کی جاتی ہے۔

۲۔ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ طُمَسَ وَجْهُهُ وَمُحَقِّ ذِكْرُهُ وَاتَّبَتْ  
اسْمُهُ فِي النَّارِ. (الرغیب و الترغیب ۳۲/۱ عن الجارود)  
جو آخرت کے کسی عمل سے دنیا کا طالب ہو اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی  
ہے۔ اسکا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔

۳۔ مَنْ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ وَأَسَاءَهَا حَيْثُ يَخْلُو فِتْلَكَ  
اسْتِهَانَةً اسْتِهَانَ بِهَا رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (الرغیب و الترغیب ۳۳/۱ عن ابن مسعود)  
جو شخص نماز کو اس لیے اچھا پڑھے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور جب تنہائی میں  
جائے تو نماز خراب پڑھے (آداب و شرائط کا لحاظ نہ رکھے) تو یہ ایسی اہانت ہے جسکے  
ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے۔

۴۔ مَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ  
تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ. (الرغیب و الترغیب ۳۳/۱ عن حداد بن اوس)

جس نے ریا کے قصد سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھا دے کے لیے نماز پڑھی اسے شرک کیا اور جس نے شہرت کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔

۵۔ الشِّرْكَ الخَفِيُّ اَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ فَيَزِيْنُ صَلَوَتَهُ لِمَا يَرِي مِنْ

نَظْرِ رَجُلٍ (من ماجہ ۳۱۰، الترغیب والترہیب ۳۳/۱ عن ابی سعید الخدری)

شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور جب یہ دیکھے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوب اچھی کر دے۔

۶۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ اِقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا شِرْكَ

السَّرَائِرِ؟ قَالَ: يَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ فَيَزِيْنُ صَلَوَتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرِي مِنْ

نَظْرِ النَّاسِ اِيَّهِ فَذَلِكَ شِرْكَ السَّرَائِرِ.

(الترغیب والترہیب ۳۳/۱ عن محمود بن لیبث)

اے لوگو! چھپے ہوئے شرک سے بچتے رہو، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو لوگوں کے اسکی طرف دیکھنے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو خوب کوشش کر کے مزین کرے تو یہ پوشیدہ شرک ہے۔

۷۔ اِنْ اَخْوَفَ مَا اَخَافَ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْاَصْفَرُ قَالُوْا وَمَا الشِّرْكَ

الْاَصْفَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرِّبَاءُ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِذَا جَزَى النَّاسَ

بِاَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوْا اِلَى الدِّيْنِ كُنْتُمْ تُرَاوِنُوْنَ فِى الدُّنْيَا فَاَنْظُرُوْا هَلْ

تَجَلُوْنَ عَنْتُمْ جَزَاءً. (الترغیب والترہیب ۳۳/۱)

میں سب سے زیادہ تم پر جس بات کا اندیشہ کرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے صحابہؓ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا یہ ربا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ انہی لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دنیا میں تم (اپنی عبادت) دکھاتے تھے تو دیکھو کیا تم انکے پاس کوئی بدلہ پاؤ گے۔

﴿ اللہ سے شرم نہ ہونے ﴾

۸۔ اَمَّا اِنَّهُمْ لَا يَعْزُبُونَ عَنْهُمْ وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجْرًا وَلَا وِتْرًا لَكِنْ يَرَاءُ وْنَ  
بِاَعْمَالِهِمْ. وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ اَنْ يُضْبَحَ لِحُلَّتِهِمْ صَائِمًا فَتَعْرِضَ لَهُ  
شَهْوَةٌ مِنْ شَهْوَاتِهِ فَتَرْكَ صَوْمَهُ. (مشکوٰۃ شریف ۳۵۱، ۲)

(امت میں شرک رائج ہونے کی بابت پوچھنے پر آپ نے ارشاد فرمایا) کہ وہ لوگ  
سورج (چاند) پتھر اور بت کی پوجا تو نہیں کریں گے لیکن اپنے اعمال میں ریا کاری کریں گے  
(یہی شرک ہے) اور پوشیدہ شہوت کہ کوئی آدمی صبح کو اس حالت میں اٹھے کہ وہ روزے دار ہو  
پھر شہوتوں میں سے کوئی شہوت اسکے سامنے آجائے جس کی بناء پر وہ اپنا روزہ چھوڑ دے

۹۔ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ حُبِّ الْحَزَنِ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا حُبُّ الْحَزَنِ؟  
قَالَ: وَاِدْفِيْ جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمَ كُلُّ يَوْمٍ اَرْبَعٍ مِّائَةً مَّرَّةً قِيْلَ  
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَذْخُلُهَا؟ قَالَ: اُعِدُّ لِلْقَرَاءِ الْمَرَاتِيْنَ بِاَعْمَالِهِمْ.

(الترغیب والترہیب ۳۳۱)

اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہو۔ حُبُّ الْحَزَنِ (غم کی گھاٹی) سے۔ صحابہ نے عرض  
کیا اے رسول اللہ جب الحزن کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ایسی وادی  
ہے جس سے خود جہنم ہر دن چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ: اے اللہ کے  
رسول اس میں کون لوگ داخل ہونگے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ریا کار قاریوں کے لیے اسے  
تیار کیا گیا ہے۔

یہ ارشادات عالیہ ہماری تعبیر کے لیے کافی ہیں کہ ہمیں اپنے سر کو ہر اس عمل و  
عقیدے سے محفوظ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کے تقاضے کے متافی ہو۔  
ریا کاری اور عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا درحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ  
کیساتھ نہایت بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ سے حیا کرنے میں سب  
سے اول جس چیز کو ذکر کیا گیا وہ سر اور اس سے متعلقہ چیزوں کو محرمات سے محفوظ رکھنا ہے۔



## دوسری فصل

### تکبر سے پرہیز

سر کی حفاظت کا دوسرا عنصر اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا ایک اہم تقاضہ یہ ہے کہ ہمارا سر اور ہمارا دماغ کبر و خود نمائی کے مہلک جذبات و جرائم سے پوری طرح پاک ہو۔ کبریائی صرف اور صرف ذات خداوندی کو زیب دیتی ہے۔ قرآن کریم کلمے لفظوں میں اعلان کرتا ہے:

۱- وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

(سورہ جالبہ آیت ۳۷)

اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست،

حکمت والا۔

زمین پر اڑ کر چلنا اور سر کو تکبر انداز میں ہلانا جلانا، قرآن وحدیث کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا:

۲- وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلًا. (سورہ ہی اسرائیل ۳۷)

اور مت چل زمین پر اڑتا ہوا تو پھاڑ نہ ڈالے گا زمین کو اور نہ پہنچے گا پہاڑوں

تک لہا ہو کر۔

۳- وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

(سورہ لقمان آیت ۱۹)

اور مت چل زمین پر اڑتا ہوا، بیشک اللہ کو نہیں بھاتا کبریائی اتراتا بڑائیاں کرنے والا۔

اور آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

۱- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ لِزَارِي فَمَنْ نَازَ عَنِي وَاحِدًا

مِنْهُمَا قَدْ فُتِحَتْ فِي النَّارِ. (ابوداؤد ۲۵۱۶/۲۵۱۶ عن ابی ہریرۃ مسلم ۳۲۹/۲۳۲۹)

(۳۰۸)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے۔ جو ان میں سے کوئی چیز بھی مجھ سے لینے کی کوشش کریگا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔

۲۔ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرِيَاءٍ. (مسلم ۵۱۵۱)

۱ عن عبد اللہ بن مسعود ترمذی ۲۰۰۲/۲۰۰۲ مشکوٰۃ ۳۳۳/۲

کوئی بھی ایسا شخص جنت میں نہ جاسکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔

۳۔ يُخْشِرُ الْمُتَكَبِّرُونَ أَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَفْشَاهُمْ

الدُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُونَ إِلَى مِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يَسْمَى

”بَوْلَسٌ“ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْبَارِ يُسْقُونَ مِنْ عَصَاةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ

الْخَبَالِ. (ترمذی عن عمرو بن شعيب عن ابیہ عن جلدہ مشکوٰۃ ۳۳۳/۲، العریب

۳۵۵/۳)

تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں جمع کیا جائیگا

ذلت ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوگی، انکو جہنم کے قید خانہ کی طرف لپکایا جائے گا جس کا نام

”بولس“ ہوگا ان پر ”آگوں کی آگ“ بلند ہوگی۔ اور انہیں دوزخیوں کے زخموں کا چھوڑ

(خون پیپ وغیرہ) پلایا جائے گا جس کا نام ”طینۃ الخبال“ ہوگا۔

۴۔ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِينَ لِيُصِيبَهُ مَا

أَصَابَهُمْ. (ترمذی شریف ۲۰۰۲/۲۰۰۲ عن سلمۃ الاوعج)

آدی برابر اپنے نفس کو (تکبر کی جانب) کھینچتا رہتا ہے تا آنکہ اسکا نام سرکشوں میں

لکھ دیا جاتا ہے۔ پس اسے بھی وہی (عذاب) ہوگا جو ان تکبرین کو ہوگا۔

۵۔ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ مُبْحَانَهُ دَرَجَةٌ يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ اللَّهُ فِي

أَعْلَىٰ عِلِّيِّينَ وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً يَضَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً حَتَّىٰ

يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ سَافِلِينَ. (ابن ماجہ ۳۰۸، الترغیب والترہیب ۳/۳۵۱)

جو اللہ کے لیے ایک درجہ انکساری کرے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے تا آنکہ اسے عِلِّيِّین میں اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جو اللہ پر ایک درجہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ گھٹاتا ہے۔ حتیٰ کہ اسے جہنم کے سب سے نچلے درجہ پہنچا دیتا ہے۔

۶- إِيَّاكُمْ وَالْكِبْرَ فَإِنَّ الْكِبْرَ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَإِنَّ عَلَيْهِ الْعِبَاءَ. (رواہ

الطبرانی عن عبد اللہ بن عمر، الترغیب والترہیب ۳/۳۵۲)

تکبر سے بچتے رہو۔ اس لیے کہ تکبر آدمی میں پایا جاتا ہے اگرچہ اس پر (بزرگی کا) چوڑھ ہو۔

۷- بَيْنَمَا رَجُلٌ وَمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَجْرُ إِزَارَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ خُسِيفَ بِهِ فَهَوَّ

يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (نسائی شریف ۲/۲۹۸ عن عبد اللہ بن

عمر، الترغیب والترہیب ۳/۳۵۶)

تمہارے سے پہلی امتوں کا ایک شخص تکبر کی بناء پر اپنا تہبند لٹکا تا تھا تو اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنسا ہی چلا جا رہا ہے۔

۸- مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخاری شریف

۲/۸۶۰ عن عبد اللہ بن عمر، حدیث ۵۷۸۵، الترغیب والترہیب ۳/۳۵۷)

جو شخص بڑائی کی وجہ سے اپنے کپڑے (ٹخنے سے) نیچے لٹکائے تو اللہ قیامت کے دن اس طرف رحمت کی نظر نہ فرمائے گا۔

۹- مَنْ تَعَطَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوْ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَهُوَ

عَلَيْهِ غَضَبَانُ. (رواہ الطبرانی عن ابن عمر، الترغیب والترہیب ۳/۳۵۷)

جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور چال میں تکبر کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا۔

حاصل یہ ہے کہ تکبر اور خود پسندی ایسی بدترین خصلت ہے، جو انسان کو دنیا، آخرت کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور پھر اللہ کے مقابلہ میں تکبر کرنا نعوذ باللہ نہایت بے حیائی اور دیدہ دلیری کی بات ہے۔ اس لیے اپنے دماغ کو اس ناسور سے محفوظ رکھے بغیر اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ہر اعتبار سے تواضع اور انکساری کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تواضع کے ذریعہ انسان بلندی کے ناقابل تصور مقام تک پہنچ جاتا ہے اور تکبر کی وجہ سے اگرچہ خود کو کتنا ہی بڑا سمجھتا رہے مگر لوگوں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے بدتر ہو جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ۴۳۴۲) اللہ تعالیٰ اس منحوس برائی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی ذاتِ کامل سے حیاء کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔



## تیسری فصل

## زبان کی حفاظت

حدیث بالا میں سر کی حفاظت ہی کو حیا کا مدار قرار نہیں دیا گیا بلکہ ”فَلْيَبْحَثْ رَأْسَ الْرَأْسِ وَمَا وَعَى“ کے الفاظ لاکر بتایا گیا کہ سر کے متعلق جو اعضاء و جوارح ہیں، اور جن سے کسی فعل اور تصرف کا صدور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کے لیے انہیں بھی معافی اور منکرات سے بچانا اور محفوظ رکھنا ضروری اور لازم ہے۔

سر کے متعلقہ اعضاء میں انسان کی زبان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ چھوٹی سی زبان اگر راستی پر چلتی رہے تو عظیم القدر درجات کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے۔ اور اگر زبان ہی بے حیا بن جائے اور اللہ رب العزت کے خوف سے بے نیاز ہو کر ممنوع کلمات صادر کرتی رہے تو انسان کے لیے حد درجہ شقاوت اور محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں:

إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكْفُرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: أَتَيْتِ اللّٰهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اغْوَتْ جَاجَتْ إِغْوَتْ جَاجْنَا.

(ترمذی شریف ۶۶۱۲، بیہقی فی شعب الایمان ۲۳۳/۳ حدیث ۲۹۳۶، مشکوٰۃ شریف ۳۱۳/۲)

جب آدمی صبح سو کر اٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے اللہ سے ڈرتی رہ! اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی رہے تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہوں گے۔

معلوم ہوا کہ زبان کو قابو میں رکھنا اللہ سے حیا کا حق ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ بغیر اس کے شرم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر نبی برحق، رسول اکرم ﷺ نے نہایت تاکید کے ساتھ زبان کی حفاظت کی ترغیب دی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

۱- مَنْ صَمَّتْ نَجَا. (بیہقی فی شعب الایمان ۲۵۴/۳ حلیت ۲۹۸۳)



جو (غلط بات کہنے سے) خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔

۲۔ ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ نجات کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا:

أَمَلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَعُكَ بَيْتُكَ وَابْنُكَ عَلِي

خَطِيئَتِكَ. (ترمذی ۶۶/۲ بیہقی فی شعب الایمان ۱/۳۹۲ حدیث ۸۰۵)

اپنی زبان قابو میں رکھو، اور تمہارا گھر تمہیں گنجائش دے (بلا ضرورت وہاں سے نہ نکلو) اور اپنی غلطی پر رو یا کرو۔

۳۔ حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ میرے اوپر سب سے زیادہ کس بات کا خوف کرتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی زبان پکڑی اور (اور اس کی طرف اشارہ کر کے) فرمایا: هَذَا (ترمذی شریف ۶۶/۲، مشکوٰۃ شریف ۴/۳۱۳) یعنی سب سے زیادہ خطرہ کی چیز یہ زبان ہے۔

۳۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَقَامُ الرَّجُلِ لِلصُّمْتِ الْفَضْلُ مِنْ عِبَادَةِ مِثْلَيْنِ سَنَةً. (مشکوٰۃ ۲/۳۱۳ عن

عمران بن حصین بیہقی فی شعب الایمان ۳/۲۳۵ حدیث: ۳۹۵۳)

انسان کا خاموشی کو اختیار کرنے کا مرتبہ ساٹھ سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔

۵۔ ایک موقع پر آپ ﷺ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

يَا أَبَادِرُ! أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخْفَى عَلَى الظُّهْرِ وَالثَّقَلِ فِي المِيزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: طَوْلُ الصُّمْتِ وَحُسْنُ الخُلُقِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الخَالِقُ بِمِثْلِهِمَا. (مشکوٰۃ شریف ۲/۳۱۵،

بیہقی فی شعب الایمان ۳/۲۳۲ حدیث: ۳۹۴۱)

اے ابو ذر کیا میں تمہیں ایسی دو عادتیں نہ بتاؤں جو پیٹھ پر ہلکی (یعنی کرنے میں آسان) اور میزانِ عمل میں بھاری ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا (۱) لمبی خاموشی۔ (۲) خوش اخلاقی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ مخلوق نے ان دونوں عادتوں سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کیا۔

۶۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ يُضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لُحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ. (بخاری شریف ۹۵۸/۲ عن سہل بن سعد)

جو شخص مجھ سے اس چیز کی ضمانت لے لے جو اس کے دو جڑوں کے درمیان ہے (یعنی زبان) اور اس چیز کی جو اس کے پیروں کے درمیان ہے (یعنی شرمگاہ) تو اسکے لیے جنت کی میں ضمانت لیتا ہوں۔

۷۔ نبی اکرم ﷺ نے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

اتَلَدُرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ تَقْوَى اللَّهِ وَحَسَنُ الْخُلُقِ، اتَلَدُرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ الْأَجْوَفَانِ: الْفَمُّ وَالْفَرْجُ. (رواہ الترمذی عن ابی ہریرۃ مشکوٰۃ ۳۱۲/۲)

کیا تم جانتے ہو کیا چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جنت داخل کرے گی؟ وہ اللہ کا تقویٰ اور خوش اخلاقی ہے۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے سب سے زیادہ کیا چیز لوگوں کو جہنم میں پہنچائے گی؟ وہ دو درمیانی چیزیں یعنی منہ اور شرمگاہ ہیں۔

۸۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آنحضرت ﷺ کی یہ نصیحت بھی نقل کی گئی ہے۔

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

(بخاری شریف ۹۵۹/۲)

جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات

کہے ورنہ خاموش رہے۔

۹۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد نبوی ﷺ نقل فرماتے ہیں:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّهُ لَهَا بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ. (مشکوٰۃ ص ۱۲۲/۲)

بیشک آدمی کوئی خیر کی بات زبان سے نکالتا ہے مگر اس کے درجہ کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کلمہ کے ذریعے اس کے لیے قیامت تک اپنی رضا کو لکھ دیتا ہے۔ اور آدمی کوئی برا کلمہ کہتا ہے اسکے درجہ کو بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسکی وجہ سے قیامت تک اس سے اپنی ناراضی مقرر فرما دیتا ہے۔

یہ ارشادات مبارکہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کس قدر بہتم بالشان اور ضروری امر ہے، جس کا لحاظ رکھے بغیر اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا حق ہرگز ادا نہیں ہو سکتا۔

## زبان کی آفتیں

زبان کے ذریعہ جن گناہوں کا صدور ہوتا ہے، یا زبان جن معاصی کے ارتکاب کا ذریعہ بنتی ہے وہ بے شمار ہیں، ان سب کو تحریر میں لانا دشوار ہے۔ تاہم امام غزالی نے احیاء العلوم میں زبان کے گناہوں کو ۲۰ عنوانوں میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ جن میں انسان زبان کے ذریعہ جتلا ہوتا ہے۔ ذیل میں وہ گناہ ترتیب وار پیش ہیں:

- (۱) بے ضرورت کلام کرنا۔
- (۲) ضرورت سے زائد بات کرنا۔
- (۳) حرام چیزوں کا تذکرہ کرنا (مثلاً فلم کی اسٹوری، فاسقوں کی مجلسوں کا ذکر وغیرہ)
- (۴) جھگڑا کرنا۔
- (۵) دوسرے کی حقارت کی غرض سے شور مچانا۔

- (۶) کالم گلوچ اور خوش کلامی کرنا۔
- (۷) مشار مشار کر بات چیت کرنا۔
- (۸) دوسرے پر لعن طعن کرنا۔
- (۹) ناجائز مذاق کرنا۔
- (۱۰) گانا اور غلط اشعار پڑھنا۔
- (۱۱) دوسرے کا استہزاء کرنا۔
- (۱۲) کسی کا راز ظاہر کرنا۔
- (۱۳) جھوٹا وعدہ کرنا۔
- (۱۴) جھوٹ بولنا۔
- (۱۵) کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔
- (۱۶) چغلی کھانا۔
- (۱۷) دوغلی باتیں کرنا۔
- (۱۸) غیر مستحق کی تعریف کرنا۔
- (۱۹) اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا۔
- (۲۰) عوام میں ایسی دینی باتیں بیان کرنا جو ان کی سمجھ سے باہر ہوں (مثلاً تقدیر اور ذات و صفات خداوندی سے متعلق گفتگو کرنا وغیرہ)۔ (احیاء العلوم جلد نمبر ۳)
- یہ سب گناہ ایسے ہیں جو عموماً زبان ہی کی بے احتیاطی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کرنے کے لیے اپنے کو ان سب منکرات سے بچانا ضروری اور لازم ہے۔



## جھوٹ

زبان کے ذریعہ سے سب سے زیادہ جس گناہ کا ارتکاب کر کے بے حیائی کا ثبوت دیا جاتا ہے وہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔

قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ ارشاد ہے:

فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. (سورۃ آل عمران آیت ۶۱)

پس لعنت کریں اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں۔

اور احادیث مبارکہ میں مختلف انداز سے اس گناہ کی شناخت کو بیان فرمایا گیا ہے

(۱) ایک اور حدیث میں ہے:

إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِثْلًا مِنْ نَحْوِ مَا جَاءَ بِهِ. (رواہ

الترمذی ۱۸۰۲)

جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کلمہ کی بدبو کی وجہ سے جو اس نے بولا ہے رحمت کا

فرشتہ اس سے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔

(۲) رسول اکرم ﷺ نے سچائی کو اختیار کرنے اور جھوٹ سے بچنے کی نہایت تاکید فرمائی

ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے

ارشاد فرمایا۔

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى

الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ

صِدْقًا. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي

إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ

كَذَابًا. (متفق علیہ مشکوٰۃ شریف ۲/۳۱۲)

سچ کو اختیار کرو، اس لیے کہ سچ بولنا سبکی کی طرف لجاتا ہے، اور سبکی جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا متلاشی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچتے رہو۔ اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور فسق و فجور جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو متلاش کرتا رہتا ہے تا آنکہ اللہ کے یہاں اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔

(۳) ایک مرتبہ اپنے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپ کو آسمان پر لے گئے ہیں، وہاں آپ نے دو آدمیوں کو دیکھا، ایک کھڑا ہوا ہے اور دوسرا بیٹھا ہوا ہے۔ کھڑا ہوا آدمی بیٹھے ہوئے آدمی کے گلے کو لوہے کی زنجیر سے گدی تک کاٹتا ہے، پھر دوسرے گلے کو اسی طرح کاٹتا ہے، اتنے میں پہلا کلاٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ عمل برابر جاری ہے۔ آپ نے اپنے ساتھی فرشتوں سے دریافت کیا تو انھوں نے جواب دیا:

اَلَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذِبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْاَفَاقَ فَيُضَنَعُ بِهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (بخاری شریف ۱۸۵۱/۲، ۴۰۰۷)

جس کو اپنے دیکھا کہ اس کے گلے حیرے جا رہے ہیں وہ ایسا بڑا جھوٹا ہے جس نے ایسا جھوٹ بولا کہ وہ اس سے نقل ہو کر دنیا جہاں میں پہنچ گیا، لہذا اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ کیا جاتا رہے گا۔

(۴) رسول اکرم ﷺ نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے ممانعت فرمائی۔ بلکہ ایسے شخص کے لیے تین مرتبہ بددعا فرمائی ہے۔

وَيَلِّ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ، وَيَلِّ لَهُ، وَيَلِّ لَهُ.

(رواہ احمد والترمذی مشکوٰۃ شریف ۲/۳۱۳)

جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے بربادی ہو، بربادی ہو، بربادی ہو۔

آج کل عام لوگ ہنسانے کے لیے نئے نئے چکلے تیار کرتے ہیں۔ اور محض اس لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں، انہیں آنحضرت ﷺ کا مذکورہ بالا ارشاد اپنے پیش نظر

رکھنا چاہیے اور اس برے فعل سے باز آنا چاہیے۔

(۵) رسول اکرم ﷺ نے جھوٹ بولنے کو بڑی خیانت قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے:

كَبْرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ

بِهِ كَاذِبٌ. (رواہ ابوداؤد مستحکمة ۲/۴۱۳)

یہ بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے ایسی گفتگو کرے جس میں وہ تجھے سچا

سمجھتا ہو حالانکہ تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔

(۶) جھوٹ بولنے کو منافق کی خاص علامتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں

ارشاد نبوی ﷺ ہے:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمِنَ

خَانَ. (بخاری شریف ۲/۹۰۰ و مسلم شریف ۱/۵۶)

منافق کی تین (خاص) نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب

وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اسے امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔

(۷) ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے سچ کو جنت کی ضمانت قرار دیتے ہوئے ارشاد

فرمایا:

إِضْمَنُوا لِي مِمَّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنَ لَكُمْ الْجَنَّةَ. أَصْدَقُوا إِذَا

حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا أُوْتِمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغَضُّوا

أَبْصَارَكُمْ، وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ: (بہقی فی شعب الایمان ۳/۲۰۳ - ۲۲۰ حدیث

۳۸۰۲ - ۵۲۵۶ عن عبادة بن الصامت)

تم مجھ سے اپنی طرف سے چھ باتوں کی گارنٹی لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی

ضمانت لیتا ہوں۔ (۱) جب بات کر دو تو سچ بولو۔ (۲) جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ (۳) اپنی

امانت کو ادا کرو۔ (۴) اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ (۵) اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ (۶) اور

اپنے ہاتھوں کو (ظلم سے) روکے رکھو۔

(۸) آنحضرت ﷺ نے سچ بولنے کو ان اعمال میں شمار فرمایا جو محبت خدا اور رسول کی نشانی ہیں، آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَلْيُصَدِّقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أُوْتِمِنَ وَلْيُحْسِنُ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ.

(بیہقی فی شعب الایمان ۲۰۱/۲ حدیث ۱۵۳۳)

جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اسکے رسول سے محبت کرے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ جب بولے سچ بولے، اور جب اسے کوئی امانت سپرد کی جائے تو اسے ادا کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔

(۹) اسی طرح جھوٹ سے بچنے پر آنحضرت ﷺ نے جنت کی ضمانت لی ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا ہے:

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتِ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ

مَا زِيحًا. (الترغيب والترهيب ۳۶۳۳ بیہقی فی شعب الایمان ۳۱۷۳ حدیث ۵۲۳۳ عن ابی امامہ)

میں اس شخص کے لیے بیچ جنت میں گھر کی کفالت لیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے

اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔

## سچ میں ہی نجات ہے

واقعہ یہ ہے کہ جھوٹ سے بچنا اور ہر معاملہ میں سچ کو اختیار کرنا تقرب خداوندی کا

ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس صفت کی بدولت انسان میں واقعۃً اللہ رب العالمین سے شرم و حیا

کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور خیرات کی توفیق عطا ہوتی ہے، اس کے برخلاف جھوٹ

کے معاملے میں لاپرواہی برتتا سخت نقصان اور محرومی کا سبب ہے، جھوٹ سے وقتی طور پر کوئی

دنیاوی فائدہ تو اٹھایا جاسکتا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے وہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اور

سچ بول کر ہو سکتا ہے وقتی کچھ نقصان محسوس ہو لیکن اس کا نتیجہ اخیر میں ہمیشہ اچھا اور مفید ہی

برآمد ہوتا ہے۔



آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

تَحَرُّوا الصِّدْقَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ الْهَلَكَةَ فِيهِ فَإِنَّ فِيهِ النِّجَاةَ. (ترغیب

والترہیب ۳/۶۵۳ عن منصور بن المعتمر)

سچ کو تلاش کرو، اگر چہ اس میں تمہیں ہلاکت معلوم ہو، اس لیے کہ نجات اسی (سچ

بولنے) میں ہے۔

اسلامی تاریخ میں غزوہ تبوک میں بلاعذر شرکت نہ کرنے والے نکلے صحابہ

(حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن الربیع اور حضرت ہلال بن امیہ) کا نام سہرے

حروف سے نقش ہے جنہوں نے سچ کو اختیار کر کے صحیح صحیح معاملہ آنحضرت ﷺ کو بتلادیا تھا

جس کی وجہ سے اگرچہ انہیں پچاس دن بائیکاٹ کی تکلیف جھیلنی پڑی، لیکن آخر کار ان کی توبہ

کی قبولیت کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیات (وَعَلَى السَّلَاةِ الَّذِينَ خَلَعُوا

السُّخْرَ) نازل ہوئیں، اور انہیں ان کی سچائی کی بنا پر رب بیزدی کی جانب سے رحمت و مغفرت

کا تمغہ عطا کیا گیا، اور جن منافقین نے جھوٹے عذر پیش کر کے جھاپہ اپنی جان چھالی تھی اللہ

تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے جہنمی ہونے کا اعلان فرمایا۔ (تفسیر شریف ۳/۷۷۷)

تجربہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جھوٹے آدمی کا اعتماد لوگوں میں مجروح ہو جاتا

ہے، اور لوگ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو جھوٹ سے زیادہ کوئی صفت ناپسند نہ تھی۔

(الترغیب والترہیب ۳/۷۷۷)

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مومن میں ہر صفت ہو سکتی ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا

(یعنی اگر جھوٹا ہو تو اس کے ایمان میں نقص ہوگا) (الترغیب ۳/۷۸۳)

اور حضرت عمر فاروقؓ نے کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کمال

ایمان حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ مذاق (تک) میں جھوٹ بولنے اور جھگڑا کرنے سے

باز نہ آجائے، اگر وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ (الترغیب ۳/۷۷۳)

## یہ بھی جھوٹ ہے

ان ہدایات اور ارشادات کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے، جھوٹ کا معاملہ کتنا نازک ہے؟ اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ مَا تَعَالَيَ أُعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيَهُ؟ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمْرًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ كَذِبَةٌ. (الترغيب والترهيب ۳/۴۰۳)

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ہمارے مکان میں تشریف فرماتے، میری والدہ نے (میری جانب بند مٹھی بڑھا کر) کہا: یہاں آؤ میں تمہیں دوں گی (جیسے مائیں بچے کو پاس بلانے کے لیے ایسا کرتی ہیں) آنحضرت ﷺ نے والدہ سے ارشاد فرمایا: تمہارا اسے کیا دینے کا ارادہ تھا؟ والدہ نے جواب دیا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسے کھجور نہ دیتیں تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہت سی ایسی باتیں جنہیں معاشرہ میں جھوٹ نہیں سمجھا جاتا ہے، ان پر بھی جھوٹ کا گناہ ہو سکتا ہے۔ بچوں کو جھوٹی تسلیاں دینا اور جھوٹے وعدے کرنا عام طور پر ہر جگہ رائج ہے، اور اسے جھوٹ سمجھنا ہی نہیں جاتا۔ حالانکہ ارشاد نبویؐ کے مطابق یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے۔ اسی طرح ہنسانے کے لیے اور محض تفریح طبع کے لیے جھوٹ بولنے کو گویا کہ حلال سمجھا جاتا ہے، اور اسے قطعاً عیب کی چیز شمار نہیں کیا جاتا۔ جبکہ اس مقصد سے جھوٹ بولنا بھی سخت گناہ ہے۔

## تجارت پیشہ حضرات متوجہ ہوں

خرید و فروخت کے معاملہ میں بھی دل کھول کر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور قطعاً اسکے

﴿ اللہ سے شکر کہجئے ﴾

گناہ ہونے کا احساس نہیں کیا جاتا۔ تاجر کے پیش نظر بس یہ رہتا ہے کہ اسکی دوکان کا مال بکنا چاہیے بھلے ہی جھوٹ بولنا پڑے۔ گاہکوں کو لہانے کے لیے طرح طرح کے جھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور محض چند روزہ نفع کے لیے آخرت کی محرومی مول لی جاتی ہے۔ اسی بنا پر رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

التَّجَارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَحَارًا الْأَمِنْ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَّقَ۔

(مشکوٰۃ ۱/۲۳۳، ترمذی ۱/۲۳۰)

(اکثر) تاجر قیامت کے دن فاجروں کی صف میں اٹھائے جائیں گے، مگر

وہ (تاجر) جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کرے اور سچ بولے۔

ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّ التَّجَارَ هُمُ الْفَحَّارُ۔

پیشک تاجر ہی فاجر ہیں۔

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اللہ نے بیع کو حلال نہیں فرمایا (پھر بیع کرنے

والے کیوں خطا کار ہیں؟) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:

بَلَى الْكَيْفُ هُمْ يَحْلِفُونَ فَيَأْتُمُونَ وَيُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ۔ (الترغیب ۲/۳۶۶)

ہاں (بیع حلال تو ہے) مگر یہ (تاجر) قسمیں کھا کر گنہگار ہوتے ہیں۔ اور جب

بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، (اس لیے انہیں فاجر کہا گیا)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جنکی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہ فرمائے گا اور نہ انکا

ترکیہ کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایسے بد نصیب

لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ۔ (مسلم شریف ۱/۷۱،

الترغیب ۲/۳۶۷)

﴿اللہ سے شرم نہ ہونے﴾ ﴿اللہ سے شرم نہ ہونے﴾ ﴿اللہ سے شرم نہ ہونے﴾  
 (ایک) وہ جو اپنے کپڑے کو نئے سے نچے لٹکائے، (دوسرے) وہ جو صدقہ  
 کر کے احسان جنائے، (تیسرے) وہ جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعہ فروخت کرے۔

## ہمارا عمل

آج حال یہ ہے کہ عام طور پر دکاندار اپنے مال کو بیچنے کے لیے۔ (۱) کم درجہ کے  
 مال کو اعلیٰ درجہ کا بناتے ہیں۔ (۲) قیمت کے بارے میں بے دھڑک جھوٹ بول دیتے ہیں  
 کہ اتنے روپے کی تو ہمیں بھی نہیں پڑی، تاکہ گاہک متاثر ہو جائے، اور اس سے زائد قیمت  
 پر خرید لے (۳) اگر گاہک کسی کمپنی کا سامان مانگے تو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس اس کمپنی کا  
 مال نہیں ہے دوسری جگہ سے لے لو، بلکہ یہ کہہ کر گاہک کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تم جس کمپنی کا مال  
 مانگ رہے ہو اس کا مال تو بازار میں آئی نہیں رہا ہے دوسری کمپنی کا خرید لو تاکہ اسکے یہاں  
 رکھا ہوا مال بک جائے (۴) پرانے مال پر نیا لیبل لگا دیتے ہیں (۵) مال کی تعریف میں  
 زمین آسمان کے قلابے بلاتے ہیں۔

الغرض ہر وہ طریقہ اپناتے ہیں جس سے گاہک خریدنے پر مجبور ہو جائے، اور اسی  
 کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، یہ دینی امور سے بے رشتی اور لاپرواہی کی دلیل ہے، جھوٹ بہر  
 حال جھوٹ ہے وہ جس وقت بھی بولا جائے اس کا گناہ ہوگا، اس لیے خاص کر تجارت پیشہ  
 حضرات کو اپنی زبانوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے، وہ اگر اللہ پر بھروسہ کر کے سچائی اور  
 دیانتداری کے ساتھ کمائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بے حساب برکت عطاء فرمائے گا  
 اور آخرت میں بھی ان کا شکر حضرات انبیاء و صلواتین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔

(ترمذی شریف ۳۲۷۱)

## جھوٹی تعریفیں

شیطان نے اس زمانہ میں جھوٹ کے پھیلاؤ کے لیے نئی نئی رسمیں اور طریقے  
 ایجاد کر رکھے ہیں انہی میں سے ایک رسم لوگوں کی جھوٹی تعریف کرنے، اور بے سرو پا

القاب دینے کی بھی ہے۔ اور تو اور خود علماء بھی اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے۔ جلسوں کے اشتہارات میں اس جھوٹ کی بھرمار ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک معمولی شخص کے ساتھ ایک ایک لائن کے آداب و القاب لگا کر مکمل جھوٹ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مقرروں کے تعارف، سپاناموں اور مہتممی نظموں میں وہ مبالغہ آرائی کی جاتی ہے کہ الامان الحفیظ۔ پھر طرہ یہ کہ اس عمل کو جھوٹ سمجھا بھی نہیں جاتا۔ اللہ کی نظر میں یہ عمل نہایت ناپسندیدہ ہے۔ خاص کر جب کسی نا اہل اور فاسق و فاجر کی تعریف کی جاتی ہے (جیسا کہ آج کل لیڈروں اور افسران کی خوشامد وغیرہ کا طریقہ ہے) تو اس گناہ کی وجہ سے عرش خداوندی تک کانپ اٹھتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں:

إِذَا مُدِخَ الْفَاسِقُ غَضَبَ الرَّبِّ تَعَالَى وَاهْتَزَلَهُ الْعَرْشُ۔ (مشکوٰۃ

شریف ۲/۳۱۳ عن النبی)

جب فاسق شخص کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے، اور اسکی بنا پر عرش خداوندی حرکت میں آجاتا ہے۔

مالداروں، عہدے داروں اور فاسق و فاجر لوگوں کی تعریف کرنے والے لوگ اس حدیث سے عبرت حاصل کریں اور سوچیں کہ وہ اپنی زبان کو اس گناہ میں مبتلا کر کے کس قدر بے حیائی کا ثبوت دے رہے ہیں۔

## تعریف میں احتیاط

پھر چونکہ محض تعریف کرنا بھی اس معنی گرفتہ سے خالی نہیں ہے کہ جس شخص کی تعریف کی جا رہی ہے بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی تعریف سن کر عجب اور تکبر میں مبتلا ہو جائے اور اپنے باطنی عیوب اس سے پوشیدہ ہو جائیں، اس لیے شریعت میں منہ پر تعریف کرنے والوں کی ہمت شکنی کے احکامات دیئے گئے ہیں، اور خواہ مخواہ تعریف کرنے میں احتیاط سے کام لینے کی تاکید کی گئی ہے، تاکہ زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی خیر

﴿ اللہ سے شرم کیجئے ﴾ ﴿ ۶۴ ﴾

خواہی بھی پیش نظر رہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کے سامنے کسی شخص کی تعریف کی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

أَهْلَكْتُكُمْ أَوْ قَالَ قَطَعْتُكُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ۔ (بخاری شریف ۲/۸۹۵ عن ابی موسیٰ

الاشعری، مسلم شریف ۲/۴۱۴)

تم نے اسے ہلاک کر ڈالا، یا فرمایا کہ تم نے اس آدمی کی کمر توڑ دی۔

دوسرے موقع پر فرمایا:

وَيَحِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مَرَارًا، إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَا دَخَلَ  
مَحَالَّةً فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسْبِيَهُ اللَّهُ، وَلَا يُزَكِّي  
عَلَى اللَّهِ أَحَدًا۔ (بخاری شریف ۲/۸۹۵ عن ابی بکرہ مسلم شریف ۲/۴۱۴، مشکوٰۃ ۲/۴۱۴)  
تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی (یہ جملہ کئی بار ارشاد  
فرمایا) تم میں جسے کسی کی تعریف ہی کرنی ہو تو وہ یوں کہا کرے کہ میرا فلاں کے بارے میں  
گمان ہے (مثلاً وہ نیک ہے) جبکہ وہ اسے واقعی ایسا ہی سمجھتا ہو اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال کا  
جاننے والا ہے۔ اور تعریف کرنے والا جزم و یقین کے ساتھ حتمی طور پر کسی کی تعریف نہ  
کرے (کہ اس کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے)۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے پیشہ ور مادیں کو اس طرح ہمت شکن  
جواب دینے کی تلقین فرمائی:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَامْحُوا فِيهِمْ وَجُوهَهُمْ التُّرَابَ۔ (مسلم شریف ۲/۴۱۴)

من المقدادین الاسود، مشکوٰۃ شریف ۲/۴۱۴)

جب تم (مفاد پرست) تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔  
مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو منہ نہ لگاؤ، اور وہ تم سے جن دنیاوی منافع کی  
امیدیں باندھے ہوئے ہیں انہیں پورا نہ کرو۔ تاکہ وہ پھر آگے بھی اس بے جا مدح کی  
جرات نہ کر سکیں۔ الغرض حیا خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو ہر اس چیز سے محفوظ

رکھیں جس میں جھوٹ اور خلاف واقعہ ہونے کا شائبہ پایا جاتا ہو۔ ہمیں حتی الامکان اللہ سے شرم کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

۱۔ تعریف تین طرح کی ہوتی ہے: (۱) منہ پر تعریف کرنا (۲) غائبانہ میں تعریف کرنا۔ اس نیت سے تاکہ جس کی تعریف کی گئی ہے اس تک بات پہنچ جائے۔ یہ دونوں صورتیں ممنوع ہیں (۳) غائبانہ میں تعریف قطع نظر اس سے کہ کسی کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، یہ جائز ہے۔ (مظاہر حق ۹۶/۳)

## یا نچویں فصل

## غیبت بھی بے حیائی ہے

زبان کے ذریعہ سے جو گناہ صدور میں آتے ہیں، اور جن کے ذریعہ کھلم کھلا اللہ رب العزت کے ساتھ بے شرمی اور بے حیائی کا ثبوت دیا جاتا ہے ان میں ایک گناہ ونا جرم غیبت کا ہے۔ یہ دبا آج چائے کے ہوٹلوں سے لیکر ”سفید پوش حالمین جبہ و دستار“ کی مبارک مجلسوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ مجلس کی گرمی آج غیبتوں کے دم سے ہوتی ہے۔ اور سلسلہ گفتگو دراز کرنے کے لیے عموماً غیبت ہی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب یہ مرض اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اس کی برائی اور گناہ ہونے کا احساس تک دل سے لگتا جا رہا ہے۔ یہ صورت حال افسوس ناک ہی نہیں بلکہ اندیشہ ناک بھی ہے، اس کا تدارک جیسی ہو سکتا ہے، اور اس سے بچنے اور محفوظ رہنے کا جذبہ اسی وقت بیدار ہو سکتا ہے جبکہ حدیث کے الفاظ فلیحفظ الرأس وما وعی کے مضامین کا ہر وقت استحضار رکھا جائے۔ اور اللہ رب العزت سے حیا کا حق ادا کرنے کی برابر کوشش کی جاتی رہے۔ اور ساتھ میں بارگاہ ایزدی میں الحاج وزاری اور لجاجت کے ساتھ اسی بدترین روحانی بیماری سے نجات اور شفاء کی استدعا اور درخواست بھی کی جاتی رہے۔ آج کے دور میں اللہ کی خاص توفیق کے بغیر اس گناہ سے بچنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

## غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے

غیبت کی شاعت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم نے غیبت سے بچنے کا حکم کرتے ہوئے غیبت کرنے کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مثل قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُوا

هُتْمُوهُ۔ (الحجرات آیت: ۱۲)



اور برانہ کہو پیچھے ایک دوسرے کے، بھلا خوش لگتا ہے تم میں کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو سو گھن آتی ہے تم کو اس سے۔  
ظاہر ہے کہ کوئی شخص ہرگز ہرگز اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ کسی بھی مردہ کا گوشت کھائے چہ جائے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا۔ قرآن کریم یہ یقین ہمارے دل میں بٹھانا چاہتا ہے کہ جس طرح تمہاری طبیعت اپنے بھائی کا گوشت کھانے پر آمادہ نہیں ہوتی، اسی طرح تمہیں اس کی بربائی کرنے سے بھی پوری طرح احتراز کرنا چاہیے۔ کیونکہ غیبت کرنا گویا اسکی عزت نفس کو چھ کھاتا ہے، جو اسی طرح مکروہ اور ناپسندیدہ ہے جیسے اس کا گوشت کھانا ناپسندیدہ اور کراہت کا باعث ہوتا ہے۔

## غیبت کیا ہے؟

جب غیبت پر کسی کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ فوراً یہ جواب دیتا ہے کہ کیا ہوا؟ میں تو حقیقت حال بیان کر رہا ہوں۔ گویا کہ یہ حقیقت بیان کرنا جائز ہے۔ حالانکہ یہ خام خیالی ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

اتْلُرُونَ مَا الْغَيْبَةَ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ۔ قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ۔ قِيلَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ فِي أَحْيَى مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ۔ (مسلم شریف ۲۲/۲ ص ۳۲۲ من ابی ہریرہ)

کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے بھائی کے بارے میں ان باتوں کا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہوں (غیبت ہے) ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ صفات ہوں جو میں نے کہی ہیں (تو کیا پھر غیبت ہوگی؟) تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ اگر وہ برائی تیرے ساتھی میں پائی جائے تبھی تو وہ غیبت ہوگی اور اگر وہ بات اس کے اندر نہ ہو تو تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ (جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے)

اس سے معلوم ہوا کہ اس برائی کا بیان کر دینا بھی غیبت ہے جو برائی مذکورہ شخص میں پائی جاتی ہو۔ اور اس کے عموم میں ہر ایسی برائی کا بیان شامل ہے جس سے مذکورہ شخص کی عزت میں فرق آتا ہو خواہ وہ دنیا کی برائی ہو یا دین کی۔ جسم کی برائی ہو یا اخلاق کی، اولاد کی برائی ہو یا بیوی کی، خادم کی برائی ہو یا غلام کی۔ الغرض جس چیز کے بیان سے کسی کی بے عزتی ہوتی ہو اس کا اظہار غیبت کے حکم میں داخل ہے۔ (روح المعانی ۱۵۸/۲۶)

## سامنے برائی کرنا بھی گناہ ہے

اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت ہے اسی طرح سامنے برائی کرنا بھی شاعت میں غیبت کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ الفاظ قرآن وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ میں صراحتاً اس سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اور حدیث کی تعریف ذِکْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْفُرُكَ کے عموم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ علامہ آلوسیؒ روح المعانی میں نقل کرتے ہیں:

وَفِي الزَّوْاجِرِ لَا فَرْقَ فِي الْغَيْبَةِ بَيْنَ أَنْ تَجُكُونَ فِي غَيْبَةِ الْمُغْتَابِ

اور بَحْضَرْتِهِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ۔ (روح المعانی ۱۵۸/۲۶، کتاب الزواجر ۲/۲۶)

اور زواجر میں لکھا ہے کہ غیبت خواہ مختاب کی غیر موجودگی میں کی جائے یا اسکی موجودگی میں (دونوں صورتوں میں) کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی قابل اعتماد بات ہے۔ عام طور پر غیبت کی یہ تاویل بھی کی جاتی ہے کہ ”صاحب! یہ بات تو میں اس کے منہ پر کہہ چکا ہوں۔“ یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیبت صرف وہ ہے جو پیٹھ پیچھے کی جائے۔ اور سامنے کسی کی توہین کریں تو وہ غیبت نہیں ہے حالانکہ حضرات مفسرین کی تشریح سے یہ بات واضح ہے کہ کسی کے سامنے ہر ایسی بات کہنا جو اسے بری لگے، اور اسکی عزت میں اس کی وجہ سے فرق آئے، یہ سب صورتیں غیبت کی وعید میں شامل ہیں، اور ان سے احتراز کی ضرورت ہے، الا یہ کہ غیبت سے مقصود تحقیر اور بے عزتی نہ ہو، بلکہ اصلاح یا دوسروں کو شر سے بچانا

وغیرہ ہو، تو اس کے مسائل ضرورت اور مجبوری کے تحت فقہ کی کتابوں میں الگ سے بیان کئے گئے ہیں۔ (عالمگیریہ ۳۶۲۵ معارف القرآن ۱۳۳۸)

## آنکھیں کھولیے

احادیث مبارکہ میں نہایت شدت کے ساتھ معاشرہ اسلامی سے اس گھناؤنے جرم کی بنیادیں اکھاڑ پھینکنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، نبی اکرم ﷺ نے غیبت کے متعلق اتنی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، جنہیں پڑھ کر روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں:

(۱) آنحضرت ﷺ نے سفر معراج میں دوزخ کے معائنہ کے وقت کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو مردار کھا رہے تھے، تو آپ ﷺ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا:

هُوَ لِأَيِّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ النَّاسِ۔ (التَّهْرِيبُ وَالتَّهْرِيبُ ۳۰۳)

یہ وہ لوگ ہیں جو (دنیا میں) لوگوں کا گوشت (یعنی انکی عزت) کھاتے تھے۔ (یعنی غیبت کیا کرتے تھے)

(۲) اسی طرح آپ ﷺ نے دوزخ میں کچھ ایسے بد نصیبوں کو بھی دیکھا جو اپنے تانے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے۔ انکے بارے میں پوچھے جانے پر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا:

۱۔ علامہ شامی نے وہ گیارہ مواقع بیان کیے ہیں جن میں کسی کی برائی بیان کرنا غیبت کے دائرے میں داخل نہیں ہے۔ (۱) بطور حسرت و افسوس کے کسی کی برائی بیان کرنا (۲) غیر معصوم پر عام اہل ہستی کے صیب بیان کرنا۔ (۳) برسر عام برحق حرکتیں کرنے والے کی حرکتیں بیان کرنا (۴) لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے کسی بدعتیہ شخص کی بدعتیہ گما کا اظہار کرنا (۵) حاکم کے سامنے ظلم کے دواوے کے لیے ظالم کا ظلم بیان کرنا (۶) جو بھی شخص برائی روکنے پر قادر ہو اس کے سامنے متعلقہ شخص کے صیوب ظاہر کرنا۔ (مثلاً باپ کے سامنے بیٹے یا مالک کے سامنے خادم کی برائی کرنا) (۷) رشتہ داری قائم کرنے کے متعلق مشورہ دینے وقت متعلقہ شخص کے صیوب کا اظہار کر دینا (۸) فتویٰ لینے وقت صحیح صورت حال متفق کو بتا دینا (۹) غلام وغیرہ خریدنے والے سے غلام کا صیب بیان کرنا (۱۰) محض تعارف کرانے کے لیے کسی کو "ناہینا، ننگرا" وغیرہ کہنا (۱۱) مجروح اور غیر مستبر رواۃ حدیث اور معصومین کے حالات کا افشا کرنا، یہ صورتیں غیبت میں داخل نہیں ہیں، لیکن سب میں یہ شرط ہے کہ ان میں بھی تحقیر مسلم کا عنصر گزر شامل نہ ہونا چاہیے۔ (شامی کراچی ۳۰۸، ۳۰۸، شامی ۵۰۱، ۵۰۰، فصل فی البیوع)

هُلَوَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ۔ (ابو داؤد شریف

۶۶۹/۲، رواہ بیہقی ۳۰۰/۵ عن النس، الترغيب والترهيب ۳۳۰/۳)

یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ اور ان کی عزتوں سے کھلو اڑ کرتے تھے۔

(۳) نیز ایک طویل حدیث میں آنحضرت ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سفر معراج کے دوران کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو سینوں کے بل لٹکے ہوئے تھے۔ تو میں (ﷺ) نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا:

هُلَوَاءِ اللَّمَّازُونَ وَالْهَمَّازُونَ الْخ۔ (رواہ بیہقی عن راشد بن سعد، الترغيب وا

لترهيب ۳۳۰/۳)

یہ زبان اور آنکھ کے ذریعہ غیبت کرنے والے ہیں۔

(۴) ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے غیبت اور کسی مسلمان کی آبروریزی کو بدترین سود سے تعبیر فرمایا، آپ کا ارشاد مبارک ہے:

إِنَّ الرَّيْبَانِيَّةَ وَسَبْعُونَ بَاباً أَهْوَنُهُنَّ بِأَبَايِنِ الرَّيْبَانِيَّةِ مَنْ أُنِي أُمَّةٌ فِي  
الإِسْلَامِ وَدِرْهَمٍ مِنَ الرَّيْبَا أَشَدُّ مِنْ خَمْسِ وَثَلَاثِينَ زَنْبَةً وَأَشَدُّ الرَّيْبَا وَأَرَبَى الرَّيْبَا  
وَأَحَبُّ الرَّيْبَا أَنْتَهَاكَ عَرَضِ الْمُسْلِمِ وَأَنْتَهَاكَ حُرْمَتِهِ۔ (رواہ بیہقی ۲۹۹/۵ عن ابن  
عباس، حدیث ۶۷۱۵، الترغيب والترهيب ۳۲۶/۳)

سود کے سترے سے زیادہ دروازے ہیں۔ ان میں سب سے کمتر سود کے دروازے کا گناہ ایسا ہے جیسے (نعوذ باللہ) کوئی شخص اپنی ماں سے بحالت اسلام بدکاری کرے اور سود کا ایک درہم، ۳۵ مرتبہ زنا کرنے سے بھی سخت ہے۔ اور سب سے سخت ترین سود، سب سے بڑا سود، اور سب سے بدترین سود کسی مسلمان کی عزت و حرمت کو پامال کرنا ہے۔

(۵) ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ سے بے خیالی میں ام المؤمنین حضرت صفیہؓ کے متعلق غیبت کے کلمات نکل گئے (یعنی آپ نے اشارہ سے انہیں قصیرۃ (پستہ قد) کہہ دیا تو آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو اس طرح تنبیہ فرمائی:

لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً تُوْمِزُجُ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ - (رواہ احمد والترمذی وابوداؤد،

مشکوٰۃ شریف ۴/۱۳۲)

تم نے ایسی بات کہی ہے اگر اسے سمندر میں ڈالا جائے تو وہ بات سمندر کے پانی کو خراب کر دے۔

(۶) ایک حدیث میں آپ ﷺ نے حضرات صحابہؓ کے مجمع میں فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑھ کر ہے۔ صحابہؓ نے حیرت سے سوال کیا کہ حضرت یہ کیسے؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَيَتُوبُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَإِنْ صَاحِبُ الْغَيْبَةِ لَا يُغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُغْفِرَ هَا لَيْهَ صَاحِبَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنْسِ قَالَ: صَاحِبُ الرِّثَا يَتُوبُ وَصَاحِبُ الْغَيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ - (رواہ البيهقي في شعب الایمان

۳۰۶/۵ عن ابی سعید وجابر حدیث ۶۷۳۱-۶۷۳۲ مشکوٰۃ شریف ۴/۱۵)

انسان زنا کر کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ محض اسکے سچی توبہ کرنے پر اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور (اسکے برخلاف) غیبت کرنے والے کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوتی جب تک اس کو معتاب معاف نہ کر دے۔ اور حضرت انسؓ کی روایت میں ہے کہ زنا کرنیوالا (بڑے گناہ کے احساس سے) توبہ کر لیتا ہے۔ اور غیبت کرنیوالے کو (اپنے گناہ کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے) توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ (یہی وجہ ہے کہ غیبت کی شاعت زنا سے بھی زیادہ ہے)

(۷) مشہور صحابی حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کی وجہ سے انسان عذاب قبر کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں:

بَيْنَا أَنَا وَأُمَامِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ أَحَدٌ بِيَدِي وَرَجُلٌ عَنِ يَسَارِهِ فَإِذَا نَحْنُ بِقَبْرَيْنِ أَمَا مَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَبَلَى مَا يَكْفِيكُمْ بَأْتِينِي بِحَرِيدَةٍ فَاسْتَبَقْنَا فَاسْتَبَقْتُهُ فَأَتَيْتُهُ بِحَرِيدَةٍ فَكَسَّرَهَا نِصْفَيْنِ فَأَلْقَى عَلَى ذَا الْقَبْرِ قِطْعَةً وَعَلَى ذَا الْقَبْرِ قِطْعَةً وَقَالَ إِنَّهُ يَهُودٌ عَلَيْهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنِ وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلَّا فِي

الْبَوْلِ وَالْغَيْبَةِ (مسند احمد بن حنبل ۳۵/۵ حدیث ۲۰۲۵۲)

اس دوران کہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا، اور آپ ﷺ میرے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور ایک شخص آپ کے بائیں جانب تھا کہ اچانک ہم دو قبروں پر پہنچے جو ہمارے سامنے تھیں۔ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان دونوں (قبر والوں) کو عذاب ہو رہا ہے اور (تمہاری دانست میں) کسی بڑے گناہ پر عذاب نہیں ہو رہا حالانکہ وہ گناہ بڑا ہے۔ لہذا کون ہے جو ایک نبی میرے پاس لائے۔ تو ہم حکم کی تعمیل میں چھپے۔ میں جلدی جا کر آپ کے لیے ایک ٹہنی لے آیا آپ ﷺ نے اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اس قبر پر اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر ڈال دیا۔ اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی ان (قبر والوں) پر عذاب میں تخفیف کی جاتی رہے گی اور ان دونوں کو صرف پیشاب (سے نہ بچنے) اور غیبت (کرنے) کی بناء پر عذاب دیا جا رہا ہے۔

(۸) حضرت شفی بن ماتع الاحمسیؒ مرسل روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

أَرْبَعَةٌ يُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ الْأَذَى يَسْعَوْنَ مَا بَيْنَ الْحَجِيمِ وَالْحَجِيمِ يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالتَّبْوِيرِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ النَّارِ لِبَعْضٍ مَا بَالَ هَوْلَاءِ قَدْ آذَوْنَا عَلَى مَا بَنَا مِنَ الْأَذَى بَعَالَ فَرَجُلٌ مُغْلَقٌ عَلَيْهِ تَابُوتٌ مِنْ حَمْرٍ وَرَجُلٌ يَحْرُ أَمْعَاءَهُ وَرَجُلٌ يَسِيلُ فُوهَهُ قَيْحًا وَدَمًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ لَحْمَهُ، فَيَقَالُ لِصَاحِبِ التَّابُوتِ مَا بَالَ الْأَبْعَدُ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بَنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنْ الْأَبْعَدُ قَدْ مَاتَ وَفِي عُنُقِهِ أَمْوَالُ النَّاسِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَحْرُ أَمْعَاءَهُ مَا بَالَ الْأَبْعَدُ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بَنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنْ الْأَبْعَدُ كَانَ لَا يَمِيلُ إِلَيْنَا أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْهُ ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَسِيلُ فُوهَهُ قَيْحًا وَدَمًا، مَا بَالَ الْأَبْعَدُ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بَنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنْ الْأَبْعَدُ كَانَ يَنْظُرُ إِلَيْنَا كَلِمَةً فَيَسْتَلِدُّهَا كَمَا يُسْتَلَدُّ الرَّفَثُ ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَأْكُلُ لَحْمَهُ مَا بَالَ الْأَبْعَدُ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بَنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنْ الْأَبْعَدُ كَانَ يَأْكُلُ لَحْمَ النَّاسِ بِالْغَيْبَةِ وَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ۔

(رواہ ابن ابی الدنيا و الطبرانی الترغیب والترہیب ۳/۳۲۹)

چار قسم کے جہنمی اہل جہنم کے لیے اذیت پر اذیت کا باعث ہو گئے جو حیم (کھولتے ہوئے پانی) اور حجیم (دکھتی ہوئی آگ) کے درمیان دوڑتے ہو گئے، اور موت اور ہلاکت کو پکارتے ہو گئے (جنہیں دیکھ کر) اہل جہنم آپس میں کہیں گے کہ ان پر کیا مصیبت آئی کہ یہ (اپنے ساتھ) ہمیں بھی مصیبت در مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں تو (ان چاروں میں) ایک وہ شخص ہوگا جو بیڑیوں میں بندھا ہوگا اور اس پر انگاروں کا صندوق رکھا ہوگا۔ دوسرا وہ آدمی ہوگا جو اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوگا اور تیسرے شخص کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہا ہوگا، اور چوتھا شخص خود اپنا گوشت کھاتا ہوگا۔ پس صندوق والے سے پوچھا جائے گا۔ کہ بعد (اللہ کی رحمت سے دور) کا کیا ماجرا ہے جسے ہمیں مصیبت پر مصیبت میں ڈال رکھا ہے؟

وہ جواب دیگا کہ یہ بد نصیب اس حال میں مرا کہ اس کی گردن پر لوگوں کے مالی حقوق تھے۔ پھر آنتیں کھینچنے والے سے اسی طرح کا سوال کیا جائے گا۔ وہ جواب دیگا کہ یہ محروم القسمت اس کی بالکل پروا نہیں کرتا تھا کہ پیشاب اس کے بدن پر کہاں لگ رہا ہے۔ اس کے بعد منہ سے پیپ اور خون نکالنے والے سے اہل جہنم اسی طرح کا سوال کریں گے۔ تو وہ جواب میں کہے گا کہ یہ ازلی بد بخت جب کسی غلط بات کو دیکھتا تو اس سے اس طرح لطف اندوز ہوتا تھا جیسے بدکاری سے لطف حاصل کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں خود اپنا گوشت کھانے والے سے صورت حال معلوم کی جائیگی تو وہ کہے گا کہ یہ کمترین محروم القسمت (دنیا میں) پیٹھ پیچھے (غیبت کر کے) لوگوں کا گوشت کھایا کرتا تھا۔ اور چغلی کھانے میں دلچسپی لیتا تھا۔ (اللہ ہمیں ان رذائل سے محفوظ رکھے۔ آمین)

(۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے متنبہ فرمایا:

مَنْ أَكَلَ لَحْمَ أَحِبِّهِ فِي الدُّنْيَا قَرَّبَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ لَهُ: كُنْهُ مَيِّتًا كَمَا أَكَلْتَهُ حَيًّا فَيَأْكُلُهُ وَيَكْلَعُ وَيَصْنَعُ. (رواہ ابو یعلیٰ، الترغیب ۳/۳۲۹)

جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے (غیبت کرے) تو وہ گوشت قیامت کے دن اس کے قریب کیا جائیگا۔ اور اس سے کہا جائے گا کہ جیسے دنیا میں زندگی کی حالت میں (اپنے بھائی کا) گوشت کھایا تھا اب مردہ ہونے کی حالت میں اس کا گوشت کھا۔ پس وہ (مجبوراً) اسے کھائے گا اور منہ بنائے گا اور چختا جائے گا۔ نعوذ باللہ منہ،

(۱۰) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر چلا گیا، تو بعد میں ایک دوسرے شخص نے اس جانے والے شخص کے متعلق کچھ غیبت والے کلمات کہہ دیئے تو آنحضرت ﷺ نے اسے حکم دیا کہ وہ دانتوں میں خلال کرے۔ اس نے جواب دیا: حضور میں نے تو گوشت کھایا ہی نہیں، کس واسطے خلال کروں؟ تو آپ نے فرمایا:

إِنَّكَ أَكَلْتَ لَحْمَ أَحْيِكَ۔ (العروہ والعروہ ۳۲۸/۳)

تو نے اپنے بھائی کا (غیبت کر کے) گوشت کھایا ہے۔

(۱۱) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اپنا واقعہ نقل فرماتی ہیں:

قُلْتُ لَا مَرْئِي مَرَّةً وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِنْ هَذِهِ لَطَوِيلَةُ الذَّبْلِ فَقَالَ الْفِطِيُّ، الْفِطِيُّ، فَلَفَظْتُ بُضْعَةً مِنْ لَحْمٍ۔ (رواہ ابن ابی الدنیا، العروہ والعروہ ۳۲۷/۳)

ایک مرتبہ جبکہ میں آنحضرت ﷺ کے پاس تھی میں نے ایک عورت کے متعلق کہہ دیا کہ یہ تو بے دامن والی ہے تو آنحضرت ﷺ نے مجھ سے دو مرتبہ فرمایا۔ تھوکو، تھوکو، چنانچہ میں نے گوشت کا لوتھڑا تھوکا (یہ غیبت کے کلمہ کا اثر تھا)

(۱۲) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک بد بودار ہوا کا جھونکا آیا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَتَذَرُونَ مَا هَذِهِ الرَّيْحُ؟ هَذِهِ رِيْحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ۔

(رواہ احمد، العروہ والعروہ ۳۳۱/۳)

کیا تم جانتے ہو یہ کیسی ہوا ہے؟ یہ ان لوگوں کی (بد بودار) ہوا ہے جو اہل ایمان کی غیبت کرتے ہیں۔

ان روایات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شریعت میں غیبت کس قدر ناگوار صفت ہے جس سے اجتناب کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔

## علماء کی غیبت

علماء اور اکابر ملت کی تحقیر و تذلیل کی غرض سے غیبت کا ارتکاب عام لوگوں کی



﴿ اللہ سے شرم کہنے ﴾ ﴿ ۷۵ ﴾

غیبتوں کے مقابلہ میں زیادہ شدت اور قباحت رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں علماء کرام کی جماعت کا درجہ نہایت بلند ہے۔ اس لیے ان کی بے عزتی اور بے توقیری بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہوتی ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ۔ (بخاری شریف ۲/۶۶۳ عن ابی ہریرۃ)

جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔

اسی طرح مثل معروف ہے: لُحُومُ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ۔ یعنی علماء کا گوشت نہایت

زہریلا ہوتا ہے۔ جوان کی غیبت کرنے والوں کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ علماء اور اولیاء اللہ کی تحقیر

و تذلیل ایسا جرم ہے۔ جس کی سزا اللہ تعالیٰ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ جو

لوگ اس بارے میں بے احتیاطی کرتے ہیں وہ قدرتی طور پر دنیا ہی میں ذلت و خواری اور تنگیوں

میں مبتلا کر دیئے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے اور دانائی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے کو

عذاب خداوندی سے بچائے اور ”خاصان خدا“ کی برائی کر کے اپنے لیے تباہی کا سامان مہیا نہ

کرے۔ اور کسی ایسی مجلس میں نہ شریک ہو جس میں لوگوں کی غیبتیں کی جاتی ہوں۔

## چغزل خوری

چغزل خوری بھی دراصل غیبت ہی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جس کے معنی، فساد کی غرض

سے کسی شخص کے راز کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے کے آتے ہیں، قرآن کریم میں

متعدد جگہ چغزل خوروں پر لعنت کی گئی ہے اور نبی اکرم ﷺ نے چغزل خور کے بارے میں

نہایت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، مشہور حدیث ہے:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ۔ (مسلم شریف ۷۰/۱)

چغزل خور جنت میں نہیں جائے گا۔

اسی طرح ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ زیادہ تر قبر کا عذاب چغزل

خوری اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، (الترغیب والترہیب ۲/۳۳۳)

یہ قید اس لیے لگائی کہ اگر کسی کے راز کے افشاء میں کوئی شرعی مصلحت ہو تو اس راز کو ظاہر کرنے میں حرج

نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا کارآمد ضروری ہوتا ہے۔ (النووی علی مسلم ۱/۷۷)

اسی لیے زبان کی حفاظت میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اسے چغلی کی گندگی میں  
لوٹ ہونے سے محفوظ رکھیں۔

## چغلی اور غیبت سننے تو کیا کرے؟

عام طور پر لوگوں کا یہ معمول ہے کہ اگر ان کے سامنے کسی شخص کی برائی کی جاتی  
ہے تو یا تو کہنے والے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، یا خاموش رہتے ہیں حالانکہ یہ طریقہ  
شریعت کے مطابق نہیں، نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

مَنْ اغْتَيْبَ عِنْدَهُ اخُوهُ الْمُسْلِمِ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ أَذْرَكَهُ  
أَثْمُهُ فِي النَّبَا وَالْآخِرَةِ۔ (الغریب والغریب ۳۳۳/۳ من السنہ)

جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ طاقت کے  
باوجود (اس کا دفاع کرے) اس بھائی کی مدد نہ کرے تو اس شخص کو (اپنے مسلمان بھائی کی  
طرف سے دفاع نہ کرنے کا) وبال دنیا اور آخرت میں ہوگا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیبت سن کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ حتی الامکان  
اپنے مسلمان بھائی سے خوش گمان رہ کر اس کی طرف سے صفائی دینے کا اہتمام رکھنا چاہئے۔  
یہ اہتمام رکھنا نہایت باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی  
وسعت کے مطابق معتاد شخص کی طرف سے صفائی پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت  
میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ (الترغیب ۲۷۵/۲)

امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی غیبت یا چغلی سنے  
تو اسے چھ باتوں کا التزام کرنا چاہئے۔ (۱) چغلی خور کی شکایت پر ہرگز یقین نہ کرے اس  
لیے کہ وہ خبر دینے والا شرعاً قاسق ہے۔ (۲) چغلی خور کو اس کے غلط فعل پر متنبہ کرے اور  
اسے عار دلائے۔ (۳) چغلی خور کے فعل کو دل سے برا سمجھے اور اس بناء پر اس سے  
ناپسندیدگی کا اظہار کرے۔ (۴) جسکی چغلی کی گئی ہے اس کی طرف سے بدگمان نہ ہو۔ (۵)  
چغلی خور نے جو بات پہنچائی ہے اس کی کھود کرید اور تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑے۔ (۶)

﴿ اللہ سے شرم کھینچنے ﴾

چغلی خور کے فعل کو کسی دوسرے سے بیان نہ کرے ورنہ خود چغلی کرنے والے کے درجہ میں آجائے گا۔ (احیاء العلوم ۳/۹۲۳)

## حضرت حاجی امداد اللہ کا معمول

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کا معمول تھا کہ ان کے یہاں نہ تو کسی کی شکایت سنی جاتی تھی اور نہ وہ کسی سے بدگمان ہوتے تھے، اگر کوئی شخص کسی کی بات نقل کرتا تو سن کر اس کی تغلیط فرمادیتے، کہ تم غلط کہتے ہو وہ ایسا نہیں ہے۔ (سارف امدادیہ ۳۳)

ایک مرتبہ تھا نہ بھون کے زمانہ قیام میں ایک شخص نے آکر کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ نازیبا باتیں کہی ہیں۔ حضرت حاجی صاحب نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اسنے تو میری پیٹھ پیچھے برائی کی تھی۔ اور تو نے میرے منہ پر میری برائی کر دی اس لیے تو اس سے زیادہ برا ہوا۔ حضرت کے اس جواب کا یہ اثر ہوا کہ اسے پھر کبھی کسی کی شکایت کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ (سارف امدادیہ ۱۱۶)

کاش اگر آج ہم بھی اس طریقہ کو اپنالیں تو آسانی ہم اس عظیم گناہ سے اپنے کو بچا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا واقعی حق ادا کر سکتے ہیں۔

## بعض بزرگوں کے اقوال و واقعات

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے تین حصے ہیں۔ ایک حصہ غیبت سے ہوتا ہے۔ ایک حصہ چغلی سے اور ایک حصہ پیشاب سے نہ نہنچنے سے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مسلمان دین میں غیبت کا اثر آکلہ بیماری سے زیادہ خطرناک صورت میں رونما ہوتا ہے۔ جس طرح مرض آکلہ پورے بدن انسان کو گلا دیتا ہے اسی طرح مرض غیبت دین کو چٹ کر جاتا ہے۔

مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی زین العابدینؑ کے سامنے کسی شخص کی غیبت کی تو آپ نے فرمایا: خبردار! غیبت مت کرنا۔ یہ عمل ان لوگوں کی غذا ہے جو انسانوں کی صورت میں کتے ہیں۔

ایک شخص نے حضرت حسن بصریؒ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میری غیبت کیا کرتے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ میری نظر میں تمہاری اتنی قدر نہیں ہے کہ مفت میں اپنی نیکیاں تمہارے حوالہ کر دوں۔

اسی طرح منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ فلاں شخص نے ان کی غیبت کی ہے، تو آپ نے غیبت کرنے والے کے پاس کچھ تازہ کھجوریں بھیجیں اور کہلایا کہ تم نے اپنی نیکیوں میں سے کچھ حصہ مجھے ہدیہ کیا ہے تو میں اس احسان کے بدلے میں یہ کھجوریں بھیج رہا ہوں، اگرچہ یہ تمہارے احسان کا پورا بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے معذور خیال فرمائیں۔ (از مذاق العارفين ترجمہ احیاء العلوم الدین بھلصا)

مشہور صاحب معرفت بزرگ حضرت میمون بن سيار فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حبشی کا مردہ جسم ہے، اور کوئی کہنے والا ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ! میں نے کہا کہ اے خدا کے بندے میں اس کو کیوں کھاؤں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس لیے کہ تو نے فلاں شخص کے حبشی زنگی غلام کی غیبت کی ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، میں نے اس کے متعلق کوئی اچھی بری بات کی ہی نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں! لیکن تو نے اس کی غیبت سنی تو ہے۔ اور تو اس پر راضی رہا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد حضرت میمون کا حال یہ ہو گیا تھا کہ نہ خود کبھی کسی کی غیبت کرتے اور نہ کسی کو اپنی مجلس میں غیبت کرنے دیتے۔ (تفسیر نازن، بیروت ۱۳۷۲ھ)

حضرت حامی امداد اللہ صاحب مہاجر کی نے فرمایا کہ: «الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّانَا» (غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے) میں غیبت کے شدید تر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زنا گناہ باہمی (شہوت سے صادر ہونے والا) ہے اور غیبت گناہ جاتی (تکبر سے نکلنے والا) ہے۔ زنا کے صدور کے بعد نفس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ غیبت اور گناہ تو کیا (اور توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے) اور غیبت میں اہتلاء کے بعد آدمی کو ندامت تک نہیں ہوتی (اور وہ توبہ سے محروم رہتا ہے) اس بناء پر غیبت کو زنا سے بھی بدتر فرمایا گیا ہے۔ (معارف لہ ادویہ ۱۳)

## ایک واقعہ

چغل خوری کے مفاسد بیان کرتے ہوئے امام غزالی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص بازار میں غلام خریدنے گیا۔ ایک غلام اسے پسند آ گیا۔ بائع نے کہا کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس میں چغلی کی عادت ہے، مشتری اس پر راضی ہو گیا اور غلام خرید کر گھر لے آیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ غلام کی چغل خوری کی عادت نے یہ گل کھلایا کہ اس نے اس شخص کی بیوی سے جا کر تہائی میں کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا اور اب اس کا ارادہ باندی رکھنے کا ہے۔ لہذا رات کو جب وہ سونے آئے تو استرے سے اس کے کچھ بال کاٹ کر مجھے دیدو۔ تاکہ میں اس پر عمل سحر کر ا کر تم دونوں میں دوبارہ محبت کا انتظام کر سکوں۔ بیوی اس پر تیار ہو گئی اور اس نے استرے کا انتظام کر لیا۔ ادھر غلام نے اپنے آقا سے جا کر یوں بات بنائی کہ تمہاری بیوی نے کسی غیر مرد سے تعلقات قائم کر لیے ہیں اور اب وہ تمہیں راستہ سے ہٹا دینا چاہتی ہے۔ اس لیے ہوشیار رہنا۔ رات کو جب وہ بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ بیوی استرہ لاری ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ غلام نے جو خبر دی تھی وہ سچی تھی۔ اس لیے قبل اس کے بیوی کچھ کہتی اس نے اسی استرے سے بیوی کا کام تمام کر دیا۔ جب بیوی کے گھر والوں کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے آ کر شوہر کو قتل کر دیا۔ اس طرح اچھے خاصے خاندانوں میں خوزری کی نوبت آ گئی۔ (احیاء العلوم ۹۵۳)

الفرض غیبت اور چغلی ایسی بدترین بیماریاں ہیں، جن سے معاشرہ فساد کی آماجگاہ بن جاتا ہے، گھر گھر لڑائیاں ہوتی ہیں، دلوں میں کشیدگی اور نفرت جاگزیں ہوتی ہے۔ رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، خاندانوں میں آگ لگ جاتی ہے، اور بنے بنائے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اور یہ سب فساد زبان کی بے احتیاطی اور اللہ تعالیٰ سے بے شرمی اور بے حیائی کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث مذکور میں فرمایا گیا ہے کہ حیاء خداوندی کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک اولاد اور اسکے متعلقہ اعضاء کی حفاظت کا اہتمام نہ کیا جائے۔ اور ان اعضاء میں زبان کو ممتاز اور نازک حیثیت حاصل ہے، اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کا ہر ممکن خیال رکھنا چاہیے۔

## چھٹی فصل

## گالم گلوچ اور فحش کلامی

زبان سے صادر ہونے والے بدترین گناہوں میں لعن طعن اور فحش کلامی کرنا داخل ہے۔ یہ بدزبانی کسی بھی صاحب ایمان کو ہرگز زیب نہیں دیتی۔ زبان کے ذریعہ ایذا رسانی کرنے والوں کو قرآن کریم میں سخت گناہ کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ (الاحزاب آیت ۵۸)

اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کیے، تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا۔

اور نبی اکرم ﷺ نے بہت سی احادیث مبارکہ میں گالم گلوچ، بدزبانی اور فحش کلامی کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ آپ ﷺ کے بعض ارشادات مبارکہ درج ذیل ہیں:

- (۱) لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ۔ (مسلم شریف ۷۲۱)
- مؤمن پر لعنت کرنا ایسا (بے برائی) ہے جیسے اس کو قتل کرنا۔
- (۲) لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقِي أَنْ يَكُونَ لَعَانًا۔ (رماض الصالحین ۵۵۳)
- کسی صدیق کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بہت لعنت کرنے والا ہو۔
- (۳) لَا يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رماض الصالحین ۵۵۳)
- لعنت کرنے والے لوگ قیامت کے روز نہ تو سفارشی ہونگے اور نہ گواہی دینے والے ہونگے۔

(۴) لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِهِ وَلَا بِالنَّارِ۔ (مشکوٰۃ شریف ۲/۳۱۳)

اللہ کی لعنت، اس کے غضب اور جہنم کے ذریعہ آپس میں لعن طعن مت کرو۔

(۵) سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ۔ (مسلم شریف ۵۸/۱)

مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔

(۶) لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَانًا۔ (مشکوٰۃ شریف ۳۱۳/۲)

سچا مومن لعنت باز نہیں ہوتا۔

(۷) لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا بِاللَّعَانِ وَلَا بِالْفَاحِشِ وَلَا بِالْبِدْيِ۔

(مشکوٰۃ شریف ۳۱۲/۲)

مومن کامل لعن طعن کرنے والا اور فحش اور بے حیائی کرنے والا نہیں ہوتا۔

(۸) إِنْ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِحِمِينَا

وَيَسْأَلُ أَهْلَ الْإِيمَانِ تَحِدُّ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لَعِنَ فَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلذَّكَ

وَالْأَرْضِ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا۔ (رواہ ابو داؤد حدیث ۳۹۰۵، برہاض الصالحین ۵۵۳)

جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے۔ تو اس کی لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے

وہاں اس کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں۔ پھر زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے

دروازوں کو بھی بند پاتی ہے۔ پھر دائیں بائیں جانے کا راستہ ڈھونڈتی ہے اور جب کوئی

راستہ نہیں پاتی تو جس پر لعنت کی گئی ہے، اس شخص کی طرف آتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق

ہے تو فیہا، ورنہ لعنت کرنے والے لوٹ جاتی ہے (یعنی لعنت کرنے والے کی لعنت خود اسی

کے گلے میں پڑ جاتی ہے)

(۹) الْمُسْلِمُ مَنْ مَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ۔ (مسلم شریف ۳۸/۱)

کامل مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے عام مسلمان محفوظ رہیں (وہ کسی کو

ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دے)

(۱۰) یہودی اپنی خیانت باطنی کی بناء پر جب جناب رسول اکرم ﷺ کی خدمت

میں آتے تو بجائے ”السلام علیکم“ کہنے کے ”السلام علیکم“ کہا کرتے تھے، جس کے معنی موت

کے ہیں، تو آپ ﷺ ان کے جواب میں ”ولیکم“ کہہ کر خاموش ہو جاتے جس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان کی بددعا انہی کے منہ پر مار دی جاتی لیکن حضرت عائشہؓ کو یہودیوں کی حرکت پر سخت غصہ آتا اور جواب کے ساتھ ساتھ ان پر لعنت بھیجتیں اور اللہ کے غضب کی بددعا دیتی تھیں، اس پر آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ نصیحت فرمائی:

مَهْلًا يَا عَائِشَةُ اَعْلَيْكَ بِالرَّفْقِ بِوَالِيَاكَ وَالْعَنْفِ وَالْفَحْشِ-

(بخاری شریف ۸۹۱/۲)

عائشہؓ ظہر و انزلی اختیار کرو، اور سختی اور بدکلامی سے بچتی رہو۔

اس لیے کہ مقصود اس کے بغیر بھی حاصل ہے کیونکہ ان کی بددعا حضور ﷺ کے حق میں قبول نہ ہوگی اور حضور ﷺ کی بددعا ان کے بارے میں قبول ہو جائے گی۔

(۱۱) آنحضرت ﷺ کے خادم خاص حضرت انسؓ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فرماتے ہیں!

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَبَابًا وَلَا فَاخِشًا وَلَا لَعَانًا كَانَ يَقُولُ لِأَخْدَانَا عِنْدَ الْمُعْتَبَةِ: مَالَهُ تَرَبَّ حَبِيبُهُ۔ (بخاری شریف ۸۹۱/۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والے فحش کلامی کرنے والے اور لعنت کرنے والے نہ تھے، (زیادہ سے زیادہ) ہم میں سے کسی پر عتاب ہوتا تو یہ فرماتے عاسن کی پیشانی خاک آلود ہو۔ اسے کیا ہوا۔

(۱۲) ایک موقع پر رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی دینا

گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص خود اپنے والدین کو گالیاں دے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

نَعَمْ: يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّه فَيَسُبُّ اُمَّه۔ (مسلم شریف ۶۳/۱)

ہاں (یہ اس طرح ممکن ہے کہ) وہ کسی شخص کے باپ کو گالی دے پھر وہ شخص اس کے باپ کو گالی دے۔ اسی طرح یہ کسی کی ماں کو گالی دے پھر اس کی ماں کو گالی دی جائے



﴿ اللہ سے شکر بخجئے ﴾

۸۳

(اس طرح یہ گالی دینے والا خود اپنے والدین کو گالیاں دلوانے کا سبب بن گیا)  
 (۱۳) حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے۔ سلام کیا تعارف ہوا۔ دولت اسلام سے شرف ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نصیحتوں پر عہد لینے کی درخواست کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نصیحتیں فرمائیں جن میں ایک اہم نصیحت یہ تھی:

”لَا تَسْبِنْ أَحَدًا“

تم ہرگز کسی کو گالی مت دینا۔

حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصیحت کو اس قدر مضبوطی سے قہا کہ پھر مرتے دم تک کسی انسان کو تو کیا کسی جاندار تک کو گالی نہیں دی۔

(۱۴) ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ لوگوں کو مجھروں نے کاٹ لیا، انہوں نے مجھروں کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ:

لَا تَسُبُّوْهَا فَيَنْعَمَتِ الدَّابَّةُ فَإِنَّهَا أَبْقَطَنَكُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ۔ (الترغیب والترہیب

۳۱۵/۳

مجھروں کو برا بھلا نہ کہو۔ وہ اچھا جانور ہے۔ اس لیے کہ وہ تمہیں اللہ کی یاد کے لیے بیدار اور متنبہ کرتا ہے۔ (اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کو لعنت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے) ذرا اندازہ لگائیں جب جانوروں کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے تو انسانوں کو ایک دوسرے پر لعن طعن کی کیسے اجازت دی جاسکتی ہے؟

## اپنی عزت اپنے ہاتھ

اس بدزبانی اور فحش کلامی سے انسان کا وقار خاک میں مل جاتا ہے۔ خواہ آدمی کتنا ہی باصلاحیت اور اونچے عہدہ پر ہو لیکن بدزبانی کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس لیے اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کے لیے بھی زبان پر کنٹرول کرنا اور اسے بدکلامی سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ آج جب ہم اپنے مسلم معاشرہ کی طرف نظر اٹھاتے

ہیں تو یہ دیکھ کر سر، شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہمارے یہاں گالیاں لوگوں کے نگیہ کلام، کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ نہایت نجس، غلیظ کلمات زبانوں پر اس طرح چڑھے رہتے ہیں کہ ان کے نکلنے وقت ذرہ برابر ان کی قباحت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف بڑوں ہی کا حال نہیں بلکہ بزرگوں پر کھیلتے کودتے بچے بھی گالیوں کے معاملہ میں اپنے مرہیوں کے کان کاٹنے نظر آتے ہیں۔ یہ نہایت تکلیف دہ صورت حال ہے۔ ہمارا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم خود اپنے کو اسلامی رنگ میں رنگیں۔ اور زبان کی حفاظت کر کے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا ثبوت دیں تاکہ ہمیں معاشرہ میں باوقار مقام حاصل ہو سکے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی باعزت طور پر زندہ گیاں گزار سکیں۔

خلاصہ یہ کہ ہماری زبان جھوٹ، غیبت، چغلی، نجس کلامی، لعن طعن اور ہراس گناہ سے محفوظ رہنی چاہیے جن کا صدور زبان سے ممکن ہے۔ اسی صورت میں ہم ارشاد نبوی:

”قلی حفظ الراس وماوعی“ پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔



## ساتویں فصل

## آنکھ کی حفاظت

شرعی طور پر سر کی حفاظت کا تیسرا اہم عنصر اپنی آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے، آنکھوں کی ذرا سی بے احتیاطی انسان کو بڑے بڑے سنگین گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آج جو دنیا میں فحاشی اور بے حیائی کا دور دورہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی بد نظری اور نظر کی بے احتیاطی ہے۔ شیطان انسان کے ہاتھ میں بد نظری کا ہتھیار دے کر پوری طرح مطمئن ہو چکا ہے۔ اب اسے کسی بھی طاغوتی منصوبہ کو بروئے کار لانے میں زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ یہ بد نظری خود بخود اس کی آرزوؤں کی خاطر خواہ تکمیل کر دیتی ہے۔ نظر کی حفاظت میں کوتاہی بے شرمی کی بنیاد، فتنہ و فساد کا موثر ذریعہ اور منکرات و معاصی کا سب سے بڑا محرک ہے۔ تجربہ اور تحقیق سے باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آج کم از کم ۷۰ فیصد جرائم اور فحاشیاں محض اس بنیاد پر دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہیں کہ ان کی باقاعدہ تربیت سینما ہالوں، ٹی وی پروگراموں اور ویڈیو کیسٹوں کے ذریعہ دی جاتی ہے۔ ان شیطانی آلات کے فروغ نے مکرم و محترم رشتوں کی آنکھوں سے حیا اور شرم کا پانی نیست و نابود کر دیا۔ باعزت گھرانوں کا معاشرتی وقار خاک میں مل گیا۔ اچھے اچھے دیداروں کی شرافت داغدار ہو گئی۔ اسی بد نظری کی پاداش میں بلند و بالا اور عفت و تقویٰ کے میناروں میں دراڑیں پڑ گئیں اور ذرا سی بد احتیاطی نے زندگی بھر کی نیک نامیوں پر پھل لگا دیا۔

اسی بدترین گناہ کی سنگینی اور خطرناکی محسوس کرتے ہوئے اسلامی شریعت نے بد نظری کے ہر دروازہ کو بند کرنے پر نہایت زور دیا ہے۔ قرآن کریم کے احکامات اور احادیث طیبہ کی روشن ہدایات اس سلسلہ میں ہماری بھرپور رہنمائی کرتی ہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا گیا:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُؤْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ أَرْؤُسَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ. (سورہ

(النورایت: ۱۸۳۰)

آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔

اسی طرح کی ہدایت مسلمان عورتوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ دی گئی ہے۔ اور انہیں پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اعضاء زینت کو فتنہ کے مواقع پر ظاہر نہ کریں۔ (سورۃ النور: ۳۱) نیز سورۃ احزاب کی آیات میں جو پردہ کے احکامات دیئے گئے ہیں وہ بھی بد نظری کے سدباب کے لیے احتیاطی تدابیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلامی شریعت نے ان تدابیر کو وجوب کا درجہ دیکر اپنی جامعیت اور صحیح معنی میں عملی مذہب ہونے کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسلام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتا ہے۔ اور اس کے لیے اسی انداز میں تدبیریں بھی کرتا ہے۔ آج کل کے نام نہاد، مہذب سماج کی طرح نہیں، کہ جو انسداد فحاشی کیلئے صرف کافر نسوں، ریلیوں اور تجویزوں کا سہارا لیتا ہے۔ اور خود سر سے پیر تک فحاشی کی غلاظتوں میں طوٹ ہے۔ دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب بے حیاتیوں پر روک لگانے والا نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں فحاشی کی بنیاد (جہاں سے یہ بیماری جڑ پکڑتی ہے) یعنی آنکھ کی بے احتیاطی کو سختی سے قابو میں کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایسی بنیاد ہے کہ اگر صرف اس پر ہی قابو پایا جائے تو سادی بے حیائی دنیا سے رخصت ہو سکتی ہے۔

## بعض احادیث شریفہ

یہی وجہ ہے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ ﷺ نے نظر کو شیطان کا زہر یلاتیر قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

التَّظَنُّرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِي أَبَدَلْتُهُ  
إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ۔ (العروہب والترہیب ۲۳۳۳ عن عبد اللہ بن مسعود)

نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر یلاتیر ہے۔ جو اسے میرے خوف سے چھوڑ دے تو میں اس کے حوض سے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں

محسوس کرے گا۔

ایک دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ نے امت کو سختی سے متنبہ فرمایا:  
لَتَفْضُنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ أُولَئِكَ سَفِنَ اللَّهُ وَجُوهَكُمْ۔

(العربی والغریب ۲۵۳۳ عن ابی امامۃ)

اپنی نظریں نیچی رکھو اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے  
چہروں کو بے نور بنا دے گا۔

ایک موقع پر آنحضرت ﷺ سے سوال کیا گیا کہ اگر اچانک کسی (اجنبی) عورت پر  
نظر پڑ جائے تو کیا کریں؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا کہ فوراً وہاں سے نظر ہٹا لو۔

(مشکوٰۃ شریف ۱۶۸۲)

حضرت علیؑ کو آپ ﷺ نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ علیؑ ایک مرتبہ بلا ارادہ دیکھنے  
کے بعد دوسری مرتبہ (اجنبی عورت کو) دیکھنے کا ارادہ مت کرنا۔ اس لیے کہ پہلی (بلا ارادہ)  
نظر تو معاف ہے مگر دوسری مرتبہ دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ۲۱۶۷)

حضرت حسن بصریؒ آنحضرت ﷺ سے مرسل روایت کرتے ہیں کہ آپ نے  
ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو قصداً (بلا عذر کسی کے ستر کو یا اجنبی عورت  
کو) دیکھنے والا ہو۔ اور وہ بھی ملعون ہے جسے (بلا عذر و اضطرار) دیکھا جائے۔ (مثلاً مرد  
ستر کھول کر گھومے یا عورت بے پردہ پھرے)۔ (مشکوٰۃ شریف ۲۷۰۳)

ان پاک ارشادات سے باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شریعت کی نظر میں نگاہ  
کی حفاظت پر کس قدر زور دیا گیا ہے۔

## پردہ کے احکامات

اسی بنا پر اسلامی فقہ میں پوزی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ پردہ اور حجاب کے  
احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تاکہ ان کو پیش نظر رکھ کر انسان ہر اعتبار سے اپنی نظر کو جہنم کا  
اینڈ من بنانے سے محفوظ رکھ سکے۔ حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی قدس

﴿ اللہ سے شرم رکھنے ﴾  
 سرہ نے، ”اصلاح الرسوم“ میں پردہ کے احکامات کا خلاصہ بیان فرمایا جس کی تلخیص درج ذیل ہے۔

مرد کے لیے ناف سے گھٹنے کے نیچے تک مردوں اور عورتوں سے بدن چھپانا فرض ہے۔ سوائے اپنی بیوی کہ اس سے کوئی عضو چھپانا ضروری نہیں۔ گویا ضرورت اسے بھی بدن دکھانا خلافِ اولیٰ ہے۔

عورت کو دوسری (مسلمان) عورت کے سامنے ناف سے گھٹنے تک بدن کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں (خصوصاً دیہاتوں میں) دوسری عورتوں کے سامنے نگلی بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ بالکل گناہ ہے۔

عورت کو اپنے شرعی محرم کے سامنے ناف سے گھٹنے تک اور کمر اور پیٹ کھولنا حرام ہے۔ البتہ سر، چہرہ، بازو اور پنڈلی کھولنا گناہ نہیں ہے۔ گویا بعض اعضاء کا بلا ضرورت کھولنا مناسب بھی نہیں۔ اور شرعی محرم وہ ہے جس سے عمر بھر کسی طرح نکاح صحیح ہونے کا احتمال نہ ہو۔ جیسے باپ، حقیقی بھائی، علاتی (باپ شریک)، بھائی، اخیانی (ماں شریک)، بھائی، ان بھائیوں کی اولادیں۔ اسی طرح انہی تینوں طرح کی بہنوں کی اولاد اور انہی جیسے رشتہ دار جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ اور جس سے عمر میں کبھی بھی نکاح صحیح ہونے کا احتمال ہو وہ شرعاً محرم نہیں بلکہ نامحرم ہے۔ اور شریعت میں جو حکم محض اجنبی اور غیر آدمی کا ہے وہی حکم ان کا بھی ہے۔ اگرچہ ان کے ساتھ قرابت کا رشتہ بھی ہو، جیسے چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد اور ماموں زاد بھائی یا بہنوئی یا تندوئی وغیرہ یہ سب نامحرم ہیں۔ اور ان سے وہی پرہیز ہے جو نامحرموں سے ہوتا ہے۔ بلکہ چونکہ ایسے موقعوں پر فتنہ کا واقع ہونا سہل ہے اس لیے اور زیادہ احتیاط کا حکم ہے۔

جو شرعاً محرم ہو اس کے سامنے سر اور بازو اور پنڈلی وغیرہ کھولنا حرام ہے۔ اور اگر سخت مجبوری ہو مثلاً عورت کو ضروری کاروبار کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہو، یا کوئی رشتہ دار کثرت سے گھر میں آتا جاتا ہو، اور گھر میں نگلی کی بنا پر ہر وقت پردہ نہیں رکھا جاسکتا، صرف

ایسی حالت میں جائز ہے کہ اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ تک اور پیر ٹخنے کے نیچے تک کھولے رکھے۔ اس کے علاوہ اور کسی حصہ بدن کا کھولنا جائز نہ ہوگا۔ لہذا ایسی عورتوں پر لازم ہے کہ سر کو خوب ڈھانکیں۔ کرتہ بڑی آستین کا پہنیں۔ پاجامہ غرارہ دار نہ پہنیں۔ اور کلائی اور ٹخنے نہ کھلنے دیں۔

جس عضو کو ظاہر کرنا جائز نہیں (جس کی تفصیل ابھی گزری) اس کو مطلقاً دیکھنا حرام ہے گو شہوت بالکل نہ ہو۔ اور جس عضو کو دیکھنا اور اس پر نظر کرنا جائز ہے اس میں قید ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو، اگر ذرا سا شک ہو تو اس وقت دیکھنا حرام ہے۔ اب یہاں سمجھئے کہ بوڑھی عورت جس کی طرف اصلاً رغبت کا احتمال نہ ہو اس کا چہرہ تو دیکھنا جائز ہوگا۔ مگر سر اور بازو وغیرہ دیکھنا جائز نہ ہوگا۔ ایسی عورتیں گھروں میں اس کی احتیاط نہیں کرتیں، اور اپنے نامحرم رشتہ داروں کے سامنے ننگے سر اور بے آستین کا کرتہ پہننے بیٹھی رہتی ہیں، اور خود بھی گنہگار ہوتی ہیں اور مردوں کو بھی گنہگار کرتی ہیں۔

جس عضو کا دیکھنا حرام ہے، اگر علاج کی ضرورت سے اس کی طرف دیکھا جائے تو یہ جائز ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ نظر اس جگہ سے آگے نہ بڑھائے۔

نامحرم مرد کے ساتھ عورت کا تنہا مکان میں رہنا حرام ہے۔ اسی طرح اگر تنہائی نہ ہو بلکہ دوسری عورت موجود ہو مگر وہ بھی نامحرم ہو تب بھی مرد کا اس مکان میں ہونا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اس عورت کا محرم یا شوہر یا اس مرد کی کوئی محرم یا بیوی بھی اس مکان میں ہو تو مضائقہ نہیں۔ (مگر فتنہ سے محفوظ ہونا یہاں بھی شرط ہے۔ از مرتب)

نامحرم مرد و عورت میں باہم ہم کلائی بھی بلا ضرورت ممنوع ہے۔ اور ضرورت کے وقت بھی فضول باتیں نہ کرے، نہ ہنسنے نہ مذاق کی کوئی بات کرے۔ حتیٰ کہ لہجہ کو نرم بھی نہ کرے۔

مرد کے گانے کی آواز عورت کو اور عورت کے گانے کی آواز مرد کو سننا ممنوع ہے۔  
حضرات فقہاء نے نوجوان نامحرم عورت کو سلام کرنے یا اس کا سلام لینے سے منع

کیا ہے۔

نامحرم عورت کا جھوٹا مرد کے لیے اور نامحرم مرد کا جھوٹا عورت کے لیے استعمال کرنا مکروہ ہے۔ جبکہ دل میں لذت پیدا ہونے کا احتمال ہو۔

اگر نامحرم کا لباس وغیرہ دیکھ کر طبیعت میں میلان پیدا ہوتا ہو تو اس کا بھی دیکھنا حرام ہے۔

ایسی نابالغ لڑکی جس کی طرف رغبت ہوتی ہو اس کا حکم بالذات عورتوں کے مانند ہے۔ جس طرح بری نیت سے نامحرم کی طرف نظر کرنا، اس کی آواز سننا، اس سے بولنا اور چھونا حرام ہے۔ اسی طرح اس کا خیال دل میں جمانا اور اس سے لذت لینا بھی حرام ہے۔ اور یہ قلب کا زنا ہے۔

اسی طرح نامحرم کا ذکر کرنا یا سننا یا فوٹو دیکھنا یا اس سے خط و کتابت کرنا غرض جس ذریعہ سے بھی خیالات فاسدہ پیدا ہوتے ہوں وہ سب حرام ہیں۔

جس طرح مرد کو اجازت نہیں کہ نامحرم عورت کو بلا ضرورت دیکھے بھالے اس طرح عورت کو بھی جائز نہیں کہ بلا ضرورت نامحرم کو جھانکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی یہ عادت کہ تقریبات میں دولہا کو یا بارات کو جھانک کر دیکھتی ہیں، بری بات ہے۔ ایسا ہارنیک کپڑا پہننا جس میں بدن جھلکتا ہو وہ مثل ننگے ہونے کے ہے۔ احادیث میں اس کی مذمت آئی ہے۔

مرد کو غیر عورت سے بدن دلوانا جائز نہیں ہے۔

بچنے والا ایسا زیور جس کی آواز نامحرم تک جائے۔ یا ایسی خوشبو جس کی مہک غیر محرم کے دماغ تک پہنچے استعمال کرنا عورتوں کو جائز نہیں۔ یہ بھی بے پردگی میں داخل ہے۔ اور جو زیور خود نہ جتا ہو مگر دوسری چیز سے لگ کر آواز دیتا ہو اس میں یہ احتیاط واجب ہے کہ پاؤں زمین پر آہستہ رکھے تاکہ افشاء نہ ہو۔

چھوٹی بچی کو بھی بچنے والا زیور نہ پہنایا جائے۔



نامحرم ہیر کے سامنے بے پردہ ہونا حرام ہے۔

امرد یعنی بے واڈھی والا (خوبصورت اور پرکشش) لڑکا بھی احکام میں انجمنی عورت کے مانند ہے۔ یعنی اندیشہ شہوت کے وقت اس کی طرف نظر کرنا، اس سے مصافحہ یا معاقدہ کرنا، اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنا، اس سے گانا سننا، یا اس کے سامنے گانا سننا، اس سے بدن دلوانا، یا اس سے بہت پیارا اور اخلاص سے باتیں کرنا یہ سب حرام ہے۔

سفر میں اگر کوئی مرد محرم (یا شوہر) ساتھ نہ ہو تو عورت کو سفر کرنا حرام ہے۔

بعضے لوگ جو ان لڑکیوں (یا قریب الملوغ بچیوں) کو ناپینا یا پینا مردوں سے بے

پردہ پڑھواتے ہیں، یہ بالکل خلاف شریعت ہے۔ (فہم از اصلاح الرسوم ۲۵۵ تا ۲۵۷ بحکم الفاظ)

یہ سب مسائل قرآن وحدیث کی واضح نصوص سے مستنبط ہیں، اور اصلاح الرسوم میں حاشیہ پر ان کے فقہی حوالے بھی درج ہیں، ان میں سے ہر ہر مسئلہ کو پڑھ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے گھرانے میں ان پر کتنا عمل ہوتا ہے اور کتنا خلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر کامل طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔



## باریک اور چست لباس بھی ممنوع ہے

پردہ کے احکامات میں یہ بھی ہے کہ مرد و عورت ایسا لباس نہ پہنا کریں جس سے اعضاء مستورہ کی ہیئت بجائے چھپنے کے اور ابھر کر آجائے۔ آنحضرت ﷺ نے جہنم میں جانے والی بعض عورتوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ لباس پہننے کے باوجودنگی ہوں گی۔ (مسلم شریف ۴/۲۰۵)

اور اس جملہ کی تفسیر میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس سے یا تو ایسا لباس مراد ہے جو پوری طرح ساتر نہ ہو اور یا ایسا باریک لباس مراد ہے جو بدن کی رنگت (اور ہیئت) کو نہ چھپا سکے۔ (نودی علی مسلم ۲/۲۰۵) طبرانی میں مشہور صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے:

إِنَّ الرَّجُلَ لِكَيْبَسُ وَهُوَ عَارٍ يَعْنِي الثِّيَابَ الرِّقَاقَ۔ (اللباس والزينة من السنة

المطهرة ۵۸)

آدمی ایسا لباس پہنتا ہے جسے پہننے کے باوجود وہ بے لباس رہتا ہے (یعنی باریک کپڑے جو ساتر نہ ہوں)

آج کل نئے فیشن میں یہ دونوں باتیں کثرت سے رائج ہو گئی ہیں۔ یا تو ایسے باریک لباس پہنے جاتے ہیں جن سے بدن پوری طرح جھلکتا ہے، یا پھر ایسے چست لباس استعمال کیے جاتے ہیں جو بدن کی ہیئت ابھاردیتے ہیں۔ یہ طرز لباس مرد و عورت دونوں کے لیے باعثِ شرم اور طبعی غیرت کے خلاف ہے۔ جب سے جنم (کسی ہوئی پینٹ) اور ٹی شرٹ کا بیہودہ فیشن چلا ہے یہ بے غیرتی بالکل عام ہو گئی ہے۔ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے برسر عام اس بے حیا لباس کو پہن کر بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مگر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب کہ اللہ سے شرم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی ان بے حیائیوں سے بچیں اور اپنے گھروالوں کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کریں۔

## تنہائی میں بھی بلا ضرورت ستر نہ کھولیں

اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تنہائی میں بھی حتی الامکان اپنے ستر کو چھپانے کا اہتمام کریں۔

(۱) حضرت بنو بن حکیم اپنے دادا کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ”اے اللہ کے رسول! ہم اپنا ستر کس سے چھپائیں؟ اور کس سے نہ چھپائیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیوی اور باندی کے علاوہ سب سے چھپاؤ۔“ پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ)! اگر ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی رہتے ہوں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ”جہاں تک ممکن ہو کوشش کرو کہ تمہارے ستر پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔“ پھر انہوں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! اگر ہم تنہا ہوں تو کیا کریں؟“ اس پر آنحضرت (ﷺ) نے ارشاد فرمایا:

قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ۔ (شعب الایمان ۱۵۱/۶)

تو لوگوں سے زیادہ اللہ سے اس کا مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔

امام بیہقی اس جملہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ”اس بات سے شرم کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ستر پر نظر کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی شے، کسی جگہ بھی مخفی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ ستر پوشی کو چھوڑ دینا اللہ کے سامنے بے حیائی ہے اور ستر کا اہتمام رکھنا ہی حیا ہے۔ (شعب الایمان ۱۵۱/۶)“

(۲) سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تقریر کے

دوران یہ صحیح فرمائی:

بِمَا عَشَرَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ قَوْلَ الَّذِي نَفَعَنِي بِوَيْدِهِ إِنِّي لَا أَظَلُّ حِينَ أَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ فِي الْفَضَاءِ مُتَقِنًا بِثَوْبِي اسْتِحْيَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

(شعب الایمان ۱۴۲/۶)

اے مسلمانو! اللہ سے شرم کیا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان

﴿اللہ سے شرم نہ کرنے﴾

ہے، میں جب قضاء حاجت کے لیے محراب میں جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے شرم کی وجہ سے اپنے کپڑے لپیٹ کر جاتا ہوں (یعنی حتی الامکان ستر پوشی کا اہتمام کرتا ہوں)

(۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سوتے وقت (نگی کے نیچے) نیکر پہن کر سوتے تھے کہ کہیں سونے کی حالت میں ان کا ستر نہ کھل جائے۔ (شعب الایمان ۱۵۴/۶)

(۴) اسی طرح ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ہدایت فرمائی:

إِنَّ اللَّهَ حَسْبِي سَتِيرٌ مَعَاذًا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَفْتَسِلَ فَلْيَتَوَارِبْشِيءَ۔

(شعب الایمان ۱۶۱/۶)

اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ستر پوشی کو پسند کرنے والا ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی غسل کا ارادہ کرے تو کسی چیز سے آڑ کر لے۔

یہ ہدایات ہم سب کے لیے لائق توجہ ہیں۔ آج کل عموماً تہائیوں میں ستر کا اہتمام نہیں رہتا حتیٰ کے گھروں کے باہر سڑکوں پر لگے ہوئے ٹلوں اور پانی کی ٹینکیوں پر بڑی بڑی عمر کے لوگ ستر کا اہتمام کئے بغیر غسل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نیز نہروں اور دریا کے ساحلوں پر تو اس طرح کی بے حیائیوں کے مناظر بکثرت دیکھنے کو ملتے ہیں، تو غور فرمایا جائے کہ جب ہماری شریعت تہائی میں بھی ضرورت سے زائد ستر کھولنے سے منع کرتی ہے تو بھلا عوامی جگہوں پر اس بے حیائی اور بے غیرتی کے مظاہرہ کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟

## میاں بیوی بھی ستر کا خیال رکھیں

اسلامی تعلیم یہ ہے کہ زوجین بھی آپس میں بالکل بے شرم نہ ہو جایا کریں بلکہ حتیٰ الامکان ستر کا خیال رکھیں۔ چنانچہ ایک مرسل روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں:

إِذَا آتَىٰ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَبِرْ وَلَا يَتَسَحَّرْ دَانَ تَحَرُّدِ الْعَبْرِيِّ - (مسب)

(ایمان ۱۶۳/۶)

جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حتی الامکان ستر پوشی کرے اور جانوروں کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جایا کریں۔

معلوم ہوا کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ستر کو نہ دیکھیں۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پوری زندگی نہ میں نے آنحضرت ﷺ کا ستر دیکھا، نہ آپ نے میرا دیکھا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خالص لحاظ رکھ کر شرم و حیا کا ثبوت دینا چاہیے۔ والدین کے اعمال و اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہیں صفات و خصائل کی حامل ہوگی۔ اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہ رکھیں گے۔ تو اولاد میں بھی ایسی طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ آج ٹیلی ویژن کے پردے پر ننگے اور انسانیت سے گرنے ہوئے مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے میں ان کی نقل و تارنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ ہمارا رب اور ہمارا خالق و مالک تہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے، وہ اس بدترین حالت میں ہمیں دیکھے گا تو اسے کس قدر ناگوار گزرے گا۔ اس لیے اللہ سے شرم کرنی ضروری ہے۔ یہ شرم کا جذبہ ہی ہمیں ایسی بری باتوں سے بچا سکتا ہے۔

علاوہ ازیں ستر پوشی میں لاپرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ضروری باتیں بھی اسے یاد نہیں رہتیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ بھول کا مرض پیدا کرنے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ سے کھیل کرے اور اس کی طرف دیکھے۔ (شامی ۱/۲۲۵، کتاب المہارۃ مطلب سے توثیق النہیان)

بہر حال نظر سے صادر ہونے والی نامناسب باتوں میں سے اپنے ستر پر بلا

ضرورت نظر کرنا بھی ہے جس سے نظر کو محفوظ رکھنا چاہیے۔

## میاں بیوی اپنا راز بیان نہ کریں

اسی طرح یہ بھی بڑی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ میاں بیوی اپنے راز کو اپنے دوستوں اور سہیلیوں سے بیان کریں۔ ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي لِي أَمْرًا وَ تَفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ أَحَدَهُمَا سِرَّ صَاحِبِهِ (رواه مسلم ۶۳۱) من ابی سعید الخدری و ابو داؤد وغیرہما، المعرف بہ والغریب ۱۳۱/۳

قیامت کے روز اللہ کی نظر میں لوگوں میں سب سے بدترین مرتبہ پر وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس کے پاس آئے پھر ان میں سے ایک اپنے ساتھی کا راز (کسی دوسرے کے سامنے) کاش کر دے۔

حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں دوسرے مردوں اور عورتوں کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”ممکن ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کیے جانے والے فعل کو بیان کرتا ہو اور کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیے جانے والے کام کی دوسروں کو خبر دیتی ہو۔“ آپ کا یہ ارشاد سن کر اور لوگ تو خاموش رہے، مگر میں نے عرض کیا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول! مرد بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

فَلَا تَفْعَلُوا عَفَانًا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ۔ (رواه احمد، المعرف بہ والغریب ۲۱/۳)

تو ایسا نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ کام ایسا ہی ہے جیسے کوئی شیطان (بدمسرحام) کسی چیز سے جماع کرے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوں۔

اسلام بے حیائیوں کی باتیں پھیلانے سے روکتا ہے۔ زوجین کا اپنا راز عام

لوگوں میں بیان کرنا بدترین قسم کی بے حیائی ہے۔ اور اللہ رب العزت سے شرم و حیا کے قطعاً خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں اس بدترین فعل سے بھی احتراز کرنا چاہیے، بالخصوص نو بیاہتے جوڑے اس ہدایت کا خیال رکھیں۔ اس لیے کہ بگڑے ہوئے معاشرہ میں زیادہ تر انہیں ہی اپنے راز بیان کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ احادیث سے معلوم ہو گیا کہ یہ بیان کرنا اور بیان پر مجبور کرنا سب بدترین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔

## دوسرے کے گھر میں تاک جھانک

آنکھ کے ذریعہ کیے جانے والے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کسی دوسرے شخص کے گھر جائے اور اندر جانے کی اجازت لینے سے پہلے دروازے یا کھڑکی کے سوراخوں کے اندر جھانکنے لگے۔ یا دروازہ اگر کھلا ہوا ہو تو سیدھا دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے۔ اس لیے داخلے کی اجازت سے پہلے دیکھ لینے سے اجازت و استیذان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔

(۱) ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذؓ آنحضرت ﷺ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے اور دروازے کے بالکل سامنے آ کر اجازت مانگنے لگے تو آنحضرت ﷺ نے آپ کو ایک کنارے کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سعد ایسے (آڑ میں) کھڑے ہو کر اجازت لیا کرو۔ اس لیے کہ اصل میں اجازت کا حکم تو نظر ہی کی وجہ سے ہے۔ (شعب الایمان ۶/۳۳۳ حدیث ۸۸۲۵)

(۲) آنحضرت ﷺ اس طرح تاک جھانک کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے دولت خانہ کے سوراخ میں جھانکنے لگا۔ اس وقت آنحضرت ﷺ کے دست مبارک میں سینک تھی جس آپ سر کو کھجا رہے تھے، تو آپ نے (اس شخص کی حرکت کو دیکھ کر) فرمایا:

لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعْنْتُ بِهٖ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِیْذَانُ مِنْ أَحْجَلِ

البَصْرِ۔ (بخاری شریف ۲/۹۲۲)

اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دیکھ رہا ہے تو میں یہی (باریک سینگ) تیری آنکھ میں چھوڑ دیتا۔ کیونکہ اجازت لینے کا حکم تو اسی وجہ سے ہے کہ (دوسرے کی) نظر سے حفاظت رہے۔

ایک متفق علیہ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کے گھر بلا اجازت نظر ڈالے تو گھر والوں کے لیے اس کی آنکھ پھوڑ دینا جائز ہے۔ (مسلم شریف ۲/۲۱۲)

(۳) سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

مَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بَيْتِ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ فَسَقَ۔ (حسب

الایمان ۶/۳۳۳)

جس شخص نے داخلے کی اجازت سے پہلے گھر کا محن آنکھ بھر کر دیکھا تو اس نے گناہ اور فسق کا کام کیا۔

اس لیے اللہ سے شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو اس بد عملی سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔





## کان کی حفاظت

اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کانوں کو غلط آواز سننے سے محفوظ رکھے۔ ان غلط آوازوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین آواز گانے بجانے کی آواز ہے۔ قرآن کریم میں اسے ”شیطان کی آواز، بیکاربات، لہو و لعب کی چیز“ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی درج ذیل تین آیات سے گانے کا ممنوع ہونا معلوم ہوتا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ شیطان کو جواب دیتے ہوئے بطور تنبیہ فرماتا ہے:

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ (اسراء آیت: ۶۴)

اور گھبرالے تو ان میں جس کو تو گھبرا سکے اپنی آواز سے۔

یہاں بعض مفسرین نے آواز سے باجا گانا مراد لیا ہے: نقلہ القرطبی عن

مجاهد والضحاك۔ (۱۶۹/۵)

(۲) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ

عِلْمٍ مَّا يَتَّبِعُهُمْ هَازِلًا، أَوْ لَيْكًا لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ (لقمان آیت: ۶)

اور ایک وہ لوگ ہیں جو خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تاکہ بچلائیں (گمراہ

کریں) اللہ کی راہ سے بن سبھے اور ٹھہرائیں اس کو نہی وہ جو ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے۔

اس آیت میں کھیل کی باتوں سے وہ سب چیزیں مراد ہیں جو اللہ کی یاد سے

ہٹانے والی ہوں مثلاً فضول قصہ گوئی، ہنسی مذاق کی باتیں، داہیات مشغلے اور گانے بجانے

وغیرہ۔ روایات میں آتا ہے کہ نضر بن حارث جو مکہ کا ایک سردار تھا وہ گانے بجانے والی

باندیوں کو خرید لاتا اور اس سے گانے سنوا کر لوگوں کو قرآن سے روکتا تھا۔ (قرطبی ۴/۷۷)

(۳) وَتَضَحَّكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ۔ (النجم آیت: ۶۰-۶۱)

اور ہنستے ہو، روئے نہیں اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو۔  
اس آیت میں کھلاڑیاں کرنے سے مراد بعض مفسرین نے گانا بجانا لیا ہے۔  
(حاشیہ: الجمل ۳/۲۳۰، تغیر ابوالسود ۸/۱۶۶)

## احادیث شریفہ میں گانے کی حرمت

اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی گانے بجانے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔  
(۱) ایک حدیث میں ارشاد ہے:

صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ۔

(الترغیب والترہیب ۳/۱۸۳)

دو آوازیں دنیا اور آخرت میں قابل لعنت ہیں، ایک خوشی کے وقت میوزک کی  
آواز، دوسرے مصیبت کے وقت بین کرنے کی آواز۔

(۲) مَنْ جَلَسَ إِلَى قَيْنَةٍ يَسْمَعُ مِنْهَا صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآ نَكَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ۔ (قرطبی ۷/۵۰، ب ۲۱، موطا فی حاشیہ ابی داؤد ۲۵/۶۷۴)

جو شخص اپنی باندی سے بیٹھ کر گانا سنے اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسہ  
پگھلا کر ڈالا جائے گا۔

(۳) آنحضرت ﷺ نے ایک طویل حدیث میں وہ علامات بیان فرمائی ہیں جن  
کے پائے جانے کے وقت میں امت مسلمہ، نذاب سے دوچار ہوگی انہی میں سے ایک  
علامت یہ ہے:

وَأُظْهِرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِفُ۔ (ترمذی ۲/۳۵۲، عن علی بن ابی طالب ۷/۵۰)

اور گانے والی باندیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔

(۴) ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک ﷺ کا یہ

ارشاد نقل فرماتی ہیں:

مَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ حَارِيَةٌ مُغْنِيَةٌ فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِ۔ (قرطبی ۷/۵۱)

جس کا انتقال ہو جائے اور اس کے پاس کوئی گانے بجانے والی باندی ہو تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔

اس روایت سے آنحضرت ﷺ کی نظر میں گانے کی ناپسندیدگی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

(۵) آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ وَفِي رِوَايَةٍ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي

الْقَلْبِ الخ (مشکوٰۃ شریف ۲/۱۱۳، شعب الایمان ۳/۲۹۴ حدیث ۵۱۰۵ عن جابر)

گانا بجانا دل میں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔

(۶) آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَيْشْرَبَنَّ أَنْسَابُ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمَوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَيُضْرَبُ عَلَى

رُؤُوسِهِمُ الْمَعَارِزُ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرًا۔

(شعب الایمان ۳/۲۸۲ حدیث ۵۱۱۳)

میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے مگر اس کو دوسری چیز کا نام دیں گے اور ان کے سروں پر گانے بجانے کے آلات بجائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور انہی میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔

## گانا بجانا علماء و فقہاء کی نظر میں

یہ احادیث گانے بجانے کی حرمت پر مراحۃ دال ہیں۔ اسی بناء پر امت کے اکابر علماء گانے بجانے کی حرمت پر متفق رہے ہیں۔ امام شععی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گانے والا اور جس کے لیے گایا جائے دونوں ملعون ہیں۔

حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ گانا بجانا، زنا کا جنتر منتر ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو انہوں نے مزار (گانے بجانے کے آلہ) کی آواز سنی تو اپنے دونوں کانوں میں

انگلیاں دے لیں اور اس جگہ سے دور ہٹ گئے تاکہ آواز نہ سن سکیں اور فرمایا کہ آنحضرت ﷺ بھی جب ایسی آواز سنتے تھے تو یہی عمل فرمایا کرتے تھے۔ (شعب الایمان ۳/۲۸۳)

صاحب در مختار علامہ ہسکتی، فتاویٰ بزازیہ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

إِسْتِمَاعُ صَوْتِ الْمَلَاهِي كَضَرْبِ قَضْبٍ وَنَحْوِهِ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي مَعْصِيَةٌ، وَالْحُلُوسُ عَلَيْهَا فَسُقٌ، وَالتَّلَذُّدُ بِهَا كُفْرٌ أَيْ بِالنِّعْمَةِ، مَفْصُوفٌ الْحَوَارِخِ إِلَى غَيْرِ مَا خَلِقَ لِأَجْلِهِ كُفْرٌ بِالنِّعْمَةِ لِأَشْكَرُ، فَالْوَاجِبُ كُلُّ الْوَاجِبِ أَنْ يُحِيبَ كُنَى لَا يَسْمَعُ لِمَا رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي أُذُنِهِ عِنْدَ سَمَاعِهِ.

(در مختار مع الشامی کراچی ۶/۳۹۱ طبع فصل فی اللبس)

لہو و لعب والی چیزوں کی آواز سننا مثلاً بین اور ہارمونیم وغیرہ حرام ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ لہو و لعب کی چیزیں سننا گناہ ہے اور ایسی مجلس میں بیٹھنا فسق ہے اور ان سے لذت حاصل کرنا کفرانِ نعمت ہے۔ اس لیے کہ اعضاء و جوارح کو ان کاموں میں لگانا جن کے لیے ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ (یعنی معصیت کے کاموں میں لگانا) شکر نہیں بلکہ نعمتِ خداوندی کی ناشکری ہے، لہذا واجب سے بڑھ کر واجب ہے کہ ایسی آوازیں سننے سے اجتناب کیا جائے جیسا کہ مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان کے سننے کے وقت اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔

شریعتِ اسلامی نے جس شدت سے مسلمانوں کو گانے بجانے میں انہماک سے روکا ہے۔ فسوس ہے کہ آج اسی کثرت کے ساتھ اس عظیم معصیت میں ابتلاء عام ہو گیا ہے اب درودِ یوار سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں۔ کام کرنے والے کاریگر گانوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ بغیر اس آواز کے ان کا دل ہی کام میں نہیں لگتا۔ گھروں سے قرآن کریم کی آوازوں کے بجائے دن رات میوزک اور ڈیک کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور پھر اس پر بس نہیں کہ آدمی خود ہی سن کر گنہگار ہو بلکہ تیز ترین آواز میں اسے بجا کر سارے

محلہ والوں کو گنہگار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ٹیپ رکارڈ اور گانے بجانے اور فلم کی اسٹوریوں کے کیسٹ ہیں جنہیں دن رات بجا کر اوقات کو ضائع اور اخلاق و عادات کو تباہ کیا جاتا ہے۔ ”فحشیوں کا پٹارا“ ٹیلی ویژن، وی سی آر اور کیبل، ٹی وی کے وسائل عام ہو گئے ہیں اور ان کے ذریعہ ہمارے کان گناہوں میں پوری طرح ملوث ہو چکے ہیں۔

## مروجہ قوالی بھی حرام ہے

اس سے آگے بڑھ کر شیطان نے قوالی کی شکل میں اس حرام کام کو جائز کرنے کا بہانہ بھی گھڑ لیا ہے۔ آج قوالیاں، میوزک کی تھاپوں پر گائی جاتی ہیں اور طلبوں اور ہارمونیم کے ساز پر قوال اشعار پڑھتے ہیں۔ یہ اشعار خواہ کتنے ہی صحیح اور حقیقت پر مبنی کیوں نہ ہوں، میوزک اور آلات موسیقی کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے ان کی حرمت اور ممانعت میں کوئی تخفیف نہیں ہو سکتی۔ میوزک بہر حال حرام ہے۔ فقہ حنفی کے مشہور عالم علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ:

وَمَا يَفْعَلُهُ مُتَصَوِّفَةٌ زَمَانِنَا حَرَامٌ لَا يَحْوِزُ الْقَصْدُ وَالْحُلُوسُ إِلَيْهِ۔

(شامی ۳۹/۶ جہیل فصل فی اللبس)

اور جو ہمارے زمانہ کے صوفی لوگ (قوالیاں گاتے اور وجد) کرتے ہیں وہ حرام ہے ایسی مجلسوں میں جانا اور شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے۔

مگر افسوس ہے کہ آج قوالیوں کو عین عبادت سمجھ کر اسے جعلی بناوٹی روحانیت کے حصول کا ذریعہ بنایا جانے لگا۔ اور پہلے تو یہ قوالیاں عموماً عرس اور مزارات تک محدود تھیں۔ مگر جب سے نئے الیکٹرانک آلات، ٹیپ رکارڈ اور گراموفون وغیرہ ایجاد ہوئے ہیں تو ان چیزوں کا بہت عموم ہو گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عام گانوں کے مقابلہ میں مذہبی اشعار کی قوالیاں اور زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لیے کہ ان میں اللہ اور رسول کا نام میوزک کے ساتھ لیا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ بھونڈے مذاق کا

مظاہرہ کرنے کے مرادف ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص نعوذ باللہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کو میوزک پر پڑھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا تقاضا اور غیرت اسلامی کا مقتضی یہ ہے کہ ہم ناجائز آوازوں کے ساتھ اللہ اور اس کے مقدس رسول کا نام لینا بھی ہرگز پسند نہ کریں۔

## رمضان کی بے حرمتی

ان تو ایوں کا سب سے زیادہ بے دردی کا استعمال ماہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ رمضان کی وہ مبارک اور روحانی ساعتیں جن میں ایک فریضہ کا ثواب ستر گناہ تک زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان میں تو ایوں اور گانوں کا سننا اور سننا سخت گناہ ہے۔ مگر افسوس ہے کہ بڑے شہروں میں رمضان المبارک کی راتوں میں ہوٹلوں اور دکانوں پر پوری پوری رات تو ایوں کی ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے اور آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ محلہ والوں کا عبادت کرنا بھی دو بھر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک کی بھی توہین اور ناقدری ہے۔

بہر حال ہماری یہ کوتاہی قابل اصلاح ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے ڈرے اور آخرت میں دربار خداوندی میں جو بدی کا خوف ہے تو ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے اور اپنے کانوں کو ہر بری بات سننے سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

## دوسروں کی راز کی باتیں سننا

کان سے کیے جانے والے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی راز کی باتوں کو سننے کی کوشش میں لگا رہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صَبَّ فِي أُذُنِهِ الْإِنْتِكُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ - (بخاری شریف ۲/۱۰۴۲ عن ابن عباس)

جو شخص لوگوں کی ایسی باتیں غور سے سنے جن باتوں کو وہ دوسروں کو سنانا ناپسند سمجھتے ہیں تو اس کے کانوں میں قیامت کے روز پکھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔  
نیز قرآن کریم میں بھی تجسس (جاسوسی) سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے۔

إِنْ أَتَبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدَتْهُمْ أَوْ كَذَبْتَ أَوْ تَفْسِدَهُمْ۔

(ابو داؤد شریف ۲/۶۸۰)

اگر تم لوگوں کے پوشیدہ عیوب وغیرہ کے درپے ہو گے تو تم انہیں فساد میں مبتلا کر دو گے یا فساد کے قریب تک پہنچا دو گے۔

## ایک عبرت ناک واقعہ

علامہ ابو عبد اللہ محمد القرطبی نے ”الجامع لاحکام القرآن“ میں عمرو بن دینار کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ اتفاق سے تدفین کے وقت اس شخص کی ایک تھیلی جس میں دینار بھرے ہوئے تھے، قبر میں رہ گئی۔ چنانچہ اس نے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ پوری قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے جا کر اپنی والدہ سے پوچھا کہ میری بہن کی عملی زندگی کیسی تھی؟ والدہ نے بتایا کہ ایک تو نماز کو اپنے وقت سے ٹال دیتی تھی یعنی قضا کر دیتی تھی، دوسرے یہ کہ جب رات کو پڑوسی اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تو یہ اٹھ کر ان کے دروازوں پر کان لگالتی اور ان کے رازوں کو حاصل کر لیتی تھی۔ تو اس شخص نے اپنا چشم دید واقعہ ذکر کیا اور کہا کہ اس کی انہی بد عملیوں کا وبال ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ (قرطبی ۸/۳۰۲)

ان حقائق کی روشنی میں ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہر آدمی دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ کیا چیز لائق تنقید ملے اور ہم بات کو بنگلڑ بنائیں۔ اپنے عیوب سے لاپرواہی اور ہوسرے کے معائب کی کھود کر یہی فساد اور بدگمانیوں کی بنیاد ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ تجسس میں رہنے والا آدمی کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ ہمیشہ ذہنی

کوفت اور الجھن میں مبتلا رہے گا۔ اس کے برخلاف جو شخص اپنے کام سے کام رکھے اور دوسرے کے معاملات میں زیادہ نہ پڑے اس کی زندگی نہایت سکون سے گزرے گی۔ شریعت کی یہ ہدایتیں ہمارے لیے دنیوی اور اخروی فلاح کی ضامن ہیں۔ اس لیے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے واقعی شرم و حیا کا ثبوت دینا چاہیے۔





## داڑھی منڈانا بھی بے شرمی ہے

سر کی حفاظت کا ایک عنصر یہ بھی ہے کہ سر اور چہرے کی تراش اور خراش شریعت کی بتائی ہوئی ہدایات کے عین مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دو الگ الگ صنفیں بنائیں ہیں اور ان میں جہاں اعضاء کی ساخت میں فرق رکھا ہے وہیں ان کے درمیان امتیاز کی ایک واضح علامت داڑھی کو قرار دیا ہے۔ قدرتی طور پر مردوں کے چہرے پر داڑھی نکلتی ہے اور عورتوں کے نہیں نکلتی۔ یہ ایسا واضح فرق ہے جس سے پہلی نظر میں مرد و عورتوں میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ اب جو شخص داڑھی منڈاتا ہے وہ مرد ہونے کے باوجود عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے اور اس طرح کی مشابہت پر احادیث میں سخت لعنت وارد ہوئی ہے ایک حدیث میں وارد ہے:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ۔ (البخاری ۲/۸۷۴ حدیث ۵۸۸۵ عن ابن عباس، اللباس والزينة ۹۶۲)

آنحضرت ﷺ نے عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے شبہ کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔

لہذا جو شخص بھی شرم و حیا رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے کو عورتوں کے شبہ سے بچا کر واقعی اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا ثبوت دے اور اپنے سر اور اس سے متعلق اعضاء کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرے۔

داڑھی نہ رکھنے میں ایک تو عورتوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان مرد کے لیے یہی خرابی کیا کم تھی کہ مزید اس پر آنحضرت ﷺ نے داڑھی نہ رکھنے کو مشرکین اور مجوسیوں کی علامت قرار دیا ہے۔ اور مسلمانوں کو تاکید کے ساتھ داڑھی رکھ کر ان کی مخالفت کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

خَائِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفَرُّوا اللَّحْيَ وَأَحْفُوا الشُّوَارِبَ۔

(بخاری شریف ۸۷۵/۲ عن ابن عمر)

مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب کتر واؤ۔

ایک دوسری حدیث میں ہے:

قَصُّوا الشُّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحْيَ خَالِفُوا الْمَجُوسَ۔ (رواہ مسلم ۱۲۹/۱ بزاز)

(المعاد ۱۷۹/۱)

مونچھیں کتر واؤ اور داڑھیاں چھوڑو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔

نیز ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ دربار نبوت میں بادشاہ کسریٰ کے دو قاصد حاضر ہوئے۔ دونوں کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں انہیں اس صورت میں دیکھ کر آنحضرت ﷺ کو سخت ناگواری ہوئی، فرمایا تمہارا برابر ہو، آخر تمہیں کس نے ایسی صورت بنانے کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے آقا یعنی کسریٰ نے۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَكِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي وَقَصِّ شَوَارِبِي۔ (البہار والنہایہ ۳/۲۶۹)

لیکن میرے رب نے مجھ کو داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کتر وانے کا حکم دیا ہے۔  
تو معلوم ہوا کہ داڑھیاں منڈانا دراصل مشرکین اور آتش پرستوں کا شیوہ ہے اور داڑھیاں رکھنا اہل ایمان کا شعار ہے۔ اور اس کا شمار ان سنتوں میں ہوتا ہے جو پہلے انبیاء علیہم السلام سے بھی ثابت ہیں اور جنہیں فطرت کہا جاتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل فرماتی ہیں:

عَشْرِينَ مِنَ الْفِطْرَةِ..... قَصُّ الشُّوَارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ..... الخ۔ (مسلم شریف ۱۲۹/۱)

دس باتیں فطرت میں سے ہیں جن میں مونچھیں کتر نا اور داڑھی بڑھانا شامل ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے داڑھی رکھنے کو واجب اور داڑھی منڈانے کو حرام کہا جاتا ہے اس میں یہ کہہ کر تخفیف نہیں کی جاسکتی کہ تو ”محض ایک سنت ہے کریں تو اچھا ہے نہ کریں

تو گناہ نہیں، جیسا کہ عام لوگ کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ اولاً کسی سنت کی اس طرح تحقیر خود تقاضائے محبت نبویؐ کے برخلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے سنت زائدہ کے درجہ میں رکھنا غلط ہے۔ اگر یہ محض سنت زائدہ ہوتی تو آنحضرت ﷺ اس کے خلاف کرنے پر ناگواری کا اظہار نہ فرماتے۔ اور نہ اس کی اس قدر تاکید کی جاتی۔ اسی وجہ سے تمام ہی فقہاء کے نزدیک داڑھی منڈانا اور ایک مشمت ہے کم ہونے کی صورت میں اسے کتر وانا حرام قرار دیا گیا ہے جس کی تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں۔

### لمحہ بر فکر یہ

ایک طرف تو داڑھی کی یہ شرعی حیثیت ہے دوسری جانب امت کی اکثریت کا عمل آج اس کے بالکل برخلاف ہے۔ داڑھی منڈانے کی وہاں ایسی عام ہو گئی کہ اب ذہن سے اس نا جائز ہونے کا تصور ہی محو ہو گیا۔ بلکہ اگر کسی کو بتایا جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے تو غلطی تسلیم کرنے کے بجائے لچر اور رریک قسم کے اعذار پیش کرنے لگتا ہے اور ”عذر گناہ بدتر از گناہ“ کا مصداق بن جاتا ہے۔

افسوس ہے کہ دیگر قومیں جن کا دامن تصور آخرت سے خالی ہے وہ تو اپنے شعائر کا حد درجہ اہتمام کریں اور ہر سطح پر اپنی الگ شناخت بنانے کی کوشش کریں اور مسلمان جو دنیا میں تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کا ضامن اور آخرت میں کامیابی کا پروانہ لے کر آیا ہے وہ اپنی شناخت بنانے کے بجائے دوسری قوموں کی علامتوں میں ضم ہو کر اپنا وجود ہی کالعدم کرنے پر تیار ہو۔ یہ صورت حال افسوسناک ہی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے تشویشناک بھی ہے۔ آج ہندوستان میں نظر ڈال کر دیکھیے۔ پورے ملک میں سکھ قوم کے افراد کی تعداد صرف دو کروڑ ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنے شعائر اور شناخت کے مضبوطی سے پابند ہیں کہ سینکڑوں افراد میں اگر ایک بھی سکھ ہوگا تو وہ اپنی پگڑی اور داڑھی اور کرپان کے ذریعہ دور ہی سے پہچانا جائے گا۔ اس قوم کا فرد خواہ اسپلی یا پارلیمنٹ میں جائے حتیٰ کہ صدر جمہوریہ کیوں نہ ہو جائے۔ اسی طرح فوجی ملازمت میں رہے یا شہری کمپنیوں میں رہے، ہرہ ال

میں اپنی قومی شناخت کو سینے سے لگائے رکھتا ہے۔ جب کہ مسلمان جو ملک میں کم و بیش نہیں کروڑ کی تعداد میں آباد ہیں۔ ان کے لباس تراش و خراش کسی چیز میں بھی عام طور پر ایسی شناخت باقی نہیں رہ گئی جو انہیں دوسروں سے ممتاز کر دے۔ سفر کے دوران مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز دشوار ہے۔ اسی غفلت اور لاپرواہی بلکہ مرعوبیت کی وجہ سے آج مسلمانوں کی آواز کمزور ہے۔ اور وہ متحد ہو کر اپنی بات منوانے کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ یہ ہدایت نبوی سے دوری کا ہی نتیجہ ہے۔ اور اس کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں اور ماحول سے متاثر ہوئے بغیر پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہماری زندگی کی ڈگر اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کے تقاضوں کے مطابق ہے یا ان کے برخلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے۔ آمین

## سر پر انگریزی بال

سر کے بالوں کے بارے میں بھی شرعی ہدایات واضح طور پر موجود ہیں۔ جن کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آنحضرت ﷺ عام طور پر سر مبارک پر پٹھے بال رکھتے تھے۔ جو اکثر کان کی لوتک رہتے اور کبھی اس سے نیچے تک بھی ہو جاتے تھے اور حج و عمرہ کے موقع پر آپ کا سارے بالوں کو منڈانا بھی ثابت ہے۔ آپ کے طرز عمل سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ بال رکھے جائیں تو سب رکھے جائیں اور کاٹے جائیں تو سب برابر کاٹے جائیں، یہ نہ ہو کہ کہیں سے تو منڈا لیا اور کہیں سے چھوڑ دیا۔ چنانچہ آپ نے ”قرع“ (یعنی بال کہیں سے مونڈ دینا اور کہیں سے چھوڑ دینا) سے منع فرمایا ہے۔

(بخاری شریف باب القرع ۱۲/۸۷۷)

علماء نے اسی حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ بیک وقت بال چھوٹے بڑے رکھنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ آج کل انگریزی بال رکھے جاتے ہیں کہ پیچھے سے چھوٹے کر کے آگے کے حصہ میں بڑے چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ تو اس طریقہ میں ایک تو ”قرع“ جیسی خرابی پائی جاتی ہے اور دوسرے اس میں غیر قوموں سے مشابہت بھی ہے جس پر

آنحضرت ﷺ نے ان الفاظ میں وعید فرمائی ہے کہ:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (مشکوٰۃ حریف ۲/۳۷۵)

جو شخص کسی قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں شمار ہے۔

مگر انہوں نے کہ یہی غیر قوموں کا طریقہ آج ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ شاید گنتی کے دو چار فیصد لوگ ہوں گے جو بالوں کے بارے میں شرعی ہدایات پر کاربند ہیں۔ ورنہ اب تو بس انگریزی بالوں کا چلن ہے، ٹوپیاں غائب ہیں اور سروں پر انگریزیت چھائی ہوئی ہے۔ بچوں سے لے کر نوجوانوں حتیٰ کے بڑے بوڑھے لوگ بھی چھوٹے بڑے بے ہنگم بال رکھنے کے شوقین نظر آتے ہیں اور اجماع سنت کا خیال تک دل میں نہیں آتا۔

## عورتوں کے بال

شریعت میں سر کے بالوں کو عورت کی زینت قرار دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ وہ سر کے بالوں کو نہ منڈائے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَخْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا۔ (سنن حریف ۲/۲۷۵)

آنحضرت ﷺ نے عورت کو اپنا سر منڈانے سے منع فرمایا ہے۔

اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب درمختار میں لکھا ہے کہ:

قَطَعَتْ شَعْرَ رَأْسِهَا آيَسَتْ وَلُعِنَتْ، وَإِنْ يَأْذَنُ الزَّوْجُ، لِأَنَّهُ لَا طَاعَةَ

لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ۔ (درمختار ۶/۳۰۷)

عورت نے اپنے سر کے بال کاٹ لیے تو گنہگار اور ملعون ہوئی، اگرچہ شوہر کی اجازت سے ایسا کرے۔ اس لیے کہ خالق (اللہ تعالیٰ) کی نافرمانی والے کام میں کسی مخلوق کی اطاعت روا نہیں ہے۔

عورتوں کے لیے بال کاٹنے کی ممانعت کی بنیاد یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے عورت مردوں سے تشبہ کرنے والی بن جاتی ہے اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ آج کے

دور میں عورتوں میں جو بال کاٹنے کا رواج ہو گیا ہے یہ شریعت اسلامی کی رو سے قطعاً ناجائز ہے، جس طرح مرد کے لیے داڑھی کاٹنا حرام ہے اسی طرح عورتوں کے لیے سر کے بال مردوں کی طرح کاٹنا حرام ہے اور اسے چاہے دنیا بے شرمی نہ کہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ حرکت بہر حال بے شرمی اور بے حیائی میں داخل ہے۔ اس سے بہر حال بچنا ضروری ہے اور گھر والوں کو بھی بچانا چاہیے۔



## باب دوم

# پیٹ کی حفاظت

- ☆ آمدنی کے حرام ذرائع
- ☆ سوو، جوا، سٹہ
- ☆ غصب، رشوت خوری
- ☆ مدارس کی رقوم میں احتیاط
- ☆ شرم گاہ کی حفاظت
- ☆ ہم جنسی کی لعنت



## مال حرام سے اجتناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی دوسری جامع علامت یہ بیان فرمائی کہ ”ولیحفظ البطن وما حوی“ یعنی ”آدمی اپنے پیٹ اور اس میں جمع کردہ چیزوں کی حفاظت کرے۔“ اس ہدایت کا اولین منہا حرام کمائی سے اجتناب و احتیاط ہے۔ ساتھ میں ان اعضاء و جوارح کی غلط کاریوں سے حفاظت کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے جو پیٹ سے متعلق ہیں مثلاً شرمگاہ، ہاتھ پیر اور دل کو برائیوں سے بچانا۔ یہ سب باتیں قابل لحاظ ہیں۔ اور ان کی رعایت رکھے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں جا بجا حلال مال اختیار کرنے کی تاکید اور حرام سے اجتناب نہ کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں اور قرآن و سنت میں واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ آدمی حرام ذرائع سے مال جمع نہ کرے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ (سورة البقرہ: ۱۸۸)

اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا ناحق اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک، کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے (ناحق) اور تم کو معلوم ہے۔

ایک جگہ تیسوں کا مال ناحق کھانے پر اس طرح کبیر فرمائی گئی:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ

نَارًا مَوْسِيصَلُونَ سَعِيرًا۔ (سورة النساء: ۱۰)

جو لوگ کہ کھاتے ہیں مال تیسوں کا ناحق وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب داخل ہونگے آگ میں۔

ایک جگہ ارشاد ہے:



﴿ اللہ سے شرم کہنے ﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ۔ (سورة النساء: ۲۹)

اے ایمان والو! نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے۔

یہی حکم ہر حرام مال کا ہے۔ جو مال بھی شریعت کی رعایت رکھے بغیر حاصل کیا جائے گا وہ موجب عذاب ہوگا اور اس کا استعمال کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔

### ارشادات نبویہ ﷺ

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْكُمْ۔

(سورة المؤمنون: ۵۱)

”اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ مال کے علاوہ کوئی اور مال (اپنے دربار میں) قبول نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے (پاکیزہ چیزیں استعمال کرنے کے بارے میں) مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے رسولو! کھاؤ عمدہ پاکیزہ چیزوں میں سے اور کام کرو نیک، بیشک میں تمہارے کام سے واقف ہوں۔

وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ (البقرة: ۱۷۲)

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَأْرَبُ يَأْرَبُ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِيٌّ بِالْحَرَامِ فَنَنِي يُسْتَحَابُّ لِذَلِكَ۔ (رواه مسلم ۳۲۶/۱، العرهب والعرهب ۳۳۳/۲، مشکوٰۃ شریف ۲۳۱/۱)

اور (ایمان والوں سے فرمایا) اے ایمان والو! ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزوں

﴿ اللہ سے علوم سمجھنے ﴾ ﴿ ۱۱۶ ﴾

میں سے کھاؤ۔ آنحضرت ﷺ نے اس شخص کا ذکر فرمایا جو (مثلاً) لمبے سفر کے دوران غبار آلود اور پرانگندہ ہونے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگے کہ اے میرے رب! اے میرے رب! لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہو اور لباس حرام ہو اور اس کی حرام سے پرورش ہوئی ہو تو کہاں اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگرچہ انسان کی ظاہری حالت قابل رحم کیوں نہ ہو لیکن حرام مال میں ملوث ہونے کی وجہ سے وہ شخص اللہ کے رحم و کرم سے اور نظر کرم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی دعا قابل قبول نہیں ہوتی۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں:

مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَفِيهِ دِرْهَمٌ مِنْ حَرَامٍ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ۔ (رواہ احمد، العریب و العریب ۳۳۶/۲)

”جس شخص نے ایک کپڑا دس درہم کا خریدا اور اس میں ایک درہم حرام کی ملاوٹ ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ رب العزت اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔“

(۳) ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ الْعَبْدَ لَيَقْدِفَ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي حَوْفِهِ مَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَيَوْمًا عَيْدًا نَبَتْ لِحْمُهُ مِنْ سُحْبَتِ فَالْتَارِ أَوْلَى بِهِ۔

(رواہ الطبرانی فی الصغیر، العریب و العریب ۲۳۵/۶)

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے۔ آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے چالیس روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور جس شخص کا گوشت پوست حرام سے پروان چڑھا ہو تو اس کے لیے تو جہنم ہی مناسب ہے۔

﴿ اللہ سے شرم کیجئے ﴾ ﴿ ۱۱۷ ﴾

(۴) سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ:

لَا تَدْخُلُ الْحَنَّةَ حَسَدًا غُذِيَ بِحَرَامٍ۔ (رواہ ابو یعلیٰ والہزار المع والعرہب

والعرہب ۳۴۹/۲)

ایسا بدن جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔

(۵) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے متنبہ فرمایا:

لَا تَغْشِيَنَّ جَامِعَ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حِلَّةٍ فَإِنَّهُ إِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَمَا

بَقِيَ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ۔ (رواہ الحاكم بالعرہب والعرہب ۳۳۸/۲)

تم حرام مال جمع کرنے والے پر رشک نہ کرو اس لیے کہ اگر وہ اس مال سے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا اور بقیہ مال بھی اسے جہنم تک لے جانے کا گوشہ بن جائے گا۔

(۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا يَحْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي فَيْءِهِ تَرْابًا خَيْرًا لَهُ أَنْ يَحْتَمِلَ فِيهِ فَيْءَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

عَزَّ وَجَلَّ۔ (صحیح الامان ۵۷/۵)

تم میں سے کوئی آدمی اپنے منہ میں مٹی بھر لے، یہ اپنے منہ میں حرام مال داخل کرنے سے بہتر ہے۔

(۷) ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ جنت میں داخل کرنے والے اعمال

زیادہ تر کون سے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ اور حسن اخلاق۔ پھر پوچھا

گیا کہ جہنم تک لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

الْأَحْوَفَانِ: الْفَرُجُ وَالْفَمُّ۔ (صحیح الامان ۵۵/۵)

دو درمیانی اعضاء، منہ (جس سے حرام چیز پیٹ تک پہنچتی ہے) اور شرمگاہ۔

یعنی زیادہ تر لوگ حرام کمائی اور ناجائز شہوت رانی کے ذریعہ جہنم کے مستحق ہوں

کے۔ اعاذنا اللہ منہ۔

ان روایات سے یہ معلوم ہو گیا کہ حرام مال کا استعمال شریعت کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے اور آخرت میں بدترین عذاب کا موجب ہے۔

## مالِ طیب کے ثمرات

اس کے برخلاف ورع و تقویٰ اور مشتبہ اور حرام مال سے اجتناب آخرت میں کامیابی اور مادی و روحانی کامیابی کا ذریعہ ہے۔

چنانچہ احادیث طیبہ میں حلال مال کے اہتمام پر دنیا اور آخرت میں شاندار نتائج سامنے آنے کے وعدے مذکور ہیں۔ مثلاً:

(۱) ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول! میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

يَأْسَعِدُ: أَطْبَبُ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ۔ (الترغیب ۲/۳۴۵)

اے سعد! اپنا کھانا طیب کر لو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔

(۲) ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ خوشخبری سنائی!

مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بِوَأَيْقَهُ دَخَلَ الْحَنَّةَ۔ (صحب

الایمان ۵/۵۳، الترغیب ۲/۳۳۵، ابن ابی سعید العدری)

جو شخص مال طیب کھائے اور سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں

تو وہ جنت میں جائے گا۔

(۳) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ الدُّنْيَا، حِفْظُ أَمَانَةٍ مَوْصِدُقِي

حَدِيثٌ، مَوْحُسُنٌ خَلِيقَةٍ وَعِغْفَةٌ فِي طَعْمَةٍ۔ (الترغیب ۲/۳۳۵)

اگر تیرے اندر چار باتیں موجود ہوں تو تجھے دنیا کے (مال و دولت وغیرہ) کے فوت ہونے کا کوئی افسوس نہ ہونا چاہیے۔ (۱) امانت کی حفاظت (۲) سچائی (۳) اخلاقِ حسنہ (۴) اور کھانے میں حرام سے پرہیز۔

یعنی میرے چار خصلتیں جس کو نصیب ہو جائیں اسے اتنی بڑی عظیم دولت ہاتھ آگئی کہ اس کے مقابلہ میں ساری کائنات کی دولت و ثروت بیکار ہے۔

(۴) حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک دیہاتی شخص پر ہوا، اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک نصیحت خاص طور پر مجھے یاد رہ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا:

إِنَّكَ لَا تَدْعُ شَيْئًا اتَّقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ۔ (حسب الایمان ۵۳/۵)

تم جو چیز اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔

یعنی آج بظاہر تقویٰ پر عمل کرنے میں دنیوی نقصان نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا یقین پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس تقویٰ کے عوض ہمارا مقصود اس طرح پورا کرے گا کہ جہاں سے ہمیں مقصد کے حصول کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

## تاجروں کو خوشخبری

دنیا میں مال کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ تجارت ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اسی ذریعہ تحصیل مال کو سب سے زیادہ صاف سترا بنانے کی ترغیب دی ہے، اللہ کے نزدیک اس تاجر کا مرتبہ بہت بلند ہے جو امانت اور سچائی کا خیال رکھ کر حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا:

أَلْتَا جَرُّ الصُّلُوفِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔

(ترمذی ۲۲۹/۱ عن ابی سعید الخدری)

سچے امانتدار تاجر کا حشر (قیامت میں) حضرات انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔

معلوم ہوا کہ تاجر کا سب سے بڑا اعزاز اس کا سچا اور امانت دار ہونا ہے۔ یہ سچائی اور امانت اسے دنیا میں بھی نیک نام بناتی ہے۔ اور آخرت میں بھی سرخروئی سے سرفراز کرے گی۔ تاجر حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی کمائی خالص حلال بنانے کے لیے ہر قسم کے جھوٹ، فریب اور بددیانتی سے بچتے رہیں۔ اسی میں نجات ہے۔

حضرت سری سقطیؒ فرماتے ہیں، نجات تین باتوں میں ہے۔ (۱) پاک غذا (۲) کمال پرہیزگاری (۳) سیدھا راستہ۔ (شعب الایمان ۶۰/۵)

حضرت جنابؒ نے وصیت فرمائی کہ: ”قبر میں سب سے پہلے انسان کا پیٹ سڑے گا۔ اس لیے جو شخص بھی قدرت رکھے وہ سوائے پاکیزہ غذا کے اور کوئی چیز استعمال نہ کرے۔“ (شعب الایمان ۵۴/۵)

مشہور بزرگ حضرت سہل بن عبداللہ التستریؒ فرماتے ہیں۔ ”جو شخص اپنی روزی پر نظر رکھے۔ یعنی حرام سے اجتناب کرتا رہے تو بغیر کسی دعویٰ کے وہ ”زہد فی الدین“ کی صفت سے نوازا جاتا ہے۔“ (شعب الایمان ۶۳/۵)

اس کے برخلاف کاروبار میں حرام کی آمیزش اور سچائی اور دیانت میں کوتاہی کاروبار میں بے برکتی کا بڑا سبب ہے۔ معاملات میں شرعی حدود کی رعایت نہ رکھنے کی وجہ سے بڑی بڑی عبادتوں کا ثواب غارت ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی ساری محنت رائیگاں چلی جاتی ہے۔

یوسف بن اسباطؒ فرماتے ہیں: ”جب کوئی جوان عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس جوان کی غذا کیا ہے۔ اگر اس کی غذا حرام ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے بس اسے اپنے ہی حال پر چھوڑ دو۔ یہ محنت کرتا رہے گا اور تھکتا رہے گا اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا۔“ (شعب الایمان ۶۰/۵)

## حرام سے بچنے کا جذبہ کیسے پیدا ہو؟

مال و دولت کی ہوس ایسی چیز ہے جو انسان کو بہر صورت مال بٹورنے پر آمادہ کرتی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مال کی بھوک مرنے تک نہیں مٹتی۔ اور مالدار کا جیسے جیسے مال بڑھتا ہے ویسے ویسے مزید مال کی خواہش بھی بڑھتی جاتی ہے اور اس خواہش کی تکمیل میں پھر وہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا۔ بلکہ صرف روپیہ کے دور روپیہ بنانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَتَالَى الْمَرْأُ مَا أَعَدَّ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ

الْحَرَامِ۔ (رواہ البعاری ۱/۲۷۶-۲۷۹)

لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو مال لے رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔

آج بلاشبہ وہ زمانہ آچکا ہے اور ہر طرف اسی لاپرواہی کا دور دورہ ہے اور جو جتنا بڑا مالدار ہے وہ اتنا ہی اس کو تباہی میں مبتلا ہے۔ ہمیں اس کو تباہی کا احساس کرنا چاہیے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم آخرت کی جواب دہی پر غور نہ کریں۔ اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

لَا يَزَالُ قَلَمًا تَن آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فَيَمَّا

أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فَيَمَّا أَهْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفَيَمَّا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ

فَيَمَّا عَمِلَ۔ (رواہ العرملی ۲/۶۷۷ باب ماجاء فی شان الحساب والقصاص)

قیامت کے دن آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ال نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے پانچ سوال نہ کر لیے جائیں۔ (۱) عمر کہاں لگائی؟ (۲) جوانی کہاں گزائی؟ (۳) مال کہاں سے کمایا؟ (۴) مال کہاں لگایا؟ (۵) دین کے علم پر کہاں تک عمل کیا۔

## مالدار روک لیے جائیں گے

دنیا میں مال و دولت کو عزت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور عموماً مال کے حاصل کرنے اور اسے خرچ کرنے میں لوگ شریعت کی حدود کی رعایت نہیں کرتے۔ لیکن بارگاہِ خداوندی میں حاضری کے وقت یہی مال جنت میں تاخیر کا ذریعہ بن جائے گا اور دنیا میں فقر و مسکنت میں زندگی گزارنے والے حضرات مالداروں سے بہت پہلے جنت میں اپنی جگہ بنا لیں گے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشادِ عالی ہے:

قُمْتُ عَلَى بَابِ الْحَنَةِ فَإِذَا عَامَّةٌ مِّنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَإِذَا أَصْحَابُ

الْحَنَةِ مَحْبُوسُونَ الْخ - (مسلم شریف ۳۵۲/۲ من اسعہ بن زید)

میں جنت کے دروازوں پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر مساکین ہیں اور مال و وجاہت والے لوگ (حساب کے لیے) روک لیے گئے ہیں۔ اب اگر حساب کتاب صاف ہوگا تو جلدی چمکارا مل جائے گا اور اگر جمع اور خرچ اور آمد و صرف میں اللہ کی رضا کا خیال نہ رکھا گیا ہوگا تو پھر تاخیر در تاخیر ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ دنیا کی زندگی ہی میں اپنا حساب صاف کر کے تیار رکھے۔ آمد بھی شریعت کے مطابق ہو، اور خرچ بھی اللہ کے حکم کے موافق ہو۔





## آمدنی کے حرام ذرائع

اسلامی شریعت میں مال کمانے کے بعض ذرائع کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور تجربہ اور مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عالم کا امن و امان اور معاشرہ کی صلاح و فلاح اسی ممانعت پر عمل کرنے میں مضمر ہے۔ اور جس معاشرہ میں شرعی ممانعت کی پرواہ نہیں رکھی جاتی وہ معاشرہ خود غرضی اور مفاد پرستی کا نمونہ بن جاتا ہے، جیسا کہ آج پوری دنیا کا حال ہے کہ آدی مال و دولت کے حصول میں بالکل آزاد ہو چکا ہے اور ہر شخص اپنے مفاد کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ ذیل میں کچھ حرام ذرائع آمدنی کے بارے میں شرعی ہدایات لکھی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو اور ہم حرام سے مکمل پرہیز کر سکیں۔

## سود

آمدنی کے حرام ذرائع میں سب سے بدترین ذریعہ ”سود“ ہے۔ قرآن کریم میں نہ صرف یہ کہ سودی لین دین سے منع کیا گیا ہے بلکہ سودی کاروبار میں لگے رہنے والوں سے اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ (البقرہ) قرآن کریم میں اس طرح کی سخت وعید کسی اور عمل پر وارد نہیں ہے۔ اس سے سودی آمدنی کے منحوس ہونے کا باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ نیز احادیث شریفہ میں بھی کثرت کے ساتھ سود کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(۱) دَرَهُمْ رَبُّوْا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سَيْتَةٍ وَكَلْبَيْنِ زَنِيَّةٍ۔ (رواہ احمد،

الترغیب ۵/۳ مظاهر حق ۲۵/۳)

ہود کا ایک درہم جسے آدی جان بوجھ کر کھائے اس کا وبال اور گناہ ۳۶ مرتبہ منہ

﴿ اللہ سے شرم کھینے ﴾

۱۲۴

کالا کرنے سے بدترین جرم ہے۔

(۲) سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ

سَوَافِدٌ۔ (رواہ مسلم ۲۷/۲، مظہر حق ۲۳/۳)

آنحضرت ﷺ نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سودی معاملہ کو لکھنے والے

اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ سب (گناہ میں) برابر ہیں۔

(۳) سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں:

الرِّبَا سَبْعُونَ حِزْبًا أَسْرَهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ۔ (مظہر حق ۲۶/۳)

سود کے ستر اجزاء ہیں جن میں سب سے زیادہ ہلکا درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی

ماں سے (نہو ذبا اللہ) منگالا کرے،

(۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

فَأَيُّتٌ عَلَى قَوْمٍ يُكُونُهُمْ كَالْيَبُوتِ فِيهَا الْحَيَاتُ تُرَى مِنْ خَارِجٍ يُطَوِّنُهُمْ

فَقُلْتُ مَنْ هُوَ لَاءٌ يَجْبِرُهُمْ؟ قَالَ هُوَ لَاءٌ أَكَلَةُ الرِّبَا۔ (رواہ احمد، الطرہب والعرہب ۷/۳)

معرراج کی رات میں میرا گزر ایسی جماعت پر ہوا جن کے پیٹ کمروں کے مانند

تھے جن میں سانپ (لوٹ رہے) تھے جو باہر سے نظر آرہے تھے، میں نے پوچھا کہ اے

جبرئیل یہ کن لوگ ہیں؟ تو جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔

(۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالرِّبَا فِي قَرَبَةٍ فَقَدْ أَحْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ۔ (رواہ ابو

علی، الطرہب والعرہب ۶/۳)

جب کسی بستی میں بدکاری اور سود خواری عام ہو جائے تو وہاں کے باشندے اپنے

کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔

اسی طرح کی اور روایات بھی ذخیرۂ احادیث میں موجود ہیں جن کو پڑھ کر کسی بھی

صاحبِ ایمان کو ہرگز ہرگز یہ جرأت نہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آمدنی میں سود کا ایک لقمہ بھی شامل

﴿ اللہ سے علوم کھینچنے ﴾ ﴿ ۱۱۵ ﴾

کے۔ لیکن بُراہ مال کی ہوس اور دولت کی حرص کا کہ آج ہم اسلام کا دھوٹی کرنے کے باوجود سودی کاروبار سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے اور مال کی کثرت کے شدید شوق میں حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَىٰ قَبْلِـ رَوَاهُ الْعَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْرُوقٍ، وَغَرِيبٌ

(الغریب ۸/۳)

سود کا مال اگرچہ بہت ہو جائے مگر اس کا انجام کمی ہی کی ہے۔

تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ حرام مال جیسے آتا ہے ویسے ہی بے فائدہ جگہوں پر خرچ ہو کر چلا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اپنے ساتھ دوسرے حلال مال کی برکت بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے شرم و حیا کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب کہ ہم اپنی حیثیت اور کاروبار کو سود کی نجاستوں سے حتی الامکان پاک کر لیں اور حرام ذرائع سے بچ کر اپنا ٹھکانا جنت میں بنالیں۔

## بینک کا انٹرسٹ بھی یقیناً سود ہے

کچھ آزاد خیال دانشوروں نے کافی عرصہ سے یہ غلط فہمی پیدا کر رکھی ہے کہ بینک میں رقم رکھنے پر جو زائد روپیہ ملتا ہے وہ تو شرکت ہے کہ بینک اسی رقم سے کاروبار کرتا ہے۔ پھر اپنے نفع میں سے کچھ حصہ روپیہ رکھنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ لہذا اسے سود نہیں کہا جائے گا، بلکہ زائد رقم شرکت کا معاوضہ قرار دی جائے گی۔ حالانکہ یہ قول قطعاً بلا دلیل ہے۔ فقہ اسلامی میں بینک سے جو زائد رقم ملتی ہے وہ بلا شک و شبہ ”ربا النسیئہ“ میں داخل ہے جس کی حرمت پر تمام علماء و فقہاء اسلام متفق ہیں۔ کیونکہ بینک میں جو بھی اضافہ ملتا ہے وہ محض مدت گزرنے پر ملتا ہے۔ کاروبار میں شرکت کا وہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ نہایت سطحی اور واقعی انتہائی فاسد تاویل ہے کہ بینکوں میں جاری سود کو ”ربا النسیئہ“ سے خارج کر کے خواہ مخواہ شرکت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سود خوروں کے شیطانی دساؤں میں جنمیں امت بار بار رد کر چکی ہے۔

## سود اور دارالحرب

عام طور پر ہندوستان میں سودی کاروبار کرنے والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان دارالحرب ہے اس لیے وہاں ہر طرح کا سودی کاروبار جائز ہے۔ اس لیے اس معاملہ کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔

الف: سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام علماء و فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ دارالحرب میں سودی قرض لینا جس میں غیر مسلم یا حربی کو سود دینا پڑتا ہو بالکل حلال نہیں ہے۔ اختلاف صرف سود لینے میں ہے علامہ شامی فرماتے ہیں:

وَقَدْ أَلَزَمَ الْأَصْحَابُ فِي النَّرْسِ أَنْ مُرَادَهُمْ مِنْ حِلِّ الرِّبَا وَالْقِعَارِ مَا إِذَا حَصَلَتِ الزِّيَادَةُ لِلْمُسْلِمِ نَظَرِ الْأَلَى الْعِلَّةِ۔ (حاشی کراچی ۱۸۶/۵)

مشائخ نے درس میں یہ بات بتائی ہے کہ دارالحرب میں سود اور جوئے کے جائز ہونے سے فقہاء کا مقصود وہ صورت ہے جب زیادتی مسلمان کو حاصل ہو علت سے یہی پتہ چلتا ہے۔

اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ آج کل جو بڑے بڑے کاروبار کیلئے سرکاری بینکوں سے سودی قرضے لیے جاتے ہیں اور اس کے لیے دارالحرب ہونے کا سہارا پکڑا جاتا ہے یہ ناواقفیت یا غلط فہمی پختی ہے۔ کسی دارالحرب میں کسی مسلمان کے لیے سودی قرض لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ دارالحرب میں حربی سے سود لینے کے سلسلہ میں فقہاء کی دورائے ہیں۔

(۱) امام ابو یوسفؒ اور ائمہ ثلاثہ (امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ) کے نزدیک کسی بھی مسلمان کے لیے دارالحرب یا دارالاسلام کہیں بھی سودی لین دین یا عقود باطلہ کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ دلیل کی قوت کے اعتبار سے ان حضرات کا موقف انتہائی مضبوط ہے۔ (مستاد بدائع الصنائع ۱۹۲/۵)

(۲) اس کے برخلاف امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک دارالحرب میں اہل حرب کے اموال مسلمانوں کے لیے مطلقاً مباح ہونے کی بناء پر وہاں سود وغیرہ کا تحقق ہی

نہیں ہوتا بلکہ محض رضامندی مال کو لینے کیلئے کافی سمجھی جاتی ہے۔ (براع ص ۱۹۲/۵)

مگر واضح رہے کہ ان حضرات کے نزدیک یہ اجازت مطلق نہیں ہے بلکہ اس میں درج ذیل شرائط کا لحاظ ضروری ہے۔

(۱) معاملہ حتمی دارالحرب میں ہو (۲) حربی سے ہو (۳) مسلم اصلی (دارالحرب کے مسلمان شہری) سے نہ ہو (۴) معاملہ کرنے والا باہر سے ویزا لے کر آنے والا مستامن ہو۔ مسلم اصلی نہ ہو۔ (مستاد ادا فتویٰ ۱۵۷/۳)

ان میں سے اگر ایک شرط بھی مفقود ہو جائے تو سود لینے کی اجازت نہ ہوگی۔ اب غور کیا جائے کہ ہندوستان میں یہ سب شرطیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔

اولاً تو اس کے دارالحرب ہونے میں شدید اختلاف رہا ہے کیونکہ یہاں قانونی اعتبار سے مسلمانوں کو جمہوری حقوق دیئے گئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمام سرکاری بینک قانونی طور پر ملک کے ہر فرد کی ملکیت ہیں جن میں ہندو مسلمان سب شامل ہیں، تو جو شخص بینکوں سے سود لیتا ہے وہ صرف حربیوں سے ہی سود نہیں لیتا بلکہ یہاں کے مسلم باشندوں کی ملکیت کا کچھ حصہ بھی اس کے پاس پہنچتا ہے۔ لہذا دوسری اور تیسری شرط کے تحقق میں بھی شبہ پایا گیا نیز اکثر کتب فقہ میں یہ اجازت صرف مسلم متامن کو دی گئی ہے۔ لہذا یہاں کے اصلی مسلم باشندوں کے لیے اس میں کوئی سہولت نہیں دی جاسکتی۔ اسی بناء پر حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں دارالحرب کے مسلمان باشندوں کے لیے یہاں رہتے ہوئے سود لینے کو ناجائز لکھا ہے۔ (مکتوب مطم)

اور موجودہ اکابر علماء دیوبند نے ادارۃ السباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند کے پانچویں فقہی اجتماع (منعقدہ ۱۹۰۷ء/رجب ۱۳۱۶ھ) میں بھی حضرت نانوتوی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے باشندگان ہند کے لیے سود کی ممانعت کا فیصلہ کیا ہے۔

اور خاتم محققین حضرت مولانا فتح محمد صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکتہ الآراء کتاب ”عطر ہدایہ“ میں لکھا ہے۔

”جو لوگ دارالکفر میں بہ امان رہتے ہوں، یا داخل ہوں، یا باہم صلح و عہد رکھتے ہوں انہیں کوئی ایسا معاملہ کرنا جو شرعاً ناجائز ہو جیسے بیع یا اجارہ، قاسد و باطل، یا شرط یا رشوت وغیرہ ہرگز جائز نہیں اور حدیث لا ینو ایسن المسلم والنحرہی کے یہ معنی ہیں کہ مسلمان دارالحرب میں کافر سے سود لے تو وہ سود خوار موجب وعید ریوانہ ہوگا۔ اگرچہ ملک حرام کا مواخذہ باقی ہے۔ مگر سود دینا کسی طور پر جائز نہ ہوگا۔ مگر جب کہ اس سود لینے والے سے وہاں لوگوں سے عہد صلح ہو یا یہ وہیں کی رعیت ہو تو لینا بھی جائز نہیں ہے۔ (عہد دہلیہ ۱۸۱)

ج: اگر حضرات طرفین کے موقف کو مطلق بھی مان لیا جائے تو اس کا مطلب علماء محققین نے یہ بیان کیا ہے کہ بالفرض اگر کوئی شخص دارالحرب سے یہ مال لے کر دارالاسلام آجائے اور معاملہ دارالاسلام میں مسلمان قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ مسلمان قاضی اس مال کی واپسی کا حکم نہیں کرے گا۔ البتہ لینے والے کے لیے ناجائز معاملہ کرنے کا گناہ بدستور برقرار رہے گا۔ گویا کہ مسلمان کے لئے جواز کا حکم صرف قضاء ہے دیکھئے ممانعت بدستور باقی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے اپنے استاذ گرامی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے یہی مطلب نقل فرمایا ہے۔

(عہد غیر اسلامی حکومت کے شرعی احکام ۶۸)

صاحب عہد دہلیہ تحریر فرماتے ہیں:

”جو مال ایسے دارالکفر سے لایا جائے جہاں سے مصالحت و معاہدہ نہیں ہے یا جہر و غلبہ طے، یا بخداع و حیلہ طے طلال ہے، اور ہر ضائع غیر مستحکم طے جیسے سود، قمار، بدلہ زنا وغیرہ تو ملک آجائے گی اس لیے کہ وہ مال غیر محصوم ہے اور حلت نہ آئے گی۔ اس لیے کہ طریقہ حصول شرعی نہیں ہے۔“ (عہد دہلیہ ۱۸۰)

بہر حال سود خواروں کے لیے ہندوستان کو دارالحرب کہنے کا سہارا لینا کسی طرح مفید مطلب نہیں۔ مفتی بہ قول کے مطابق یہاں بھی سودی لین دین اسی طرح حرام ہے جیسے دیگر ممالک میں احتیاط اور عافیت کا راستہ یہی ہے۔ اس لیے جو بھی مسلمان اللہ سے شرم و حیا

رکتے ہیں انہیں اپنے معاملات سے سو دی جراثیم کے نکالنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور محض وقتی نفع کے لئے سطحی تاویلات کا سہارا نہ لینا چاہیے۔ (اللہم وقلنا لعاصمہ وبنوہی)

## جوا اور سٹہ

شریعت میں آمدنی کے جن ذرائع کی سختی سے ممانعت آئی ہے ان میں جوا اور سٹہ بھی شامل ہے۔ قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں جوئے اور شراب کو ایک ساتھ ذکر کر کے انہیں گندگی اور غلاظت قرار دیا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسر (جوسٹہ میں کھیلا جاتا ہے) کے بارے میں فرمایا:

مَنْ لَعِبَ بِالْمُرْدِ شِبْرًا فَكَتَمَ صَبْغَ بَدَنِهِ فِي لَحْمٍ يَحْتَرِقُ وَتَيْبِهِ مَسْلَمٌ هَرَبٌ (۲۴۰/۲)  
جس نے چوسر کھیلا گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں سان لیا۔

دیکھئے سٹہ کھینے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر گھناؤنے عمل سے مشابہ قرار دیا ہے جس کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سٹہ بازی کے دینی و دنیوی مفاسد بالکل ظاہر اور روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں:

وَمِنْ مَفَاسِدِ الْمُبِيرَانِ فِيهِ أَكْلُ الْأَمْوَالِ بِالْبَاطِلِ وَأَنَّهُ يَدْعُو كَثِيرًا مِنَ الْمُسَافِرِينَ إِلَى السَّرْقَةِ وَتَلْفِ النَّفْسِ وَإِضَاعَةِ الْعِيَالِ وَارْتِكَابِ الْأُمُورِ الْقَبِيحَةِ وَالرَّذَائِلِ الشَّيْئَةِ وَالْعَدَاوَةِ الْكَامِنَةِ وَالظَّاهِرَةَ مَوْهَدًا أَمْرًا مُشَاهِدًا لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مَنْ أَعَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَصْنَمَهُ۔ (روح المعانی ۱۱۵/۲)

اور جوئے کے مفاسد میں سے یہ ہیں۔ (۱) لوگوں کا مال ناجائز طریقہ پر کھانا (۲) اکثر جواریوں کا چوری کرنا (۳) قتل کرنا (۴) بچوں اور گھروالوں کا خیال نہ کرنا (۵) گندے اور بدترین جرائم کا ارتکاب کرنا (۶) ظاہری اور پوشیدہ دشمنی کرنا۔ اور یہ بالکل تجربہ کی باتیں ہیں۔ ان کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا ہو۔

تجربہ سے یہ بات واضح ہے کہ جس معاشرہ میں سٹہ بازوں کی کثرت ہوتی ہے وہ معاشرہ جرائم اور اعمال بد کی آماجگاہ بن جاتا ہے اس لیے کہ مفت میں حرام خوری کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو محنت مزدوری کر کے کمانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لاکھوں خاندان اس نحوست میں گرفتار ہو کر جانی اور مادی کے غار میں جا چکے ہیں۔ اور دونوں جہاں کی رسوائی مول لے چکے ہیں۔

## لاٹری وغیرہ

اس دور میں جوئے اور سٹے کی بہت سی شکلیں رائج ہیں۔ اور وہ سب حرام ہیں۔ ان میں ایک ”لاٹری“ کی لعنت بھی ہے جس کے ذریعہ خوبصورت انداز میں پوری قوم کا خون چوسا جا رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیں! لاٹری کی ایک کمپنی یومیہ مثلاً تین لاکھ کے ٹکٹ فروخت کرتی ہے۔ اور ان میں سے ایک لاکھ روپے انعام میں دے دیتی ہے تو یہ دو لاکھ روپے جو لاٹری کی کمپنی کو ملا۔ یہ کس کا سرمایہ ہے۔ بیچارے غریب رکشا پولروں اور مزدوروں کا۔ جن کے خون پسینے کی کمائی سرمایہ داروں اور حکومت کے خزانوں میں سمٹ کر چلی جاتی ہے اور محض ایک موہوم نفع کے لالچ میں یہ سادہ لوح عوام اپنی محنت کی کمائی خوشی خوشی خون چوسنے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ لاٹری کے نرغے میں آ کر کتنے لوگوں نے اپنے گھر کے برتن، بیوی کے زیورات، حتیٰ کہ کپڑے اور مکانات تک بیچ دیئے یا گردی رکھوا دیئے۔ اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے کنگال ہو گئے۔

اسی طرح آج محلہ محلہ اسکیموں کے نام پر سرمایہ کاری کی جارہی ہے۔ ان میں بھی جوئے کی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً جس کا نام پہلی قسط ادا کرتے ہی نکل آئے وہ بہت کم قیمت میں کسی مشینری وغیرہ ایک بڑی رقم کا مالک بن جاتا ہے اور بقیہ لوگوں کو اپنے نمبر کا انتظار کرنا ہوتا ہے وغیرہ۔ نیز مسہمہ بازی، پتنگ بازی، کبوتر بازی، شطرنج، کیرم بورڈ، جن میں ہار جیت پر فریقین کی طرف سے لین دین کی شرط ہوتی ہے۔ یہ سب شکلیں حرام ہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ بچے جو گولیاں اور ٹکٹے کھیلتے ہیں اور اس پر دوسرے سے



تاوان لیتے ہیں۔ یہ سب جو اور سٹہ ہے۔ بچوں اور بڑوں کو ان سے اجتناب کر کے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا تقاضا پورا کرنا چاہیے۔

## انشورنس

سود اور جوئے کی ایک ترقی یافتہ صورت وہ ہے جسے بیمہ یا انشورنس کہا جاتا ہے، بیمہ خواہ مالی ہو یا جانی اس میں سٹہ کی شکل ضرور پائی جاتی ہے، یعنی یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر پالیسی کی مدت میں مال ضائع ہو گیا یا پالیسی لینے والا مر گیا تو مشروط رقم بیمہ کمپنی پر ادا کرنی لازم ہو جائے گی۔ اب مال کے بیمہ کی شکل میں شرط نہ پائے جانے کی صورت میں کوئی رقم واپس نہیں ہوتی۔ اور زندگی کے بیمہ (لائف انشورنس) میں اگر پالیسی ہولڈر نہ مرے تو پالیسی پوری ہونے کے بعد ساری جمع شدہ رقم مع سود کے اسے واپس کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے لائف انشورنس میں جو ابھی ہے اور سود بھی۔ جبکہ مال کے انشورنس میں صرف جوئے کی شکل پائی جا رہی ہے۔ اس لیے علماء محققین کے نزدیک لائف انشورنس کی حرمت مالی انشورنس کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے۔ بریں بنا ہر ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اختیاری طور پر بیمہ اور انشورنس کے معاملات سے دور رہے اور جہاں کوئی قانونی یا اضطراری مجبوری ہو تو پوری صورت حال بتا کر علماء حق سے مسئلہ پوچھ کر عمل کرے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ جو نقصان اللہ کی طرف سے مقدر ہے وہ انشورنس کی وجہ سے ٹل نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کا خوف دل میں بٹھانا چاہیے۔ اور محض چند روزہ نفع کے لالچ میں آخرت کے دائمی نفع پر ہمہ نہ لگانا چاہیے۔ نجات اور عافیت کا راستہ یہی ہے۔

## دوسروں کے مال یا جائیداد پر ناحق قبضہ کرنا

حرام ذرائع آمدنی میں سے یہ بھی ہے کہ بلا کسی استحقاق کے کسی دوسرے شخص کے مال یا جائیداد پر قبضہ جمالیاجائے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ آپسی رضامندی کے بغیر باطل طریقے پر ایک دوسرے کا مال کھانے سے سخت منع کیا گیا ہے اور ایک حدیث میں وارد

ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مِنَ فَلَکَمَ قَبْدَ شِبْرٍ مِّنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ۔ (رواہ

بخاری ۱/۲۵۳۱ عن ابی سلمۃ یوم مسلم ۳/۲ سوال العریب والعریب ۹/۳)

جو آدمی بالشت بھر زمین بھی ظلم لے لے تو سات زمینوں سے اس پر طوق

بنا کر ڈالا جائے گا۔

اس حدیث کے مفہوم کے بارے میں متحدہ معانی بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ بغویؒ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بالشت بھر جگہ ساتوں زمینوں تک کھودنے کا اسے حکم دیا جائے گا تو اس طرح کھودنے کی وجہ سے وہ حصہ اس کے گلے میں طوق کے مانند معلوم ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک روایت سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔ اور دوسرے مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مقصود بہ زمین کے ساتھ ساتوں زمین کی مٹی ملا کر اسے حکم دیا جائے گا کہ اس مٹی کے وزن کو اپنے سر پر اٹھا کر لے جائے۔ مسند احمد طرانی کی روایت سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

اور ایک دوسری روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جو شخص ناجائز طریقے پر دوسرے کی زمین کا کچھ حصہ بھی دبا لے تو اس کی کوئی بھی نقلی یا واجبی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوگی۔ (التریب والعریب ۱۰/۳)

اور ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَاهُ بِقَبْرِ طَيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ۔ (رواہ ابن حبان عن ابی

حمید الساعدی، التریب والعریب ۱۱/۳)

کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی لاشی بھی بغیر اس کی دلی رضامندی کے لے۔

اسی طرح کی احادیث سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ دوسرے کے مال کو بلا استحقاق دبا لینا اللہ کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے اور آخرت میں بدترین رسوائی کا

سبب ہے۔

انہوں ہے کہ جو چیز اللہ کی نظر میں مغرض ہے آج اسے باعصہ کمال گردانا جاتا ہے۔ ایک ایک بالشت نالیوں اور نالوں کے اوپر سالوں سال مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں۔ اور ناحق طریقہ پر مقدمہ جیتا جاتا ہی عزت اور قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کی حرکتوں کا اصل سبب آخرت سے غفلت اور اللہ کے عذاب سے بے توجہی ہے۔ اگر لوگوں کو غضب کے عذاب کا احساس ہو جائے تو کوئی بھی ٹھنڈا آدمی دو چار گز کے لیے لڑائی جھگڑا اور مقدمات کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے پر تیار نہ ہو۔

ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی:

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِّأَيِّمٍ مِنْ عِرْضٍ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ  
الْيَوْمَ بِمَنْ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دَيْنًا وَلَا دِرْهَمًا إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُحِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ  
مَظْلَمَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُحِذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحِيلَ عَلَيْهِ۔

(رواہ البیہقی ۹۶۷/۲ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما والترمذی ۱۲۸/۳ مسند احمد ۵۰۶/۲-۳۳۵)

جس کسی کے پاس دوسرے بھائی کا عزت یا مال سے متعلق کوئی حق ہو تو اس سے آج ہی معاف کرا لے قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جب دینار و درہم نہ چلیں گے بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس سے دوسرے کے حق کے بقدر لے لیا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گی۔

اس لیے ہر مسلمان کو ظلم اور نصب سے بچ کر اللہ سے شرم و حیا کا ثبوت دینا چاہیے اور آخرت کی بدترین رویا ہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔

## رشوت خوری

رشوت خوری یعنی دوسروں سے ناحق رقم وغیرہ لینے کا مرض ایسا خطرناک اور بدترین ہے جس سے نہ صرف قوم کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے بلکہ جرائم پیشہ افراد کو بھی رشوت کے سہارے خوب بھلنے پھولنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ جو شخص رشوت کی چاہت میں مبتلا

ہو جاتا ہے تو اس کی نظر میں نہ اپنے مذہب اور قوم کا مفاد رہتا ہے اور نہ ملک کی سلامتی کی اہمیت اس کے سامنے رہتی ہے۔ اس کی نگاہ میں تو صرف اپنی جیب کا قاعدہ اور منافع خوری ہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور دولت کے نشہ میں وہ کسی دوسرے کے نقصان کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا۔ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور ذہن سے رحم و مروت کا جذبہ فنا ہو جاتا ہے۔ اسی بناء پر رشوت ستانی کی شریعت میں سخت مذمت وارد ہوئی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّائِسِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ۔ (رواہ ابن حبان، الطبرہب و الطبرہب ۱۲۵/۲)

رشوت لینے والے اور (بلا ضرورت) رشوت دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔  
اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا:

الرَّائِسِيُّ وَالْمُرْتَشِيُّ فِي النَّارِ۔ (رواہ الطبرہب و الطبرہب ۱۲۵/۳)

رشوت لینے والا اور (بخوشی بلا ضرورت) رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔  
نیز ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے رشوت لینے اور دینے والے کے ساتھ رائس یعنی اس شخص پر بھی لعنت بھیجی ہے جو رشوت کے لیے درمیان میں دلالی کرتا ہے۔

(دوب اخصاف/۸۳)

اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی گہری جہنم میں ڈالے گا کہ پانچ سو برس تک برابر گرتے چلے جانے کے باوجود وہ اس کی تہ تک نہ پہنچ پائے گا۔ اللهم احفظنا منہ (الطبرہب و الطبرہب ۱۲۶/۳)

ان سخت ترین وعیدوں سے رشوت کے بھیا تک انجام کا باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں رشوت ایسا ناسور ہے جس کے مفاسد صرف اخروی ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کے بھیا تک نتائج واقف کار لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آج اپنے ہی ملک کے سرکاری محکموں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں۔ کس طرح رشوت کا بازار گرم ہے؟ آخر کون سا ایسا غیر قانونی کام ہے جو رشوت دے کر باسانی انجام نہ دیا جاسکتا ہو؟ بجلی کی پوری سے لے کر ٹرین اور بسوں میں بلا ٹکٹ سواری تک ہر جگہ رشوت کا چلن ہے۔ اور عدالتوں، محکمہ

﴿ اللہ سے شرم کھینچنے ﴾ ﴿ ۱۳۵ ﴾

پولیس اور کسٹم میں تورشوتیں ایسی جسارت اور وباؤ سے لی جاتی ہیں گویا وہ ان کا قانونی حق ہو۔ یہاں کے سرکاری اہلکاروں سے لے کر وزراء تک رشوت کے معاملات میں طوط ہیں۔ جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک آزادی کے پانچ سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان اسی رشوت خوری نے پہنچایا ہے۔ اور جب تک یہ لعنت یہاں باقی رہے گی ملک کے وسائل سے کبھی بھی کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ رشوت کا عادی معاشرہ کام چھوڑتا ہے۔ بے مروت اور مفاد پرست ہوتا ہے۔ وہ اپنے مفاد کی خاطر ملک کی بڑی سے بڑی دولت کا بھی سودا کر سکتا ہے۔ اور قوم کو ناقابل طمانی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اس لعنت سے معاشرہ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہر سطح پر رشوت خوری کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ خود غرضی کا دروازہ بند ہو سکے۔

رشوت لینے والے کے لیے رشوت کا پیرہہ کسی بھی صورت حلال نہیں ہے۔ البتہ بعض خاص صورتوں میں جب کہ اپنا حق ضائع ہو رہا ہو یا شدید نقصان کا اندیشہ ہو تو فقہاء نے ضرورۃً رشوت دینے کی اجازت دی ہے۔ (شامی کراچی ۱/۴۳۳)

## ناجا تزد خیرہ اندوزی

شریعت نے عوام الناس کو نقصان پہنچا کر اشیاء ضرورت کی ذخیرہ اندوزی کر کے زیادہ کمانے سے بھی منع کیا ہے اسے اصطلاح میں "احتکار" کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس عمل سے سختی سے منع فرمایا ہے۔

(۱) ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ اَحْتَكَرَ فَهُوَ غَاطِيٌّ۔ (مسلم ۱/۲۳۸ من عمرہ، کتاب المساقاۃ)

جو شخص غلہ وغیرہ جمع کرے وہ غلط کار ہے۔

(۲) اور ایک ضعیف روایت میں وارد ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ اِنْ اَرَعَصَهُ اللّٰهُ الْاَسْعَارَ حَزِيْنَ وَاِنْ اَغْلَاهَا فَرِحَ۔

(الترغیب والترہیب ۲/۳۶۴)

جمع خور آدمی بہت برا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چیزوں کی قیمتیں سستی کرے تو اسے غم ہوتا ہے اور جب مہنگائی ہو تو اسے خوشی ہوتی ہے۔

(۳) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام فروخ کہتے ہیں کہ کچھ غلہ وغیرہ مسجد نبوی کے دروازہ پر ڈھیر لگایا گیا۔ اس وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے جب آپ باہر تشریف لائے۔ غلہ کو دیکھ کر پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے کہا یہ باہر سے لایا گیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس غلہ کو اور جو لوگ اسے لائے ہیں ان کو برکت سے نواز دے۔ اسی وقت کچھ لوگوں نے یہ بھی خبر دی کہ اس کا احکار بھی کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس نے یہ عمل کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ایک تو فروخ نے، دوسرے فلاں شخص نے جو آپ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر دونوں کو بلایا اور باز پرس کی۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اپنا مال خرید و فروخت کر رہے ہیں (یعنی اس میں دوسرے کا کیا نقصان ہے؟) اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے:

مَنْ اَحْتَكِرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْحَذَامِ وَالْاِفْلَامِ۔  
جو شخص مسلمانوں پر ان کا غلہ وغیرہ روک کر رکھے، اللہ تعالیٰ اسے کوڑھ کے مرض اور تنگ دستی میں مبتلا کرے گا۔

یہ سن کر فروخ نے کہا کہ میں آپ سے اور اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی احکار نہ کروں گا۔ پھر وہ مصر چلے گئے۔ جب کہ اس فلاں شخص نے کہا کہ ہمارا مال ہے ہم جیسے چاہیں خرید و فروخت کریں۔ اس روایت کے راوی ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کو کوڑھی اور تنگ دستی کی حالت میں دیکھا ہے۔ (الترغیب والترہیب ۲/۳۶۴)

احکار کی ممانعت اس وقت ہے جب کہ اس کی وجہ سے شہر والوں اور حوام کو

﴿ اللہ سے شروع کیجئے ﴾ ﴿ ۱۳۷ ﴾

نقصان ہو، اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن سے عوام الناس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مثلاً غلہ جات، کپڑے، روزمرہ کی ضروری اشیاء، ہاں اگر جمع کرنے سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو پھر خرید کر اشاک رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جب کہ بازار میں اس چیز کی کوئی کمی نہ ہو، اگر کوئی شخص شروع فصل میں کوئی چیز زیادہ مقدار میں خرید کر رکھ لے کہ اخیر فصل میں قیمت بڑھ جانے پر اس کو فروخت کرے گا یہ بھی ممنوع نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے قیمت نہیں بڑھے گی۔ (مستادشای کراچی۔ ۶/۳۹۸)



## تیسری فصل

### مدارس اور ملی اداروں کی رقومات میں احتیاط

پیٹ کو جنہم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ جو لوگ کسی ایسے ادارے سے وابستہ ہوں جس میں قوم کا روپیہ خاص مصارف میں صرف کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اس کی امانتوں میں وہ ناحق تصرف نہ کریں اور اس بارے میں انتہائی محتاط رویہ اپنائیں۔ قرآن کریم میں یتیم کے مال کھانے کو ”پیٹ میں آگ بھرنے“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ سبھی اوقاف وغیرہ کے احکامات بھی یتیم کے مال کی طرح ہیں۔ یعنی قومی اور ملی اداروں کے منتظم حتیٰ کہ امیر المؤمنین بھی اسلامی حکومت کے خزانوں کا بالکل مالک نہیں ہے۔ بلکہ اس پر اسلامی ہدایات کے مطابق ہر مدکار روپیہ اسی کے مصرف میں صرف کرنا ضروری ہے۔ اور بلا ضرورت صرف کرنے پر یا غیر مستحق پر خرچ کرنے پر اس سے عند اللہ مواخذہ ہوگا۔

انسوس ہے کہ آج اس سلسلہ میں سخت لاپرواہی اور کوتاہی عام ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ ادارے تو ایسے ہیں جنہوں نے زبردستی اپنے کو ”عامل حکومت“ کے درجے میں رکھ کر زکوٰۃ کی رقومات بلا دروغی من مانے مصارف پر خرچ کرنے کی راہ نکال لی ہے۔ حالانکہ یہ موقوف دلائل کی روشنی میں بالکل غلط ہے۔ اور بڑی تعداد ایسے اداروں کی ہے جن میں اگرچہ ”عامل حکومت“ کا عنوان تو نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی رقم میں ضرورت بلا ضرورت ”تملیک کا حیلہ“ اپنایا جا رہا ہے اور یہ رقم جو خاصۃً فقراء کا حق ہے، اسے تعمیر، ضیافت اور مدرسہ کے بلند و بالا تعارف کے قیمتی اور خوشنما لٹریچروں میں خرچ کیا جانے لگا ہے۔ مدرسہ میں تعلیمی معیار خواہ کہیں تک ہو لیکن اس کا تعارف اتنا زور دار چھوایا جاتا ہے اور اس میں اس قدر مبالغہ کیا جاتا ہے کہ معلوم ہو کہ پورے علاقہ کا دارالعلوم یہی ہے اسی طرح بہت سے ایسے معمولی مکاتب جن میں تنخواہ کے علاوہ خرچ کا کوئی قابل ذکر عمل نہیں ہے اور وہاں نادار



﴿اللہ سے شکر کہجئے﴾ ﴿۱۳۹﴾

طلبہ کی رہائش اور طعام کا بھی انتظام نہیں ہے۔ ان میں محض تعمیرات اور مشاہرات پر زکوٰۃ کی رقمات بلا درلغ خرچ کی جا رہی ہیں۔

## حیلہ تملیک صرف مجبوری میں جائز ہے

اور ”حیلہ تملیک“ جو ایک اہمائی مجبوری کی چیز تھی اسے ہی اصل قانون کے درجہ میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ تملیک کے حیلہ کی اجازت صرف اسی وقت ہے جبکہ مدرسہ یا ادارہ میں فی الوقت مصرف موجود اور ضرورت اتنی سخت ہو کہ اگر حیلہ نہ کیا جائے تو وہاں دینی ضرورت کسی بھی درجہ میں انجام نہ دی جاسکے۔ واضح رہے کہ ہر کتب کو ایک دم دارالعلوم بنانا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ بلکہ جتنے خرچ کا آسانی انتظام جائز اور شرعی طریقہ پر ہو سکے اتنے ہی درجہ پر ادارہ کو رکھا جائے اور رفتہ رفتہ ترقی دی جائے۔ آج بے احتیاطیوں کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہر ادارہ پہلی فرصت میں اونچے پلان اور منصوبے بناتا ہے اور جب اسے ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے عطایا نہیں مل پاتے تو زکوٰۃ کے اموال کو حلال کرنے کے راستے اپناتا ہے۔ اور بلا ضرورت حیلہ اختیار کرتا ہے۔ حالانکہ یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ آدمی دوسروں کے فائدہ کے عنوان سے خود اپنی عاقبت کھراب کر لے۔ اللہم احفظنا منہ۔

## مولانا بنوری کا طرز عمل

انہی بے احتیاطیوں کی وجہ سے آج عوام و خواص مدارس اور دینی اداروں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ جب کہ اگر ذمہ داران ورع و تقویٰ پر مکمل کریں تو ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچ سکتی۔ اس سلسلہ میں رہنمائی کے لیے عالم ربانی امام الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کا عمل ذیل میں پیش ہے۔ آپ کے ایک کنفیشن بردار عبدالحمید فارقلیط صاحب لکھتے ہیں:

”حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اپنے مدرسہ (جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی

﴿اللہ سے شکر کہجئے﴾

پاکستان) کے لیے مشکل تر راستہ اختیار کیا اور چند ایسے اصول وضع فرمائے جو پہلے پڑھنے سننے اور دیکھنے میں نہ آئے تھے۔ آپ نے سب سے اہم اصول یہ اختیار فرمایا کہ مدرسہ کو حاصل ہونے والی آمدنی کو دو مدوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک مد زکوٰۃ و صدقات کی، اور دوسری عطیات کی، زکوٰۃ فنڈ کی رقم صرف طلباء کے اخراجات خورد و نوش اور وظائف کے لیے مختص کر دی گئی۔ اس فنڈ کو مدرسہ کی تعمیر، کتابوں کی خرید اور اساتذہ کرام کے مشاہرہ وغیرہ پر مطلق خرچ نہ کیا جاتا تھا۔ عطیات کے فنڈ سے اساتذہ کو تنخواہیں، اور دیگر واجبات کی ادائیگی کی جاتی تھی۔ بالعموم اہل ثروت زکوٰۃ کی بیشتر رقم دینی مدارس کو دیتے ہیں اور عطیات کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ اس طرح دینی مدارس کے پاس زکوٰۃ کے فنڈ میں خاصی رقم جمع ہو جاتی ہے۔ جبکہ عطیات کا فنڈ اکثر قلت کا شکار رہتا ہے۔ مدرسہ عربیہ اسلامیہ میں کئی مواقع ایسے بھی آئے کہ زکوٰۃ فنڈ میں خطیر رقم موجود ہے جبکہ غیر زکوٰۃ کی مدد خالی ہے۔ ایک دفعہ حاجی محمد یعقوب صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مدرسین کی تنخواہوں کے لیے عطیات کی مدد میں رقم نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو زکوٰۃ فنڈ سے قرض لے کر اساتذہ کو تنخواہیں دے دی جائیں۔ اور جب عطیات کے فنڈ میں رقم آئے گی تو زکوٰۃ فنڈ کا قرض واپس کر دیا جائے گا۔ حضرت شیخ نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمادیا اور فرمایا کہ میں اساتذہ کی آسائش کی خاطر خود کو دو روز کا ایسہ نہیں بنانا چاہتا۔ انہیں صبر کے ساتھ عطیات فنڈ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جانے والی رقم کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اگر صبر نہ کر سکتے ہوں تو انہیں اس امر کا اختیار ہے کہ وہ مدرسہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ تشریف لے جائیں۔“ (بہارِ مدنی، عبدالرشید شاد، ۱۳۱۲ھ)

مولانا بخوری نے جس مدرسہ کے لیے یہ اصول وضع فرمائے تھے، وہ آج پاکستان کا نہایت معیاری اور بافیض مدرسہ ہے۔ اور ساتھ میں ہر قسم کے مادی وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ اصحاب خیر اس ادارے کا تعاون کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔

غور فرمائیں کیا ایسی دوسری مثالیں قائم نہیں کی جاسکتیں؟ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم

اللہ سے شرم و حیا کا حق ادا کرنے والے بن جائیں تو ہماری ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔

## کمیشن پر چندہ

مالی بے احتیاطیوں کا عالم یہ ہے کہ آج بہت دینی اداروں میں بے خوف و خطر کمیشن پر چندہ کا رواج پڑ گیا ہے۔ حالانکہ دور حاضر کے سبھی علماء و مفتیان اس طرح کمیشن لینے کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور کتب قداویٰ میں اس سلسلہ کے مدلل و مفصل قداویٰ شائع بھی ہو چکے ہیں۔ مگر خوف خدا میں کمی اور طرفین میں مال کی طرح نے ان شرعی احکامات کو نہیں پشت ڈال رکھا ہے۔ اور چندہ کو ایک اچھا خاصا کاروبار بنا لیا ہے۔ چندہ پر کمیشن کے حرام ہونے کی متعدد وجوہات ہیں۔

- (۱) اول یہ کہ یہ ایسا اجارہ ہے جس میں ابتداء اجرت معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کہ نہ جانے کتنا چندہ ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ بالکل بھی نہ ہو۔ اور محصل کو کچھ بھی ہاتھ نہ آئے۔
- (۲) یہ فقیر طمان کے مشابہ ہے یعنی چندہ کی آمدنی خود اجیر کے عمل کا نتیجہ ہے اور اسی نتیجہ میں سے اجرت متعین کی جا رہی ہے۔ اس طرح اجرت کا تعین ناجائز ہے۔
- (۳) اجارہ کی صحت کے لیے خود اجیر کا قادر ہونا شرط ہے اور یہاں چندہ کا عمل محصل کی قدرت سے باہر ہے یعنی جب تک چندہ دینے والا روپیہ نہیں دے گا یہ لینے پر قادر نہیں ہے۔ اور آدمی جس چیز پر قادر نہیں اس کو اجرت کیسے بنا سکتا ہے۔

(دیکھئے احسن الفتاویٰ ۱/۶۱۶، فتاویٰ مجددیہ ۱/۴۴۴)

ہاں اگر سفیر تنخواہ دار ہو اور اس کی ایک تنخواہ متعین ہو یعنی خواہ چندہ ہو یا نہ ہو اسے اپنی محنت کا صلہ بہر حال ملے گا تو اس کو تنخواہ لینا جائز ہے کیونکہ یہاں اس کی اجرت کا تعلق چندہ کی رقم سے نہیں بلکہ لوگوں سے ملاقات اور اس مقصد کے لیے سفر وغیرہ کرنے سے ہے۔ جس میں عمل اور اجرت دونوں متعین ہیں۔ اور ایسے تنخواہ دار سفیر کو اگر کوئی ادارہ حسن کارکردگی پر امدادی فنڈ سے (جس میں زکوٰۃ صدقات واجبہ کی رقوم شامل نہ ہوں) کوئی

انعامی رقم دے تو اس کے لینے کی بھی گنجائش ہے۔ یہ کمیشن میں شامل نہیں ہے۔

بہر حال دینی اداروں کے ذمہ داروں کو سب سے زیادہ شریعت کے احکام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہر قسم کی بے احتیاطیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تاکہ ان کا وقار برقرار رہے اور دینی خدمات میں برکات کا ظہور ہو۔

## اجرت پر تراویح وغیرہ

اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی کسی بھی دینی عبادت کو دنیا کے حصول کے لیے مقصود نہ بنائے اور معمولی دنیوی نفع کی لالچ میں آخرت کا خطیر نفع قربان نہ کرے۔ آج کل رمضان المبارک میں تراویح سنانے کے عوض بڑی آمدنی کا رجحان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ تو حفظ ہی اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ تراویح سنانا کر روپیہ کمائیں گے۔ اس کے لیے بڑے بڑے شہروں میں اچھی اچھی جگہیں تلاش کی جاتی ہیں۔ اسفار کیے جاتے ہیں۔ اور اپنے مقام اور مرتبہ سے گھٹ کر حرکتیں کی جاتی ہیں۔ یہ سب بے غیرتی کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے چند کوڑیوں کے عوض فروخت کر دیا جائے۔ محض قرآن کی تلاوت پر اجرت مقرر کرنا قرآن کریم کی کھلی ہوئی توہین اور ناقدری ہے۔ اور اس سلسلہ میں جو فرضی تاویلات اور حیلے اپنائے جاتے ہیں وہ بھی ناقابل توجہ ہیں اس لیے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ دیانات (نیماینہ و بین اللہ معاملات) میں حیلوں کا اختیار کرنا واقعی حلت کے لیے مفید نہیں ہے۔ (مدار التحدی ج ۱/۳۸۵)

بہت سے لوگ حفاظ کی مالی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں کہ ختم پر اس کی اعانت ہو جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ پہلے سے فقیر تھا یا تراویح میں قرآن ختم کرتے ہی غریب ہو گیا؟ اگر پہلے سے ہی پریشان تھا، جیسا کہ واقعہ بھی یہاں ہے تو ختم سے پہلے اس کی مدد کیوں نہیں کی گئی؟ کسی غریب کی مدد کرنا کبھی بھی منع نہیں ہے۔ منع تو یہ ہے کہ اس کو قرآن کی اجرت کھلائی جائے۔

﴿ اللہ سے شکر کہجئے ﴾ ﴿ ۱۳۳ ﴾

بعض لوگ یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ اگر اجرت نہ دی جائے تو مساجد میں ختم قرآن کا رواج ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ قرآن کریم کوئی ایسا شریعی واجب یا لازم نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک ناجائز معاملہ کا ارتکاب کیا جائے۔ پھر یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ اس سے ختم قرآن کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے کہ امت میں الحمد للہ ایسے حفاظ کی کمی نہیں ہے جو خود اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے مساجد تلاش کرنے کے فکر مند نہ رہتے ہوں۔ اگر دینے دلانے کا رواج بالکل ختم ہو جائے تو خود بخود حفاظ کے دل سے طمع اور لالچ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے شامی میں نقل کیا گیا ہے کہ اجرت پر تلاوت کے ذریعہ ایصالِ ثواب کرانے پر اجرت لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہیں۔ (شامی زکریا ۱/۷۷) کیونکہ دینے والے کے ارادے سے ہی لینے والے کو حوصلہ ملتا ہے۔ اگر اس معاملہ میں دینے والے شریعت پر عمل کرتے ہوئے دینے سے منع کر دیں تو لینے والوں کو مطالبہ کا حوصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔

## اگر مخلص حافظ نہ ملے؟

بالفرض اگر کسی جگہ بلاعوض پڑھانے والا مخلص حافظ نہ مل سکے تو فتویٰ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو کرایہ دار حافظ سے پورا قرآن سننے کے بجائے ”الم ترکیف“ سے تراویح پڑھ لینی چاہیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی تحریر فرماتے ہیں:

”جہاں فقہاء نے ایک ختم کو سنت کہا ہے جس سے ظاہر استنباط مؤکدہ مراد ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں لوگوں پر ثقل ہو وہاں الم ترکیف وغیرہ سے پڑھ دے۔ پس جب ثقل جماعت کے محذور سے بچنے کے لیے اس سنت کے ترک کی اجازت دے دی، تو استیجار علی الطلوع (عبادت پر اجرت لینے) کا محذور اس سے بڑھ کر ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کیوں نہ کہا جاوے گا کہ ”الم ترکیف“ سے پڑھ لے۔ (مداد الفتاویٰ ۱/۳۸۳)

## محفل تلاوت اور دیگر دینی خدمات کی اجرت میں فرق

بعض حضرات تراویح میں قرآن پڑھنے پر معاوضہ کے جواز پر یہ دلیل پیش

کرتے ہیں کہ جس طرح امامت و اذان اور تعلیم قرآن پر اجرت جائز ہے۔ اسی طرح تراویح میں قرآن ختم کرنے کا معاملہ بھی درست ہونا چاہیے تو اس سلسلہ میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حنفیہ کے اصل مذہب میں طاعات و عبادات پر اجارہ مطلقاً ناجائز ہے۔ متاخرین احناف نے خلفاء راشدین کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے اس ممانعت سے ان عبادات کو ضرور نامستثنیٰ کر دیا ہے جن کو شعائر دین ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی جن کا اہتمام ہونے سے دین کی بقا و اشاعت کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے۔ مثلاً امامت و اذان کہ اگر ان پر اجرت جائز نہ ہو تو مساجد میں جماعت و اذان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اسی طرح تعلیم دین، کہ اگر اس غرض سے وقت فارغ نہ کیا جائے تو دین کی اشاعت متوقف ہو جائے۔ لیکن جو عبادات اس درجہ کی نہیں ہیں ان میں عدم جواز کا حکم بدستور باقی ہے۔ تراویح میں ختم قرآن اور ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی عبادات اسی قبیل سے ہیں کہ اجرت پر ختم قرآن کی ممانعت سے دین کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہے۔ یہی حال ایصالِ ثواب کے لیے تلاوت کرنے کا بھی ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں:

قَدْ أَطْبَقَ الْمُتَوَلَّوْنَ وَالشُّرُوحُ وَالْفَتَاوَى عَلَى نَقْلِهِمْ بِطُلُوكِ الْإِسْتِيْحَارِ عَلَى الطَّلَاعَاتِ إِلَّا فِيمَا ذُكِرَ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ وَهِيَ خَوْفُ ضِيَاعِ الدِّينِ وَصَرَّحُوا بِتِلْكَ التَّعْلِيلِ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مَلْعَبَ الْمُتَأَخِّرِينَ صِحَّةُ الْإِسْتِيْحَارِ عَلَى التَّلَاوَةِ الْمُحَرَّذَةِ مَعَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهُ لَوْ مَضَى الدُّخْرُ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْ أَحَدٌ أَحَدًا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ ضَرَرٌ، بَلِ الضَّرَرُ صَارَ فِي الْإِسْتِيْحَارِ عَلَيْهِ حَيْثُ صَارَ الْقُرْآنُ مَكْسِبًا وَحِرْفَةً يُتَحَرَّبُهَا۔

(الع) شرح عقود رسم المعنى، رسائل ابن عابدین (۱۳/۱)

تمام متون، شروحات اور فتاویٰ طاعات پر اجرت کے باطل ہونے کو نقل کرنے میں متفق ہیں سوائے ان طاعات کے جو مذکور ہوئیں۔ (یعنی امامت و اذان وغیرہ) اور مذکورہ طاعات کے جواز کی تعلیل انہوں نے ضرورت سے کی ہے جو دین کے ضائع ہونے کا

اندیشہ ہے اور اس تھلیل کی انہوں نے صراحت بھی کی ہے تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ متاخرین کا مذہب محض تلاوت پر اجرت صحیح ہونے کا ہے باوجودیکہ مذکورہ ضرورت نہ پائی جائے۔ اس لیے کہ اگر زمانہ بیت جائے اور کوئی شخص کسی کو تلاوت کے لیے اجرت پر نہ لے تو اس سے کوئی نقصان نہیں آتا بلکہ نقصان تو اجرت پر تلاوت کرنے میں ہے، بایں طور کہ قرآن کریم کو کمائی کا ذریعہ اور ایسی صنعت بنا لیا گیا ہے جس کی تجارت کی جاتی ہے۔

الغرض ان صراحتوں سے معلوم ہو گیا کہ محض تلاوت قرآن میں ختم قرآن پر اجرت کی آمدنی کا جواز اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کے جذبہ کے بالکل برخلاف ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنے کو ایسی آمدنی سے بچائے اور دوسرے بھائیوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرے۔

## معصیت پر تعاون کی اجرت

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔“ (العائدہ آیت ۲)

”اور آپس میں مدد کرو نیک کام پر اور پرہیزگاری پر اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر۔“ ہمیں بنا کسی ایسے طریقے پر روپیہ کمانا ممنوع ہے جس میں کسی گناہ پر تعاون لازم آتا ہو۔ آج کل بکثرت ایسے ذرائع آمدنی رائج ہیں۔ مثلاً فوٹو گرافی، ویڈیو گرافی، ٹیلی ویژن کی مرمت اور خرید و فروخت وغیرہ کا کاروبار اسی طرح بال بنانے والوں کا انگریزی بال اور داڑھیاں موٹڈ کر روپیہ کمانا، یہ سب صورتیں آمدنی کو مشتبہ بنا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ان ناجائز اعمال کو چھوڑ کر اپنے پیٹ کی حقیقی حفاظت کا انتظام کرے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو خوفِ خدا کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔



## چوتھی فصل

### شرم گاہ کی حفاظت

اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا اہم تقاضا اور اپنے بدن کو جنم کی ہولناک آگ سے بچانے کا مقتضی یہ بھی ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کی ناجائز اور حرام جگہوں سے پوری طرح حفاظت کرے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً مَوْسَاءَ سَبِيلًا۔ (یسی اسراہیل آیت: ۳۲)

اور پاس نہ جاؤ زنا کے، وہ ہے بے حیائی اور بری راہ ہے۔

اور کئی جگہ ایمان والے لوگوں کی یہ صفات بیان کی گئیں کہ ”وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے، اور ناجائز عمل کے علاوہ شہوت پوری نہیں کرتے۔“

(سورۃ اسنون، سورۃ صافات وغیرہ)

نیز اسلام نے زنا کی ایسی سخت سزا مقرر کی ہے جس کے تصور سے ہی روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر شہوت ہو جائے تو کنواڑے مجرم کو سوکڑے اور شادی شدہ کو سنگسار کرنے کا حکم ہے (جبکہ اسلامی حکومت ہو) اور احادیث مبارکہ میں زنا کے متعلق سخت وعیدیں وارد ہیں۔

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ زَنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ (مسلم شریف ۵۶۱/۱ عن ابی ہریرہ،

المرہب والفرہب ۱۸۵/۳)

زنا کار زنا کرتے وقت (کامل) مومن نہیں رہتا۔

گویا کہ ایسے عمل کا ایمان کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، یہ سراسر شیطانی

عمل ہے۔



## سب سے زیادہ خطرہ کی چیز

(۲) اور ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

يَا بَغَايَا الْعَرَبِ يَا بَغَايَا الْعَرَبِ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الزِّنَا  
وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ۔ (رواه الطبرانی، المعجم، العرہب و العرہب ۱۸۶/۳)

اے عرب کے بدکارو! اے عرب کے بدکارو! مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اور خطرہ زنا اور پوشیدہ شہوت سے ہے۔

یعنی یہ ایک ایسی نحوست ہے جس سے معاشرتی نظام تباہ اور برباد ہو جاتا ہے اور گھر گھر میں فتنہ فساد اور خون خرابہ کی لوبت آ جاتی ہے حتیٰ کہ نسلیں تک مشتبہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس سے ہر ممکن احتراز لازم ہے اور اس کے تمام راستوں کو بند کرنا ضروری ہے۔

## زنا کار کی دعا قبول نہیں

(۳) عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِي مُنَادٍ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيَسْتَجَابُ  
لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيَفْرَجُ عَنْهُ؟ فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ  
يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا زَانِيَةً تَسْئَلُ بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَارًا۔

(رواه الطبرانی و احمد، العرہب و العرہب ۱۸۶/۳)

آدمی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور منادی آواز لگاتا ہے کہ کیا کوئی پکارنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی سائل ہے جسے نوازا جائے؟ کیا کوئی پریشان حال غمزدہ ہے جس کی پریشانی دور کی جائے؟ پس کوئی دعا مانگنے والا مسلمان باقی نہیں چھتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے اپنی شرمگاہ کو بدکاری میں لگانے والی زانیہ اور ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والے کے (کہ ان کی

دعا ایسے مقبول وقت میں بھی قبول نہیں ہوتی)

اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ تین آدمیوں سے قیامت میں اللہ تعالیٰ نہ گفتگو کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ (۱) بوڑھا زنا کار (۲) جھوٹا بادشاہ (۳) قلاش منگبر۔ (رواہ مسلم ۱/۱۷۰ شعب الایمان ۲/۳۶۰)

## زنا کار آگ کے تنور میں

(۴) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضرات صحابہؓ سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ ایک مرتبہ خود آپ نے اپنا طویل خواب صبح کے وقت حضرات صحابہؓ سے بیان فرمایا کہ رات سوتے ہوئے خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ساتھ لے کر چلے گئے۔ پھر کئی ایسے لوگوں پر گزر ہوا جنہیں طرح طرح کے عذاب دیئے جا رہے تھے (پھر آپ نے فرمایا)

فَاتَيْنَا عَلَى مِثْلِ النَّوْرِ قَالَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَمَا طَلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاءٌ فَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلٍ مِنْهُمْ فَإِذَا آتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضُوا۔

پھر ہم تنور جیسی جگہ پر آئے۔ راوی کہتا ہے کہ غالباً آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس تنور کے اندر حج و پکار کی آوازیں آرہی تھیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب ہم نے اس میں جھانکا تو اس میں نیچے مرد اور ننگی عورتیں تھیں اور ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ آرہی تھی، تو جب آگ کی لپٹ آتی تو وہ شور مچاتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ان بد نصیبوں کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ پھر سب مناظر دکھانے کے بعد ہر ایک کے بارے میں تعارف کرایا اور ان تنوروں کے بارے میں کہا:

أَسَاءَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْعُرَاءُ الَّذِينَ هُمْ فِي مِثْلِ بِنَاءِ النَّوْرِ فَإِنَّهُمْ الرِّجَالُ وَالزَّوَانِي، الخ (معلوی شریف ۲/۱۰۳۳)

اور وہ ننگے مرد و عورت جو تنور جیسی جگہ میں تھے وہ زنا کار مرد اور عورتیں تھیں۔

شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ زنا کاروں کی یہ فضیحت آمیز اور ذلت ناک سزا ان کے جرم کے عین مطابق ہے۔ اس لیے کہ (۱) زنا کار، لوگوں سے چھپ کر عموماً جرم کرتا ہے اس کا تقاضا ہوا کہ اسے ننگا کر کے رسوا کیا جائے۔ (۲) زنا کار جسم کے نچلے حصہ سے گناہ کرتا ہے جس کا تقاضا ہوا کہ تنور میں ڈال کر نیچے سے آگ دھکائی جائے۔ (کرمانی، فتح الباری بحوالہ ماہنامہ نوری شریف حضرت نابوتی ۲/۱۰۴۳)

## زنا کار، بد بودار

(۵) ایک اور حدیث میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل خواب کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ثُمَّ انْطَلِقُ بِي فَاِذَا اَنَا بِقَوْمٍ اَشَدَّ شَيْءٍ اِنْتِفَاعاً وَاَنْتَهُ رِيْحًا كَمَا رِيْحُهُمْ  
الْمَرَّاجِيضُ قُلْتُ مَنْ هُوَ لَآءِ؟ قَالَ هُوَ لَآءِ الزَّانُوْنَ۔ (رواہ ابن عساکر و ابن حبان فی صحیحہما، العریب و العریب ۳/۱۸۷)

پھر مجھے لے جایا گیا تو میرا گزرا ایسے لوگوں پر ہوا جو (سڑنے کی وجہ سے) بہت پھول چکے تھے اور ان سے نہایت سخت بد بو آ رہی تھی گویا کہ پاختلوں کی بد بو ہو، میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ زنا کار لوگ ہیں۔

ایک روایت میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زنا کار پر لعنت کرتی ہیں۔ اور بد کار عورتوں کی شرمگاہوں کی بد بو سے خود جہنمی بھی اذیت میں ہونگے۔

(التریب و التریب ۳/۱۹۰)

نیز ایک حدیث میں شراب پینے والوں کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ انہیں ”نہر غوطہ“ سے پانی پلایا جائے گا۔ اور اس نہر کی حقیقت یہ بیان کی گئی:

نَهْرٌ يَخْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُؤْمِسَاتِ يُؤَدِي اَهْلَ النَّارِ رِيْحُ فُرُوجِهِمْ۔ (رواہ

احمد وغیرہ، الترغیب والترہیب ۱۷۶/۳

یہ ایسی نہر ہے جو زنا کار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلی ہے جن کی شرمگاہوں کی بدبو خود اہل جہنم کے لیے بھی باعثِ اذیت ہوگی۔ (اعاذا اللہ منہ)

## زنا موجب عذاب

(۶) حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا:

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِغَيْرِ مَالٍ مِمَّنْ فِيهِمْ وَلَكِنَّ الزَّانِمَاتِ إِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَكِنَّ  
الزَّانِمَاتِ أَنْ يَعْتَبَهُنَّ اللَّهُ بِعَذَابٍ۔ (مسند احمد ۶/۳۳۳)

میری امت اس وقت تک برابر خیر میں رہے گی، جب تک کہ ان میں حرام اولاد کی کثرت نہ ہو اور جب ان میں حرام اولاد کی کثرت ہو جائے گی تو عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں عمومی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔

نیز ایک صحیح روایت میں یہ مضمون بھی وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں زنا کاری یا سود خوری کی کثرت ہوگی وہ اپنے کو عذاب خداوندی کا مستحق بنا لیں گے۔ (الترغیب والترہیب ۱۶۱/۳)

## زنا موجب فقر و فاقہ

(۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں:

إِذَا ظَهَرَتِ الزَّانِمَاتُ ظَهَرَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكِنَةُ (صحیح القدیر ۱۸۲/۳)

جب زنا کاری کی کثرت ہو جائے تو فقر بھٹتا بھی عام ہو جائے گی۔

اور دوسری روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ يُعْمَلُ بِهَا فِيهِمْ غَلَانِيَةٌ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمْ

الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ (الترغیب والترہیب ۱۱۸/۳)

جب بھی کسی قوم میں برسرعام بے حیائی اور بدکاری کی کثرت ہوگی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی، جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ پائی جاتی تھیں۔  
امام بیہقی نے شعب الایمان میں ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں فرمایا گیا

الزنا یورث الفقر، (شعب الایمان ۲۶۳/۳)

یعنی زنا فقر و فاقہ کا سبب ہے۔

ان احادیث کی صداقت آج بالکل عیاں ہے۔ بے حیائیوں اور بدکاروں سے بھرپور مغربی اور مشرقی معاشرہ میں ایسے خطرناک اور لاعلاج بدترین امراض جنم لے چکے ہیں جن کا نام بھی آج تک کبھی نہیں سنا گیا تھا۔ اور فقر و فاقہ بالکل عیاں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ روزی روٹی کی پریشانی ہو، بلکہ فقر کا مطلب محتاجی ہے۔ آج وہ بے حیا معاشرہ اپنے ہر کام میں پوری طرح دوسری چیزوں کا محتاج بن چکا ہے، کہیں بجلی کی احتیاج ہے، کہیں گیس کی احتیاج ہے، کہیں ملازم کی احتیاج ہے، کہیں وسائل کی احتیاج ہے۔ الغرض انسان اپنی لذتوں کے پیچھے خود اپنی ہی ضرورتوں میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ عمر، وقت اور مال و دولت میں برکت ختم ہے۔ اور بہترین صلاحیتیں لتواور فضول کاموں میں ضائع ہو رہی ہیں۔



## یا نچویں فصل

### ہم جنسی کی لعنت

آج کا بے حیا معاشرہ شرم و حیا سے عاری ہو کر انسان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ذلیل جانوروں کی صف میں کھڑا کر چکا ہے۔ ہم جنسی یعنی مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے خواہشات پوری کرنے کا عمل وہ منحوس اور بدترین جرم ہے جس کا دنیا میں سب سے پہلے قوم لوط نے ارتکاب کیا جس کی وجہ سے اس قوم کو دنیا ہی میں ایسا بھیا تک عذاب دیا گیا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، ان کی بستیوں کو الٹ کر انہیں پتھروں سے سنگسار کیا گیا اور جس جگہ یہ بستیاں الٹی گئیں، وہاں ”بجر مردار“ کے نام سے ایسی جمیل بن گئی، جس میں اب تک بھی کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہتی۔ (معارف القرآن)

اس منحوس عمل کی شریعت میں نہایت سخت مذمت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ مِنْ أَعْوَفِ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عَمَلٌ قَوْمِ لُوطٍ۔

(ضعف الایمان ۳/۳۵۳)

ان بدترین چیزوں میں جن کا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ ہے قوم لوط کا عمل ہے۔

ایک روایت ہے کہ جب دو مرد ایسا کام کریں تو دونوں کو قتل کر دیا جائے یعنی ان پر زنا کی حد جاری کی جائے۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایسے شخص کی سزا کے بارے میں فرمایا کہ اسے شہر کی سب سے اونچی عمارت سے گرا کر پتھروں سے سنگسار کر دیا جائے۔

(ضعف الایمان ۳/۳۵۷)

حضرت خالد بن الولیدؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو لکھا کہ انہوں نے عرب کے بعض

﴿ اللہ سے شکر و تحنن ﴾ ﴿ ۱۵۲ ﴾

قبائل میں ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کے ساتھ عورتوں کی طرح نکاح کیا جاتا ہے۔ (یعنی ہم جنسی کی جاتی ہے)

جب یہ خط حضرت صدیق اکبرؓ کے پاس پہنچا تو آپ نے حضرات صحابہؓ کو جمع کیا اور مشورہ فرمایا کہ ایسے شخص کو کیا سزا دی جائے؟ تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ یہ ایسا جرم ہے جس کا صرف ایک امت یعنی قوم لوط نے ارتکاب کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سزا دی جو آپ جواپ جانتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ دیگر صحابہ کی رائے بھی اس سے متفق ہو گئی۔ اور حضرت ابو بکرؓ نے مذکورہ شخص کو جلا دینے کا حکم دے دیا۔ (شعب الایمان ۴/۳۵۷)

حماد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو دو مرتبہ سنگسار کرنا مناسب ہوتا تو لواطت کرنے والے کو دو مرتبہ سنگسار کیا جاتا۔ (حدیث ۳۷۱/۳۵۷)

مشہور محدث محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ جانوروں میں سے بھی سوائے گدھے اور خنزیر کے کوئی جانور قوم لوط والا عمل نہیں کرتا۔ (تیسرہ مشورہ ۳/۱۸۷)

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر یہ منحوس عمل کرنے والا شخص آسمان و زمین کے ہر قطرے سے بھی ٹھالے پھر بھی (باطنی طور پر) ناپاک ہی رہے گا۔ (شعب الایمان ۴/۳۵۹)

## خوبصورت لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا موجب قہنہ ہے

ہم جنسی سے بچنے کے لیے وہ تمام دروازے بند کرنے ضروری ہیں جو اس منحوس عمل تک پہنچاتے ہیں، بے دلیل قوم بچوں کے ساتھ اختلاط سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، بعض تابعین کا قول ہے کہ دیندار عبادت گزاروں کو جو ان کے لیے پھاڑ کھانے والے درندے سے بھی بڑا دشمن اور نقصان دہ، وہ امر ڈرکا ہے جو اس کے پاس آتا جاتا ہے۔

حسن بن ذکوان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بالداروں کے بچوں کے ساتھ زیادہ اٹھا بیٹھا نہ کرو، اس لیے کہ ان کی صورتیں عورتوں کی طرح ہوتی ہیں اور ان کا قہنہ کنواری عورتوں سے زیادہ سنگین ہے۔ (شعب الایمان ۴/۳۵۸) کیونکہ عورتیں تو کسی صورت میں حلال

ہو سکتی ہیں لیکن لڑکوں میں حلت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوریؒ حمام میں داخل ہوئے تو ایک خوبصورت لڑکا بھی آگیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے باہر نکالو کیونکہ عورت کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے اور لڑکوں کے ساتھ دس شیطان ہوتے ہیں۔ (ضعف الایمان ۴/۳۶۰)

اسی بنا پر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب بچے سمجھ دار ہو جائیں تو ان سب کے بستر علیحدہ کر دینے چاہئیں تاکہ ابتداء ہی سے وہ بُری عادتوں سے محفوظ ہو جائیں نیز بچوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ زیادہ وقت بالخصوص تنہائی کے اوقات بڑے لوگوں کے ساتھ نہ گزاریں۔ اگر کئی بچے ایک کمرے رہتے ہوں تو ہر ایک کا بستر اور لحاف الگ ہونا چاہیے۔

ان تمام تفصیلات سے معلوم ہو گیا کہ صرف اپنی منکوحہ بیویوں اور مملوکہ باندیوں سے ہی شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ قضاء شہوت کا کوئی بھی طریقہ شریعت میں ہرگز جائز نہیں ہے اور پردے وغیرہ کے، یا اجنبی عورتوں مردوں سے اختلاط کی ممانعت کے جو بھی احکام ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ معاشرہ سے فحشاء طریقہ پر قضاء شہوت کا رواج ختم ہو۔ جو شخص ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا اور اپنی جوانی کو ان فواحش سے بچالے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ انشاء اللہ۔

## شرمگاہ کی حفاظت پر انعام

(۱) ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے چھ باتوں کی ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھ باتیں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ إِذَا حَدَّثَ صَدَقَ بَوَادًا وَعَدَّ أَنْحَزَ بَوَادًا إِتْمَنَ أَدَى وَمَنْ عَضَّ بَصْرَهُ، وَحَفِظَ فَرْجَهُ وَكَفَّ يَدَهُ لَوْ قَالَ نَفْسَهُ۔ (ضعف الايمان ۴/۳۶۵)



(۱) جو جب باتیں کرے تو جگہ (۲) جب وعدہ کرے تو پورا کرے (۳) جب امانت لے تو ادا کرے (۴) جو اپنی نگاہ نیچی رکھے (۵) جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے (۶) اور جو اپنے ہاتھ یا اپنی ذات کو (دوسروں کو اذیت دینے سے) روکے رکھے۔

(۲) ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

يَا سَبَابَ قُرَيْشِ احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَلَا تَزْنُوا الْآامَنَ حِفْظَ فَرْجِهِ فَلَهُ

الْحَنَّةُ (ص ۳۶۵/۴ ایمان)

اے قریش کے جوانو! اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھو اور زنانہ کروا چھی طرح سمجھ لو کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے اس کے لیے جنت ہے۔

(۳) ایک اور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَا قَيْسَانَ قُرَيْشِ الْآامَنَ تَزْنُوا فَإِنَّهُ مِنْ سَلِيمِ اللَّهِ لَهُ شَبَابَةٌ دَخَلَ الْحَنَّةَ (ص ۳۶۵/۴ ایمان)

اے قریش کے جوانو! زنانہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی جوانی کو محفوظ کر دے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

(۴) حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَبَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْحَنَّةَ (ص ۳۶۰/۴ ایمان)

جو شخص اس چیز کو محفوظ کر لے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے (یعنی زبان) اور اس چیز کو محفوظ کرے جو دو پوروں کے درمیان ہے (یعنی شرمگاہ) وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

اسی طرح ایک روایت بخاری شریف میں حضرت اہل بن سعد سے مروی ہے جس میں یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مذکورہ دو چیزوں کی جگہ سے ضمانت لے لے اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔

(۵) ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جنہیں میدان محشر میں عرش خداوندی کے سائے میں بٹھا دیا جائے گا ان میں

سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَحَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔

(مسلم شریف ۳۳۱/۱)

ایسا شخص جسے کوئی عزت دار اور خوبصورت عورت بدکاری کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔

## زنا سے بچنے کی ایک عمدہ تہییر

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے زنا کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اس کی یہ جسارت دیکھ کر مجلس میں بیٹھے لوگ شور مچانے لگے اور کہنے لگے کہ اسے اٹھاؤ اسے اٹھاؤ (یہ کیا بک رہا ہے) مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اسے بیٹھے رہنے دو اور مجھ سے قریب کرو۔ جب وہ قریب ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں آپ پر قربان ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسی طرح لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے تو کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ تو اس نے کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ! آپ نے ارشاد فرمایا: اسی طرح لوگ اپنی بیٹی کے ساتھ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر آپ نے اس کی بہن، پھوپھی، اور خالہ وغیرہ کا ذکر کرنے کے اسی طرح سمجھایا تو اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے لیے دعا فرمائیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا یہ کلمات ارشاد فرمائے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَسَخِّبْ فَرْجَهُ۔

اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کا دل پاک فرما، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔

راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اس کی نگاہ کسی

بد عملی کی طرف اٹھتی ہی نہ تھی۔ (مشعب الامان ۳/۳۶۲)

اس واقعہ میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بدکاری سے بچنے کی ایک ایسی عمدہ تدبیر امت کو بتلائی ہے کہ جو بھی بُرائی کرنے والا ایک لمحہ کے لیے بھی اس بارے میں سوچ لے تو وہ اپنے غلط ارادے سے باز آسکتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جس عورت سے بدکاری کا ارادہ ہو گا وہ کسی کی بہن، بیٹی یا ماں ضرور ہوگی اور جس طرح آدمی خود اپنی ماں بہنوں کے ساتھ یہ جرم گوارا نہیں کرتا اسے سوچنا چاہیے کہ دوسرے لوگ اسے کیونکر گوارا کریں گے؟

## یہ قرب قیامت کی علامت ہے

آج جو ہر طرف بے حیائیوں اور عریانیت کا سیلاب آرہا ہے۔ اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اپنی امت کو آگاہ فرما چکے ہیں تاکہ امت ان فواحش سے بچنے کی فکر کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدَ النَّاسُ فِي الطَّرِيقِ كَمَا تَتَسَافَدُ الدُّوَابُّ

يَسْتَفْنِي الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ۔ (کتاب الفتن للمروزی ۳۹۰)

قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ جانوروں کی طرح راستوں میں (برسر عام) جماع کریں گے اور مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی خواہش پوری کریں گے۔

اور ایک دوسری موقوف روایت کا مضمون ہے:

تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ

مُنْكَرٍ يَتَهَارَجُونَ كَمَا تَهَارَجَ الْحُمْرُ أَحَدٌ رَجُلٌ بِيَدِ امْرَأَةٍ فَخَلَا بِهَا فَقَضَى

حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِمْ يَضْحَكُونَ إِلَيْهِ وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ۔ (کتاب الفتن ۳۹۵)

قیامت ایسے بدترین خلائق لوگوں پر قائم ہوگی جو نہ تو اچھی بات کا حکم کرنے

والے ہوں گے اور نہ بُرائی پر روک ٹوک کرنے والے ہونگے وہ گدھوں کی طرح (برسر

عام) شہوت رانی کریں گے۔ ایک آدمی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے جائے گا اور

اس سے قضاے شہوت کر کے پھر لوگوں کے سامنے لوٹے گا جبکہ وہ اسے دیکھ کر ہنستے ہوں

گے۔ اور یہ انہیں دیکھ کر ہنستا ہوگا۔

یعنی شرم و حیا کا بالکل جتنا زہ نکل جائے گا۔ زنا کاری موجب عار نہ رہے گی اور اس معاملہ میں انسان اور جانوروں میں تمیز ختم ہو جائے گی۔ آج یہ نبوی گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ مغربی ممالک کا تو کہنا ہی کیا، مشرقی اقدار کے محافظ کہلائے جانے والے ممالک، یہاں تک کہ بعض مسلم ممالک میں بھی ایسے حیا سوز مناظر اب کثرت سے نظر آنے لگے ہیں۔ اب ڈسکو ڈانس کے نام پر، تہذیب و ثقافت کے نام پر اور کھیل کود کے نام پر صنف نازک کا استحصال عام ہے۔ ٹیلی ویژن کے عالمی پروگرام جن تک رسائی اب کسی جگہ، کسی کے لیے بھی مشکل نہیں رہی ہے، خاص طور سے زنا کاری کی تعلیم و تبلیغ میں بہترین مشغول ہیں۔ اب زنا کاری کے فروغ کے لیے باقاعدہ عالمی کانفرنسیں ہوتی ہیں، جن کی تمام تجاویز کا لب لباب صرف اور صرف یہی نکتہ ہوتا ہے کہ کیسے اور کس طرح مرد و عورت کے درمیان ناجائز تعلقات کی رکاوٹیں دور کی جائیں۔ زنا کاری کی ایک بڑی رکاوٹ شرم و حیا کا فطری انسانی جذبہ تھا، اس کو تو مغربی تہذیب نے بالکل مردہ کر ہی دیا تھا۔ دوسری بڑی رکاوٹ عورت کے لیے ناجائز بچہ کی ذلت ہے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آج نافع حمل اشیاء ہر جگہ عام کر دی گئیں۔ اور اسقاطِ حمل کے انتظامات شہر در شہر کر دیئے گئے تاکہ یہ شیطانی اور بے حیثیت بے خوف و خطر پروان چڑھے اور ذلت و رسوائی کے اندیشے سے بے پرواہ ہو کر جانوروں کی طرح انسان بھی شہوت رانی کرتے پھریں۔ اللہم احفظنا منہ۔

ایسے پرخطر اور پر فتنہ ماحول میں ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غیروں کی دیکھا دکھی اپنی انسانیت اور شرم و حیا کو داؤ پر نہ لگائے۔ بلکہ اس کی بھرپور حفاظت کرے اور گھر کے افراد کی نقل و حرکت پر پوری نگاہ رکھے۔ اور شیطانیات کے مسلخِ اعظم ”ٹیلی ویژن“ کے زہریلے جراثیم سے اپنے ایمانی ماحول کو گندا اور نجس نہ ہونے دے۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا جذبہ اور تقاضا ہرگز پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو اپنی شرم گاہ کی کامل حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔



## باب سوم

# دل کی حفاظت

☆ دل کی صفائی

☆ حرص و بخل کی مذمت

☆ جو دوسخا

☆ بغض و عداوت

☆ تزکیہ کی ضرورت



## پہلی فصل

### دل کی حفاظت

پیٹ اور اس کے متعلقات کے حفاظت کے حکم سے ”دل“ کی حفاظت کا حکم بھی مستفاد ہوتا ہے۔ ”دل“ انسانی جسم میں ”بادشاہ“ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سارے اعضاء دل کے بے گاری خادم اور اس کے اطاعت گزار ہیں۔ لہذا اگر دل صحیح ہو تو سارے اعضاء سیدھے راستہ پر رہیں گے اور دل بگڑ جائے تو تمام اعضاء غلط راستے پر چل پڑیں گے۔ اسی بناء پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الْأَوَّلُ فِي الْحَسَنِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُّهُ الْآوَهُی الْقَلْبُ۔ (بخاری حریف ۱۳/۱)

خبردار رہو، بدن میں ایک گوشت کا ٹوٹرا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست رہے گا اور اگر وہ خراب ہو جائے گا تو سارا بدن خراب ہو جائے گا خبردار! وہ (گوشت کا ٹوٹرا) یہی دل ہے۔

اس لیے ضروری ہے کہ دل کو شریعت کے تابع بنایا جائے تاکہ دیگر اعضاء و جوارح غلط اور ناجائز امور کے ارتکاب سے محفوظ رہیں۔ قرآن کریم میں دل کی صفائی اور تزکیہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اہم ترین مقصد شمار کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔

(سورۃ الجمعة آیت: ۲)

وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا، پڑھ کر سنا تا ہے ان کو اس کی آیتیں اور ان کو سنوارتا ہے۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو باحسن وجہ پورا فرمایا اور اپنے جاں نثار صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان کے قلوب منگنی اور مٹھی ہو گئے کہ فرشتے بھی

ان پر رشک کرنے لگے اور انہیں اعمال خیر اور عبادات میں لذت و حلاوت کی ایسی عدم مثال کیفیت نصیب ہوئی کہ آج امت کا بڑے سے بڑا قطب یا ولی بھی ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ کے صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہؓ کی یہ عظمت اور ان کا یہ بلند مرتبہ و مقام دراصل ان کے دلوں کی صفائی ہی کا مظہر ہے۔ اسی دل کی صفائی نے انہیں صدق و اخلاص، کمال اخلاق اور ایثار و مواخات کا وہ اعلیٰ انسانی جذبہ عطا کیا ہے۔ جس کی مثال انسانی تاریخ میں پیش نہیں کی جاسکتی۔

## دل کے امراض

دل کے روحانی امراض بہت زیادہ ہیں جن کا اثر پوری انسانی زندگی پر پڑتا ہے۔ ان میں چند امراض نہایت خطرناک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک، صرف ایک مرض نہیں بلکہ سیکڑوں امراض کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ اس لیے ہر وہ مومن جو اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی مفت سے متصف ہونا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے قلب کو بالخصوص درج ذیل بنیادی امراض سے محفوظ رکھے۔

(۱) دنیا کی محبت (۲) بغض و عداوت (۳) آخرت سے غفلت

واقعہ یہ ہے کہ اگر مذکورہ امراض سے دل کو پاک کر لیا جائے تو انشاء اللہ روحانی اعتبار سے قلب پوری طرح صحت یاب ہوگا۔ اور پورا جسم انسانی اطاعت خداوندی کے جذبہ سے سرشار اور گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔

## دنیا کی محبت

دنیا کی محبت انسان کی طبیعت میں داخل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

زَيْنَ لِنَاسٍ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُعَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ (آل عمران: ۱۴)

فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے جیسے عورتیں اور بیٹے اور

خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگائے اور مویشی اور کھیتی۔ اور یہ محبت ضروری بھی ہے۔ اس کے بغیر نظام کائنات برقرار نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر یہ محبت اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور بندوں کے حقوق کو پس پشت ڈال دے تو پھر یہ محبت خطرناک قلبی اور روحانی مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسانی بدن کے لیے ”شوگر“ ایک خاص مقدار میں ہونی ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہی شوگر جب حد سے زیادہ پیدا ہونے لگتی ہے تو ایسے لا علاج مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے جو جسم کی رگوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب دنیا کی محبت حد سے تجاوز ہو جاتی ہے تو وہ تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد بن جاتی ہے۔ حضرت حسن بصریؒ کے مراہیل میں یہ جملہ مشہور ہے۔

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ۔ (فيض القدير ۳/۴۸۸)

دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے۔

علامہ مناویؒ (شارح جامع صغیر للسیوطی) لکھتے ہیں کہ تجربہ اور مشاہدہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی بنیاد بنی ہے۔ مثلاً پرانی سرکش قوموں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا اسی لئے انکار کیا کہ وہ لذتوں میں مبتلا تھے اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کرنے سے ان کی لذتوں اور شہوتوں کی تکمیل میں خلل آتا تھا۔ اس لیے وہ اپنے داعیوں کی مخالفت پر اتر آئے۔ اس طرح ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اسی لیے انکار کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو اپنی ریاست اور بڑائی میں رکاوٹ سمجھتا تھا، یہی معاملہ نمرود، فرعون، ہامان وغیرہ کا تھا کہ سب لوگ حب جاہ کے نشہ میں بدست ہو کر انبیاء علیہم السلام کے جانی دشمن بن گئے۔ (فيض القدير ۳/۴۸۹)

یہ دنیا کی محبت بڑے بڑے روحانی امراض کو جنم دیتی ہے۔ ان میں ایک بڑی بیماری ”حرص طمع“ ہے۔



## حرص

جب آدمی پر دنیا کی محبت کا نشہ چڑھتا ہے تو وہ حرص کا مریض بن جاتا ہے۔ یعنی اس کے پاس کتنا ہی مال و دولت جمع ہو جائے مگر پھر بھی وہ ”مل من مزید“ کا طلبگار رہتا ہے اور دولت کی کوئی مقدار بھی اس کے لیے سکون اور قناعت کا باعث نہیں بن پاتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَإِدْبًا مِثْلِي مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَسُدُّ حَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتَوُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ۔ (بخاری شریف ۲/۹۵۳)

اگر آدمی کو سونے سے بھری ہوئی ایک پوری وادی بھی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کا طلبگار ہوگا اور اگر دوسری دے دی جائے تو وہ تیسری کا طلبگار ہوگا۔ اور آدمی کا پیٹ تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے (یعنی مرنے کے بعد ہی ان تمناؤں کا سلسلہ ختم ہوگا) اور جو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔

ایک دوسری روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

يَكْبُرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبُرُ مَعَهُ إِنْتَانِ حُبِّ الْمَالِ وَطُولُ الْعُمُرِ۔ (بخاری شریف ۲/۹۵۰)

آدمی بڑا ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اس کی دو خواہشیں بھی بڑھتی ہیں۔ ایک مال کی محبت دوسرے لمبی عمر کی تمنا۔

نیز ایک ضعیف حدیث میں مضمون ہے کہ ”دو شخصوں کی بھوک نہیں مٹی ایک علم کا جی کہ اسے کسی علم پر قناعت نہیں ہوتی، دوسرے مال کا بھوک کہ اسے کتنا ہی مل جائے مگر وہ زیادتی ہی کی فکر میں رہتا ہے۔“ (مشکوٰۃ شریف ۱/۱۱۲)

خریص شخص کو کبھی بھی قلبی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مال کی مدھوشی میں اس کی راتوں میں نیندیں اڑ جاتی ہیں اور دن کا سکون جاتا رہتا ہے۔ حالانکہ مال و دولت اصل مقصود نہیں بلکہ دلی اطمینان ہی اصل میں مطلوب ہے۔ یہ اگر تھوڑے سے مال کے ساتھ بھی

نصیب ہوتی ہو تو آدمی غنی ہے۔ اور اگر مال کی بہتات کے ساتھ دلی سکون میسر نہ ہو تو وہ غنی کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرُضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ۔ (بغاری شریف

۹۵۳/۲، مسلم شریف ۱/۳۳۶، تقریباً ۲/۶۰)

زیادہ اسباب اور سامان ہونے کا نام غنا نہیں ہے بلکہ اصل غنا دل کا غنی اور مطمئن

ہونا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حرص کا روگ ایسا خطرناک ہے کہ انسانی زندگی کی روح ہی ختم کر دیتا ہے بلکہ خود انسانی اقدار کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ لہذا اس بیماری کا علاج ضروری ہے۔

## حرص کا ایک مجرب علاج

حرص کے مرض کو ختم کرنے کے لیے ان احادیث کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جن میں دنیا کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ مثلاً ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ يَسْحَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَجَنَّةَ الْكَافِرِينَ۔ (مسلم شریف عن ابی ہریرہ ۴/۳۰۷)

دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔

یعنی مومن کو دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے جیسے ایک قیدی قید خانے میں رہتا ہے کہ قید خانہ کی کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی بلکہ وہ ہر قیمت پر قید سے باہر آنے کی تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح مومن کو دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی چیزوں سے لولگانے اور اس کی حرص و طمع کے بجائے آخرت میں جانے کا سامان اور اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اسی طرح ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضْرَبَ بِأَجْرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضْرَبَ دُنْيَاهُ فَأَيُّرُوا مَا يَبْقَى

عَلَى مَا بَقِيَ۔ (مشکوٰۃ شریف ۲/۴۴۱)

﴿ اللہ سے شکر کہنے ﴾ ﴿ ۱۶۵ ﴾

جو اپنی دنیا سے لگاؤ رکھے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا اور جو اپنی آخرت پسند کرے گا وہ اپنی دنیا گنوائے گا۔ لہذا فنا ہونے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔

دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں سمندر کے ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ لہذا عقل مندی اور عاقبت اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ اس چند روزہ زندگی کے لیے حرص کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کیا جائے۔

اسی طرح حرص کو ختم کرنے کے لیے یہ یقین بھی بہت مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رزق پہلے سے متعین کر دیا ہے وہ ہمیں بہر حال مل کر رہے گا۔ اور ہماری موت اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک کہ ہم اپنے لیے مقدر کے ہر ہر لقمے کو حاصل نہ کر لیں۔ متعدد احادیث میں اس سلسلہ میں مضامین وارد ہوئے ہیں۔

علاوہ ازیں حرص کو ختم کر کے قناعت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت پر تاثیر نسخہ تجویز فرمایا ہے جو درج ذیل ارشادِ گرامی میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ۔ (بخاری ص ۲/۹۶۰)

جب تم میں سے کسی شخص کی نظر ایسے آدمی پر پڑے جسے مال یا صحت و تندرستی میں اس پر فضیلت حاصل ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے درجے کے آدمی پر نظر کرے۔ یعنی عموماً مال میں حرص کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ آدمی ہمیشہ اوپر والوں کی طرف نظر کرتا ہے۔ مثلاً تین کروڑ والا ہے تو چار کروڑ والے پر نظر کرے گا۔ چار والا ہے تو پانچ والے پر نظر کرے گا اس طرح کسی بھی حد پر اسے قناعت نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے لگے تو شکر کا جذبہ بھی عطا ہوتا ہے۔ اور حرص کا اصل سبب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس مرض کا ہمارے دل سے خاتمہ ہو اور آخرت کے فوائد کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔

## دوسری فصل

## بخل

دنیا کی محبت سے جو امراض پھیلتے ہیں ان میں ایک مہلک مرض ”بخل“ ہے جو انسان کو بہت سے اعمال خیر سے روکنے کا سبب بنتا ہے ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

صَلَحُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزَّهَادَةِ وَالْيَقِينِ وَهَلَاكُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ۔

(الطبرانی فی الاوسط ۸/۳۱۶)

اس امت کی سب سے پہلی صلاح کا سبب یقین اور زہد (کے اوصاف) تھے اور اس میں بگاڑ کی ابتداء بخل اور ہوس سے ہوگی۔

بخیل مال کی محبت میں ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ عقل کے تقاضے اور شرعی واضح حکم کے باوجود اسے خرچ کرنا بہت سخت ترین بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت کو درج ذیل حدیث میں اس طرح واضح فرمایا گیا:

مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ رَحِلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنْتَانٍ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَىٰ لُدِّيهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَحَعَلَ الْفَتَّصَدِّقُ كُلَّمَا نَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ وَحَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ خَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا۔ متفق علیہ۔ (مسلم شریف ۱/۳۲۸، مشکوٰۃ شریف ۱/۱۶۴)

کبھی آدمی اور صدقہ خیرات کرنے والے آدمی کی مثال ایسے دو شخصوں کی طرح ہے جو لوہے کی دو زر ہیں پہننے ہوئے ہوں جس کی (بتنگی کی) وجہ سے ان کے داڑھوں ہاتھ ان کے سینے اور گردن سے چمٹ گئے ہوں۔ پس جب صدقہ دینے والا صدقہ دینا شروع کرتا ہے تو اس کی زرہ کھلتی چلی جاتی ہے (اور انبساط کے ساتھ اپنا ارادہ پورا کرتا ہے) اور جب بخیل کچھ صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو زرہ کے سبب اجڑا ہل جاتے ہیں اور ہر ہر جملہ اپنا

جگہ پکڑ لیتا ہے (جس کی بنا پر بخیل کے لیے صدقہ کے ارادہ کو پورا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے) ضروری اور واجبی جگہوں پر خرچ کرنے میں بخل کرنا قرآن کریم میں کافروں اور منافقوں کا عمل بتایا گیا ہے۔ بالخصوص زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ نکالنا بدترین عذاب کا موجب ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، هَذَا مَا كَنْتُمْ لَكُمْ فَلَوْ قُومًا مَا كَنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ (سورۃ العنکبوت: ۳۴)

اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے۔ جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا (اور یہ جتلا یا جائے گا کہ) یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

## ایک عبرتناک واقعہ

دور نبویؐ میں ایک شخص ثعلبہ بن ابی حاطب تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کے لیے مالی وسعت کی دعا فرمادیں۔ آپ نے فرمایا ”اے ثعلبہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم حق ادا نہ کر سکو“ اس نے پھر وہی درخواست دہرائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ثعلبہ! کیا تو اللہ کے نبی کی حالت کی طرح کی حالت اپنانے پر راضی نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ

عام مشرین نے اس کا نام ثعلبہ بن حاطب ذکر کیا ہے جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کا نام ابن مردویہ کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ یہ واقعہ ثعلبہ بن حاطب کا نہیں بلکہ ثعلبہ ابن ابی حاطب کا ہے۔ ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی ہیں۔ ان سے ایسے واقعہ کا صدور بعید ہے۔ اور ثعلبہ ابن ابی حاطب منافق ہے۔ وہ ابن اسحاق کی صراحت

میں میری جان ہے اگر میں چاہوں کہ سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں تو وہ چلنے پر تیار ہو جائیں (مگر مجھے یہ پسند نہیں) یہ سن کر ثعلبہ بولا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے! اگر آپ نے اللہ سے دعا کر دی اور مجھے اللہ نے مال دے دیا تو میں ضرور برحق دار کو اس کا حق ادا کروں گا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْ ثُعْلَبَةَ مَالًا (اے اللہ! ثعلبہ کو مال عطا فرما) چنانچہ ثعلبہ نے کچھ بکریاں پال لیں تو ان میں کبڑے کبڑے کی طرح زیادتی ہوئی تا آنکہ مدینہ کی رہائش اس کے لیے تنگ پڑ گئی۔ چنانچہ وہ آبادی سے ہٹ کر قریب کی ایک وادی میں مقیم ہو گیا۔ اور صرف دن کی دو نمازیں ظہر اور عصر مسجد نبویؐ میں پڑھتا تھا۔ بقیہ نمازوں میں نہیں آتا تھا۔ پھر بکریاں اور زیادہ بڑھ گئیں کہ وہ وادی بھی تنگ پڑنے لگی تو وہ اور دور چلا گیا کہ ہفتہ میں صرف جمعہ کی نماز کے لیے مدینہ آیا کرتا تھا۔ تا آنکہ یہ معمول بھی چھوٹ گیا۔ اب جو قافلے راستے سے گزرتے تھے ان سے مدینہ کے حالات معلوم کرنے ہی پر اکتفاء کرتا تھا۔ اسی دوران ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ”ثعلبہ کہاں ہے؟“ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے بکریاں پالی تھیں وہ اتنی بڑھیں کہ اس کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا چنانچہ وہ دور چلا گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا: يَا وَيْحَ ثُعْلَبَةَ (ہائے ثعلبہ کی تباہی) پھر جب صدقات وصول کرنے کا حکم نازل ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ اور بنو سلیم کے دو آدمیوں کو ثعلبہ اور ایک سلمیٰ شخص کا صدقہ وصول کرنے بھیجا وہ دونوں سفیر پہلے ثعلبہ کے پاس پہنچے اور اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر پڑھ کر سنائی۔ وہ بولا: یہ تو جزیہ (ٹیکس) ہے۔ میں نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ اور اب تم جاؤ دوسرے لوگوں سے نمٹ کر میرے پاس آنا۔ وہ دونوں اس کے بعد سلمیٰ شخص کے پاس گئے۔ اس نے بلبیب خاطر جو حق بننا تھا وہ بہتر انداز میں عطا کیا پھر اور لوگوں سے صدقات وصول کر کے واپسی میں پھر وہ ثعلبہ کے پاس آئے۔ اس نے اب بھی انہیں ٹیکس کہہ کر ٹال دیا اور کہا جاؤ میں سوچوں گا۔ وہ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ابھی روادستانی بھی نہ تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ثعلبہ کے بارے میں سیاویح نعلیہ (ثعلبہ پر افسوس ہے) فرمایا اور سلمی شخص کے لیے برکت کی دعا فرمائی چونکہ ثعلبہ نے صدقہ سے انکار کر کے اپنے اس وعدہ اور معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی جو اس نے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے کیا تھا کہ میں مال کا حق ادا کروں گا۔ اس لیے اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئیں:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِن اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَٰحِلُوْا بِهٖ وَتَوَلّٰوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ، فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اٰخَلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ۔ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ۔ (العنكبوت، آیت: ۷۸)

اور بعضے ان میں سے وہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ سے اگر دیوے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہوں گے نیکی والوں میں۔ پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے تو اس میں بخل کیا اور پھر گئے ٹلا کر۔ پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا اور اس وجہ سے کہ بولتے تھے جھوٹ، کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ جانتا ہے ان کا مجید اور ان کا مشورہ اور یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے سب چھپی باتوں کو۔

جب یہ خبر ثعلبہ کو پہنچی تو وہ اپنا صدقہ لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور اسے قبول کرنے کی درخواست کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے، تو وہ اپنے سر پر مٹی ڈال کر اظہار افسوس کرنے لگا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرے عمل بد کی نحوست ہے، تو نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ یہ سن کر وہ واپس چلا آیا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان کے سامنے اپنا مال پیش کیا مگر ان سب حضرات نے یہ کہہ کر اس کا مال لینے سے انکار کر دیا کہ

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر ۶۲۲ طبع جدید دار السلام ریاض)

دیکھئے! مال کی محبت، حرص اور بخل نے اس شخص کو کیسا راندہ درگاہ بنا دیا۔ اس لیے لازم ہے کہ جب کوئی شرمی مالی حق اپنے ذمہ میں واجب ہو جائے تو نہایت خوش دلی سے اسے ادا کیا جائے۔ اگر اس میں بخل ہوگا تو یہ اس کی دلیل ہوگی کہ اس کا دل ایک مہلک روحانی بیماری میں مبتلا ہے۔

## زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرنے والوں کے لیے بھیانک سزا

اس دور میں زکوٰۃ کو ایک بڑا بوجھ سمجھا جانے لگا ہے۔ اسراف اور فضول خرچی تو عام ہے۔ ایک ایک تقریب پر لاکھوں روپے پانی کی طرح جھادیئے جاتے ہیں لیکن حساب لگا کر زکوٰۃ نکالنا طبیعت کو بڑا اشناق اور گراں گزرتا ہے۔ اسی بنا پر اگر کوئی مدرسہ کا سفیر یا مستحق فقیر کسی مالدار شخص کے دروازے پر پہنچ جائے تو اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ موڈ خراب ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جلد سے جلد یہ سائل اس کے سامنے سے ہٹ جائے۔ کئی چکر کٹوانے کے بعد اگر کچھ زکوٰۃ کے نام پر دی رقم دی بھی جاتی ہے تو انداز ایسا ہوتا ہے گویا اس پر بڑا احسان کیا جا رہا ہو۔ یہ سب تنگ ظرونی اور آخرت سے غفلت کی علامتیں ہیں۔ اگر ایسے حضرات زکوٰۃ کے بارے میں شریعت کے تاکیدی احکام اور زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں روکنے کھڑے کر دینے والی وعیدیں پیش نظر رکھیں۔ (اور بہت سے خوش نصیب حضرات اس کا خیال رکھتے بھی ہیں) تو وہ نہ زکوٰۃ دینے سے جی چرائیں گے اور نہ زکوٰۃ لینے والوں کو برا سمجھیں گے۔ اس وقت وعیدوں سے متعلق چند روایتیں ذکر کی جاتی ہیں:





سیاہ نقطے ہوں گے (جو اس سانپ کے شدید زہریلے ہونے کی نشانی ہے) یہ سانپ اس مالدار کے گلے میں قیامت کے روز طوق بن جائے گا۔ پھر اس کا جباڑا پکڑ کر کہے گا: میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ - الخ۔ جس کا ترجمہ یہ ہے: اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں، طوق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال، جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن۔

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادَ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْأُخْرَى أَطِ مَنَفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسِيكًا تَلْفًا۔ (بخاری شریف ۱۹۳/۱، مسلم شریف مع النووی بیروت، حدیث ۱۰۱۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی دن جس میں اللہ کے بندے صبح کرتے ہیں ایسا نہیں گزرتا کہ اس میں آسمان سے دو فرشتے نازل نہ ہوتے ہوں۔ ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے اے اللہ (تیک کام میں) خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے۔ اے اللہ کتبجوی کرنے والے کو مالی نقصان سے دوچار فرما۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مالی حق ادا کرنے سے روگردانی خود مالی اعتبار سے بھی مفید نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر جی خوش ہو جائے کہ ہم نے اتنا مال بچا لیا۔ مگر فرشتے کی مقبول دعا کے اثر سے جب مال کی بربادی لازم آئے گی تو یہ ساری خوشی سینکڑوں میں کا فور ہو جائے گی۔ یاد رکھئے مال کی حفاظت اور ترقی زکوٰۃ و صدقات کے روکنے میں نہیں بلکہ اس کی ادائیگی میں ہے جیسا کہ حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ خرچ کرنے والے کے حق میں فرشتے طمانی کی دعا کرتے ہیں۔ اور تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ

حساب لگا کر دی جاتی ہے وہ مال آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے بھی واقعات ہیں کہ مال چوری ہو گیا۔ مگر پھر حیرت انگیز طریقے پر بلا کم و کاست دوبارہ دستیاب ہو گیا۔

ہمارے ایک کرم فرما دوست جو ماشاء اللہ پورے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی فرم سے کئی لاکھ روپے نقد چوری ہو گئے۔ بظاہر روپیہ ملنے کا امکان نہیں تھا کیونکہ انہیں منٹوں میں کہیں سے کہیں بھی پہنچایا جاسکتا ہے۔ لیکن دو چار روز کے اندر ہی ان کی پوری رقم بحفاظت برآمد ہو گئی۔ یہ زکوٰۃ نکالنے کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟

الغرض مالی حقوق کی انجام دہی میں بخل سے کام لینا ایک بدترین روحانی مرض ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں ”سخی شخص لوگوں کا سردار بن گیا اور بخیل شخص ذلیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں فقیروں کی روٹی مقرر کی ہے۔ کسی مالدار کی کنجوسی کے سبب ہی سے دنیا میں کوئی فقیر بھوکا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بارے میں مالداروں سے پوچھ چگمہ کرے گا۔“ (الترغیب والترہیب للیامنی ۸۶)

لہذا ہمیں اپنے اندر سے بخل اور کنجوسی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سخاوت کی مبارک صفت سے متصف ہو کر دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کرنی چاہئیں۔



## تیسری فصل

### جو دو وسخا

سخاوت اللہ تعالیٰ کی نہایت پسندیدہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ (سورۃ العشر آیت: ۱۹)

اور جو بچایا گیا اپنے جی کی لالچ (حرص و محل) سے وہی لوگ ہیں مراد پانے والے۔

اور ایک روایت میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

خُلُقَانِ يُجِبُهُمَا اللَّهُ وَخُلُقَانِ يُبْغِضُهُمَا اللَّهُ، أَمَّا اللَّذَانِ يُجِبُهُمَا اللَّهُ

فَالسَّعَاءُ وَالسَّمَاخَةُ، وَأَمَّا اللَّذَانِ يُبْغِضَانِ فَسُوءُ الْخُلُقِ وَالْبُخْلُ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ

خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ۔ (صحیح الایمان ۴/۳۳۶)

دو عادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اسے دو عادتیں ناپسند ہیں جو دو عادتیں پسند

ہیں وہ سخاوت اور خوش اخلاقی ہیں، اور ناپسندیدہ عادتیں بد خلقی اور کج روی ہیں۔ چنانچہ جب

اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے

کے کام میں لگا دیتا ہے۔

حضرت حسن بصریؒ سے ایک مرسل روایت مروی ہے جس میں آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے:

إِنَّ بُدْلَاءَ أُمَّتِي لَمْ يَدْخُلُوا الْحَنَّةَ بِكثْرَةِ صَلَوَاتِهِمْ وَلَا صِيَامِهِمْ وَلَكِنْ

دَخَلُوا هَا بِسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ وَسَعَاوَةِ أَنْفُسِهِمْ۔ (صحیح الایمان ۴/۳۳۹)

میری امت کے ابدال (نیک لوگ) اپنی نماز روزہ کی زیادتی سے نہیں بلکہ اپنے

دلوں کی صفائی اور صفت سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ”دنیا میں لوگوں کے سردار

سخی لوگ ہیں اور آخرت میں لوگوں کے سردار متقی لوگ ہیں۔“ (الترغیب والترہیب لیا فی ۸۳)

اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ”میں نے صفت سخاوت پر غور کیا تو اس کی اصل یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ خوش گمانی رکھی جائے کہ وہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہ کرے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (اور جو کچھ خرچ کرتے ہو۔ وہ اس کا عوض دیتا ہے۔ اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا) اس کے برخلاف بخل اور کجبوسی کی اصل یہ معلوم ہوئی کہ اس کا مرتکب نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے یہ بدگمانی رکھتا ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے گا۔ (الترغیب والترہیب لیا فی ۸۵)

## آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت

اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرور کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیگر کمالات اور اوصاف حمیدہ سے سرفراز فرمایا تھا وہیں صفت سخاوت میں بھی آپ اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ حضرات صحابہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دو سخاوالے تھے اور رمضان المبارک میں تو تیز رفتار ہوا کی طرح آپ سے صفت سخاوت کا ظہور ہوتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو محروم نہیں فرمایا۔ (بخاری شریف ۸۹۲/۲، مکارم الاخلاق ۲۳۳) آپ کی سخاوت مبارکہ کا کچھ اندازہ درج ذیل واقعات سے لگایا جاسکتا ہے۔

## اپنی چادر سائل کو دے دی

(۱) حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے اور اسے میں آپ کی خدمت میں لائی ہوں تاکہ آپ اسے زیب تن فرمائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

بہت شوق سے وہ چادر قبول فرمائی۔ پھر اسی چادر کو ازار کی جگہ پہن کر مجمع میں تشریف لائے۔ اسی وقت ایک صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے درخواست کی کہ حضرت یہ چادر مجھے عنایت فرمادیں، یہ تو بہت عمدہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھا۔ پھر کچھ دیر تشریف رکھنے کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے اور دوسرا ازار بدل کر وہ چادر سوال کرنے والے کو بھجوا دی یہ ماجرا دیکھ کر صحابہ کرام نے ان صحابی پر پر تکبر کی کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کسی سائل کو رد نہیں فرماتے تو تم نے یہ چادر مانگ کر اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ”میں نے تو اپنے کفن میں استعمال کرنے کے لیے یہ درخواست پیش کی تھی۔“ حضرت سہلؓ فرماتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو آپ کو اسی چادر میں کفن دیا گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ (بخاری شریف ۱/۱۷۰، ۲/۳۸۱، ۸۶۳، مدارم الاخلاق ص ۲۳۵)

## دیہاتیوں کی بے ادبیوں کا تحمل

(۲) حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین سے واپسی کے وقت دیہاتی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شروع کیا اور آپ کو گھیر لیا۔ تا آنکہ آپ ایک بڑے درخت کے نیچے پہنچ گئے اور آپ کی چادر مبارک بھی اس میں الجھ گئی۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیہاتیوں سے فرمایا کہ لاؤ میری چادر واپس کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر ان کنکریوں کی تعداد کے برابر بھی اونٹ ہوں گے تو میں انہیں تمہارے درمیان تقسیم کر ڈالوں گا اور تم مجھے جھوٹا، بزدل یا بخیل نہ پاؤ گے۔ (مدارم الاخلاق ۲۳۶)

(۳) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ آپ مسجد کے دروازہ

سے ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تشریف لائے اچانک بیچے سے ایک دیہاتی نے آپ کی چادر مبارک کے کونے کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچنا شروع کیا تا آنکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کے سینے کے قریب ہو گئے۔ پھر دیہاتی آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ ”اے محمد! آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے مجھے عطا کرنے کا حکم دیجئے۔ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اسے کچھ مال دینے کا حکم فرمایا۔ (مکارم الاخلاق ص ۲۳۷)

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے پاس آ کر گفتگو فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے، گفتگو فرمائی۔ پھر آپ اٹھ کر حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جانے لگے۔ آپ نے ایک سخت کنارے والی چادر زیب تن فرما رکھی تھی۔ اسی دوران ایک دیہاتی شخص نے آپ کی چادر پکڑ کر اس زور سے کھینچی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک چادر سے رگڑ کر سرخ ہو گئی۔ پھر کہنے لگا کہ اے محمد! یہ میرے دو اونٹ ہیں ان میں سے ایک پر کھجور اور ایک میں جو لادنے کا حکم دیجئے۔ اس لیے کہ آپ اپنے یا اپنے والد کے مال سے نہ دیں گے (بلکہ بیت المال سے دیں گے) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم ساتھ کی گئی حرکت کا فدیہ نہ دو گے میں تمہیں کچھ نہ دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دیہاتی کا یہ گستاخانہ عمل دیکھا تو ہم اسے سزا دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ چنانچہ ہم ایسے رک گئے گویا ہمیں رسیوں سے باندھ دیا گیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ اس دیہاتی کو ایک اونٹ پر کھجور اور ایک پر جو بھر دادو۔ اور اس نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ ہم معاف کرتے ہیں۔ (مکارم الاخلاق ۲۳۸)

## سائل کے لیے قرض لینا

(۵) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تم میری ذمہ داری پر کوئی چیز خرید لو جب میرے پاس وسعت ہوگی تو میں ادا کر دوں گا۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول! آپ نے اس شخص کو یہ موقع دے دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگی۔ پھر ایک انصاری حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ تو خرچ کیے جائیے اور عرش کے مالک سے کمی کا اندیشہ مت کیجئے۔ انصاری کی بات سن کر پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام مسکرائے۔ اور آپ کے چہرہ انور پر بشارت پھیل گئی۔ اور فرمایا کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ (مکارم الاخلاق: ۲۰۲)



## ایک کوڑے کے بدلے اتنی بکریاں

(۶) عبد اللہ بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ایک صحابی جو غزوہ حنین میں حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنی اونٹنی پر سوار تھا اور میرے پیڑ میں ایک سخت جوتا تھا میری اونٹنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چل رہی تھی کہ اچانک بھیڑ کی وجہ سے اتنی قریب پہنچ گئی کہ میرے جوتے کا کنارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی میں لگ گیا جس سے آپ کو تکلیف ہوئی، تو آپ نے پیڑ پر کوڑا مارا، فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی پیچھے ہو جاؤ وہ صحابی فرماتے ہیں۔ پھر میں چلا گیا۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلاش کروا رہے ہیں، تو میرے دل میں احساس ہوا کہ شاید آپ کے پیڑ کو تکلیف پہنچانے کا قصہ ہے چنانچہ میں ڈرتے ڈرتے حاضر ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے جوتے سے میرے پیڑ کو تکلیف پہنچائی تھی جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدم پر کوڑا مارا تھا اب میں نے تمہیں اس کا بدلہ دینے کے لیے بلایا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس ایک کوڑے کی ضرب کے بدلے اتنی بکریاں عنایت فرمائیں۔ (مکارم الاخلاق ۲۶۲)

## بے حساب بکریاں عطا کیں

(۷) حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مخی تھے اور جب بھی آپ سے کوئی چیز مانگی گئی تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے اس کو اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا جو دو پہاڑوں کے درمیان سا جائیں تو اس شخص نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ اے لوگو! اسلام لے آؤ۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بخشش عطا فرماتے ہیں کہ جس کے بعد کسی فقر و فاقہ کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔ (مسلم شریف ۲/۱۰۳۲، الترمذی و الترمذی ص ۸۷)

## حضرات صحابہ کرام و غیر ہم کی

### سخاوت کے چند واقعات

#### حضرت ابو بکرؓ کی سخاوت

(۱) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ سے کچھ مانگنے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے منع کر دیا، پھر حاضر ہوا پھر منع کر دیا تو میں نے عرض کیا کہ یا تو آپ مجھے عطا فرمائیں یا میں سمجھوں گا کہ آپ مجھ پر بخل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ بخل سے بری کون سی بیماری ہو سکتی ہے، بات یہ ہے کہ جب تم مجھ سے مانگنے آئے تو میں نے تمہیں ایک ہزار دینے کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے مجھے تین ہزار گن کر عنایت فرمائے۔ (مکارم الاخلاق ص ۲۶۳)

(۲) حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے ہمیں صدقہ کا حکم دیا اس وقت میرے پاس مال تھا۔ چنانچہ میں نے سوچا آج تو میں حضرت ابو بکرؓ سے سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ میں آدھا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عمر! گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا۔ آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ اپنا کل مال لے کر حاضر ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر نواب دیا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکرؓ سے کہہ دیا کہ اب آئندہ میں آپ سے سبقت لے جانے کا مقابلہ نہیں کروں گا۔

(الترغیب والترہیب للیالی ص ۸۷)

(۳) حضرت ابو بکرؓ جب اسلام لائے تو چالیس ہزار درہم کے مالک تھے۔ یہ ساری رقم اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ (الترغیب والترہیب للیالی ص ۸۷) اور بہت سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جن میں حضرت بلالؓ، حضرت عامر بن فہرہؓ جیسے جلیل القدر حضرات شامل ہیں۔ (مکارم الاخلاق)

(۴) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکرؓ کے مال نے نفع پہنچایا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ رونے لگے اور عرض کیا کہ میں اور میرا مال تو صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ اے اللہ کے رسول! (اسد اللہ ۳/۲۲۲)

## حضرت عمرؓ کی سخاوت

(۵) محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی رشتہ دار نے ان سے سوال کیا۔ آپ نے اسے ڈانٹ کر مجلس سے نکال دیا۔ اس واقعہ پر لوگوں میں تبصرہ ہوا۔ اور حضرت عمرؓ سے پوچھا گیا کہ غصہ کو کیوں نکال دیا گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ شخص اللہ کے مال کے بارے میں سوال کرنے آیا تھا۔ اس میں سے اگر اسے دیتا تو پھر اللہ کے دربار میں قیامت کے دن خیانت کرنے والے حاکم کی صورت میں پیش ہو کر میں کیا معذرت کرتا۔ اگر اس شخص کو مانگنا تھا تو میرے ذاتی مال کا سوال کرتا۔ پھر آپ نے اسے دس ہزار درہم بھجوائے۔ (مکارم الاخلاق ۲۶۶)

## حضرت عثمان غنیؓ کی سخاوت

(۶) غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثالی قربانی کا ثبوت دیتے ہوئے ۳۰۰ اونٹ مع ساز و سامان صدقہ فرمائے۔ اور پھر ایک ہزار اشرفیاں لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور انہیں آپ کی گود میں ڈال دیا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ اشرفیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اٹھتے پلٹتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ ”مَا ضَرَّ اِنْسَانَ عَفْوَانٌ مَا فَعَلَ بَعْدَ هَذَا“ (آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرتے رہیں۔ ان کا کچھ نہ بگڑے گا) مطلب یہ ہے کہ اس صدقہ کی قبولیت کی برکت سے انہیں کامل خیر کی توفیق نصیب ہوگی۔ (مکارم الاخلاق ۲۶۶)

(۷) ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہوئی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقہ سے سواوٹٹ غلہ منگایا۔ جب غلہ سے بھرے اونٹ مدینے پہنچے تو شہم کے تاجر حضرت عثمان کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے امیر المؤمنین! جتنے درہم میں آپ نے یہ غلہ شام سے خریدا ہے، اسی کے برابر نفع دے کر ہم یہ غلہ خریدنے کو تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ قیمت لگ چکی ہے، تو تاجروں نے کہا کہ اچھا دو گئے نفع پر دے دیجئے۔ حضرت نے پھر جواب دیا کہ اس سے بھی زیادہ کا بھاؤ لگ چکا ہے۔ تاجر بھی نفع بڑھاتے رہے تا آنکہ پانچ گنے تک نفع پر آگئے اور حضرت عثمان پھر بھی تیار نہ ہوئے اور یہی فرماتے رہے کہ اس کی زیادہ قیمت لگ چکی ہے۔ یہ سن کر تاجروں نے کہا کہ آخر کس نے آپ سے زیادہ قیمت لگادی۔ مدینہ کے تاجر تو ہم ہی ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دس گنا عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، تو کیا تم لوگ اتنا یا اس سے زیادہ دینے پر راضی ہو۔ تاجروں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان نے اعلان کیا کہ اے لوگو! میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ سارا غلہ مدینہ کے فقراء اور مساکین پر صدقہ ہے۔ اور وہ غلہ سب محتاجوں میں تقسیم فرمادیا۔ (الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۸۷)

## حضرت علیؑ کی سخاوت

(۸) جو پھر کہتے ہیں کہ اگرچہ انتقال کے وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالانہ آمدنی ایک لاکھ درہم تک پہنچ گئی تھی لیکن شہادت کے دن آپ پر ستر ہزار درہم قرض تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر اتنا زیادہ قرض آپ پر کیسے ہو گیا، تو جواب ملا کہ بات یہ ہے تھی کہ آپ کے وہ دوست احباب اور رشتہ دار جن کا مال قیمت میں باقاعدہ حصہ مقرر نہیں تھا آپ کے پاس آکر سوال کرتے تو آپ انہیں مرحمت فرماتے جاتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ~~ص~~ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جائیداد وغیرہ بیچ کر قرض ادا کیا اور ہر سال حضرت علیؑ کی طرف سے سوغلام آزاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حسنؑ کے بعد سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنت کو زندہ رکھے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔

پھر بعد میں یہ سنت جاری نہ رہ سکی۔ (مکارم الاخلاق: ۲۷)

## حضرت طلحہؓ کی سخاوت

(۹) حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی زمین حضرت عثمان کے ہاتھ سات لاکھ درہم میں بیچی۔ جب یہ رقم آپ کے پاس آئی تو آپ کو خیال ہوا کہ اگر یہ مال رات بھر رکھا رہا اور اسی دوران موت آگئی تو کیا ہوگا۔ لہذا اسے اپنے خدام کے ذریعہ مدینہ کے فقراء اور مساکین اور بیوہ عورتوں کو رات بھر تقسیم کراتے رہے تاکہ صبح ہوتے ہوتے ان میں سے ایک درہم بھی باقی نہ بچا۔ (الترغیب والترہیب: ۸۸)

(۱۰) زیاد بن جریر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ایک ہی مجلس میں ایک لاکھ درہم تقسیم فرمادیئے۔ جب کہ آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ اپنی چادر کا کنارہ خود ہی سی لیا کرتے تھے۔ (الترغیب والترہیب: ۸۹)

## حضرت عائشہؓ کی سخاوت

(۱۱) ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں دو تھیلیوں میں بھر کر اسی ہزار درہم روانہ فرمائے۔ حضرت عائشہ اس دن روزہ سے تھیں۔ مگر صبح سے طہنچ میں درہم رکھ کر فقراء اور محتاجین کو تقسیم کرنے تشریف فرما ہوئیں اور شام تک ساری رقم تقسیم فرمادی۔ ایک درہم بھی باقی نہ رہا۔ شام کو خادمہ افطار کے لیے حسب معمول روٹی اور خیل لائی اور عرض کیا کہ اماں جان! اگر آپ اس مال میں سے ایک درہم بچا کر اس کا گوشت منگالیتیں تو آج اسی سے افطار کر لیا جاتا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: اگر تم پہلے سے یاد دلا دیتیں تو میں تمہاری خواہش پوری کر دیتی۔ (الترغیب والترہیب للایمانی: ۸۸)

## حضرت سعید بن زیدؓ کی سخاوت

(۱۲) حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر اللہ کے

واسطے سوال کیا۔ تو حضرت سعیدؓ نے اپنے غلام سے کہا کہ ابے پانچ سو دے دو، غلام نے پوچھا کہ حضرت! دینار دوں یا درہم! حضرت سعیدؓ نے فرمایا کہ میرا ارادہ تو اصل میں درہم ہی دینے کا تھا۔ مگر جب تم نے سائل کے سامنے دینار کا ذکر کر دیا تو اب پانچ سو دینار ہی دے دو۔ یہ سن کر سائل رونے لگا حضرت سعیدؓ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ میرے آقا! میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ جیسے فضل و کرم والے کو زمین اپنے اندر کیسے سمونے گی۔ (الترغیب والترہیب ۸۹)

## حضرت عبداللہ بن جعفرؓ کی سخاوت

(۱۳) شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن جعفرؓ کے پاس سوال کرنے آیا۔ اس وقت ان کی باندی ان کے سامنے کسی خدمت میں لگی تھی۔ حضرت عبداللہ نے اس سائل سے کہا کہ اس باندی کو پکڑ کر لے جاؤ۔ یہ تمہاری ہے۔ یہ سن کر باندی بولی، میرے آقا آپ نے تو مجھے مار ڈالا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، یہ کیسے؟ باندی نے کہا آپ نے مجھے ایسے شخص کو بہہ کر دیا جس کی تنگدستی نے اسے سوال کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ باندی کی بات سن کر عبداللہ بن جعفرؓ نے اس سائل سے فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ باندی میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس شخص نے کہا بہت اچھا۔ جس قیمت پر آپ چاہیں اسے لے لیں، تو حضرت نے فرمایا، میں نے اسے سواشرنی میں خریدا تھا اب تم مجھے دو سواشرنی میں دے دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے وہ باندی واپس لے لی اور سائل کو دو سواشرنی دے کر فرمایا جب یہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ یہ حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر باندی نے عرض کیا۔ آقا نے من! میری وجہ سے آپ کو بوجھ اٹھانا پڑا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تیری عزت میرے نزدیک تیرے اوپر خرچ کیے گئے مال سے زیادہ ہے۔ (مکارم الاخلاق ص ۲۷۳)

(۱۴) حضرت عبداللہ بن جعفرؓ اپنے بڑوں کے چالیس خاندانوں پر خرچ کیا کرتے تھے اور عیدین کے موقع پر ان کے لیے کپڑے وغیرہ بنا کر بھیجتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا گزرا ایک ہستی پر ہوا۔ گرمی سے بچنے کے لیے آپ ایک کھجور کے بانغ میں ایک درخت کے سائے

﴿ اللہ سے شہوم کھینچنے ﴾ ﴿ ۱۸۵ ﴾

میں آرام فرما ہوئے اسی دوران آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام باغ کی نگرانی پر مامور ہے۔ اس کے لیے دوپہر کا کھانا لایا گیا جس میں روٹی کے چند کڑے تھے۔ جب اس غلام نے کھانے کا ارادہ کیا، تو وہاں ایک کتا آپہنچا۔ اس نے روٹی کا ایک ککڑا کتے کے سامنے پھینک دیا۔ جب وہ کھا چکا تو دوسرا اور تیسرا ککڑا بھی پھینک دیا۔ عبداللہ بن جعفر یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اس غلام سے پوچھا کہ روزانہ تمہارے کھانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہی روٹی کے تین کڑے آجاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے پوچھا پھر تم نے اپنے مقابلے میں کتے کو کیوں ترجیح دی؟ تو اس غلام نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ یہ علاقہ کتوں کا نہیں ہے۔ یہ کتا بہت دور سے چل کر میرے پاس آیا ہے۔ میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ یہ بچا رہ محروم واپس جائے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، پھر اب تم دن بھر کیا کرو گے؟ غلام نے جواب دیا اب میں اگلے دن تک بھوکا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ شرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے سخاوت پر ملامت کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ غلام تو مجھ سے بھی بڑا نخی ہے۔ پھر غلام سے پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ اس نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے فلاں شخص ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر جب مدینہ تشریف لائے تو اس باغ کے مالک سے پورا باغ غلام سمیت خرید لیا اور پھر غلام کو بلا کر فرمایا کہ تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ اور یہ باغ تیری ملکیت ہے۔ (الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۹۰)

(۱۵) عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادہ معاویہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی سخاوت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے مال میں سب لوگوں کو برابر کا شریک سمجھتے تھے، جو بھی مسائل آتا اسے بھر پور عطا فرماتے۔ یہ نہ سوچتے کہ انہیں خود ضرورت ہے اس لیے دینے میں کمی کریں۔ اور نہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ بعد میں محتاج ہو جائیں گے اس لیے ذخیرہ کر کے رکھیں۔ (شعب الایمان ۴/۳۳۷)

## سیدنا حضرت حسینؑ کی سخاوت

(۱۶) ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں بیس یا تیس اونٹ لے کر مدینہ منورہ حاضر ہوا

تاکہ لوگوں سے مجھوروں کا سوال کروں، تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ عمرو بن عثمان اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے اپنے باغوں میں ہیں اس لیے ان سے جا کر مانگو۔ چنانچہ سب سے پہلے میں حضرت عمرو بن عثمان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے دو اونٹ بھر کر مجھ کو عطا فرمائیں۔ پھر کسی شخص نے مجھے مشورہ دیا کہ تم حضرت حسینؑ کے پاس جاؤ۔ چنانچہ میں ان کے باغ میں پہنچا۔ میں انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد غلام بیٹھے ہیں۔ درمیان میں اک بوا پتالہ ہے جس میں موٹی روٹی اور گوشت ہے اور وہ سب مل کر کھا رہے ہیں۔ میں نے جا کر سلام کیا اور دل میں سوچا کہ یہ آدمی تو شاید کچھ بھی نہ دے سکے۔ بہر حال حضرت حسینؑ نے مجھے بلایا اور اپنے ساتھ کھلایا۔ پھر پانی کی ایک چھوٹی نہر کی طرف گئے اور پانی پیا اور ہاتھ دھوئے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے کچھ اونٹ لے کر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میرا ارادہ آپ حضرات سے مجھ کو لے کر انہیں بھر کر لے جانے کا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ۔ اپنے اونٹ لے آؤ۔ چنانچہ میں لے کر حاضر ہوا، تو فرمایا کہ اس کو ٹھری میں چلے جاؤ اس میں مجھ کو رکھی ہوئی ہیں۔ ہمتا بھر سکو، بھرو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری اونٹیاں بھریں اور پھر چلا آیا۔ اور دل میں سوچنے لگا کہ واقعی یہ ہے سخاوت۔ (مکارم الاخلاق ص ۲۷۵)

## حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی سخاوت

(۱۷) حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرہ تشریف لائے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مہمان ہوئے۔ آپ نے اپنا مکان حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے لیے خالی فرما دیا۔ اور کہا کہ جس طرح آپ نے (ہجرت کے موقع پر) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا اب میں بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ پھر پوچھا کہ آپ پر کتنا قرض ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے فرمایا کہ بیس ہزار، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ۴۰ ہزار عطا فرمائے اور ساتھ ہی میں غلام دے کر



فرمایا کہ گھر میں جو سامان ہے وہ بھی آپ ہی کی ملک ہے۔ (مکارم الاطلاق ص ۱۷۹)

## خانوادہ نبوت کی سخاوت کا نمونہ

(۱۸) حمید بن بلال کہتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے دو آدمیوں میں بحث چمڑ گئی۔ ایک نے کہا کہ میرا خاندان زیادہ سخی ہے اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ ہمارا خاندان زیادہ سخاوت کرنے والا ہے۔ بالآخر یہ بات طے ہوئی کہ اپنے اپنے خاندان والوں سے چندہ کا تجربہ کر کے فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ دونوں شخص اپنی اپنی مہم پر روانہ ہوئے۔ اموی شخص نے اپنی قوم کے دس آدمیوں سے صرف ایک لاکھ روپے جمع کیے جب کہ ہاشمی شخص اولاً عبید اللہ بن عباسؓ کے پاس گیا۔ انہوں نے ایک لاکھ درہم عنایت کیے۔ پھر سیدنا حضرت صنؓ کے پاس گیا انہوں نے ایک لاکھ تیس ہزار درہم دیئے پھر حضرت حسینؓ کے پاس آیا۔ انہوں نے بھی ایک لاکھ تیس ہزار دیئے۔ اس طرح صرف تین حضرات سے تین لاکھ ساٹھ ہزار درہم جمع ہو گئے۔ چنانچہ ہاشمی اپنے دعویٰ میں اموی پر غالب آ گیا۔ پھر یہ طے ہوا کہ یہ مال جن سے لیا ہے انہیں لوٹا دیا جائے۔ چنانچہ اموی شخص اپنا مال لے کر مالکان کے پاس گیا اور پوری صورت واقعہ بتا کر مال واپس کر دیا اور ان سب نے قبول بھی کر لیا اور ہاشمی شخص جب مال لوٹانے گیا تو ان حضرات نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہم دے کر واپس نہیں لیا کرتے۔ (مکارم الاطلاق ص ۱۸۰)

## حضرت لیث بن سعد کی سخاوت

(۱۹) حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار تھے۔ ان کی سالانہ آمدنی اسی ہزار اشرفی تھی لیکن کبھی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ وہ اپنا سب مال فقراء، دوست، احباب اور رشتہ داروں پر خرچ کر دیتے تھے اور سال کے ختم پر ان کے پاس بقدر نصاب مال باقی نہیں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک عورت شیشہ کے پیالہ کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا شوہر بیمار ہے۔ اسے شہد کی ضرورت ہے۔ اس پیالہ میں شہد عطا فرمادیں۔ آپ نے اسے شہد کا پورا برتن دینے کا حکم فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس نے تو صرف ایک

پیالہ مانگا تھا آپ نے پورا برتن دے دیا، تو آپ نے جواب دیا کہ اس نے اپنے اعتبار سے مانگا اور ہم نے اپنے اعتبار سے دیا۔ (الترغیب والترہیب للیالی ص ۸۹)

قتیبہ فرماتے ہیں کہ لیث بن سعد روزانہ متعدد مسکینوں پر صدقہ کیا کرتے تھے۔ نیز امام مالک، ابن لہیعہ اور دیگر علماء کو ہدایا بھیجتے تھے۔ (شعب الایمان ۴/۳۳۹)

## حضرت عبداللہ ابن عامرؓ کی سخاوت

(۲۰) عبداللہ بن عامرؓ نے خالد بن عقبہ سے ایک گھر ۷۰ یا ۸۰ ہزار درہم میں خریدا۔ جب رات ہوئی تو محسوس ہوا کہ خالد کے گھر والے رو رہے ہیں۔ عبداللہ بن عامر نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ خالد کے گھر والے اپنے گھر کے فروخت ہونے پر غم کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوتے ہی عبداللہ بن عامرؓ نے اسی وقت اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ لکن گھر والوں سے کہہ دو کہ پوری رقم اور گھر سب تمہاری ملکیت ہے۔ (شعب الایمان ۴/۳۳۸)

اسی طرح کا واقعہ الترغیب والترہیب للیالی ص ۹۰ پر بھی ہے۔

صلحاء امت کے یہ چند واقعات ہمارے لیے عبرت آموز اور نصیحت انگیز ہونے چاہئیں۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں اپنے مال سے کیسا شدید لگاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اور دوسروں کے مفاد کے مقابلہ میں ہمیں اپنا مفاد کتنا عزیز ہونا چاہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا تقاضا اور اپنے دل کو روحانی امراض سے بچانے کا مشققی یہی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں حتی الوسع دوسروں کا بھی حق متعین کریں اور ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ۔ (مسند احمد ۳/۹۷، الترغیب والترہیب

للایالی، ص ۹۰)

یعنی اچھا مال نیک آدمی کے لیے بہترین مددگار ہے۔ وہ اس کو صحیح جگہ خرچ کر کے اپنے لیے آخرت میں بہت اونچے درجات حاصل کر سکتا ہے۔

## چوتھی فصل

## مہمان نوازی

جو روٹکا کی صفت کا سب سے زیادہ مظاہرہ ضیافت اور مہمان نوازی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسی بناء پر شریعت میں مہمان کے ساتھ چھابرا تاؤ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَفِيَّةً۔ (بخاری ۸۸۹/۲ من ہی ہریرہ)

جسے اللہ اور آخرت پر یقین ہوا سے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کس عمل کی بناء پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کی کھانا کھلانے کی صفت کی وجہ سے انہیں مقام خلیفہ پر فائز کیا گیا۔ (الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۶۸)

حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑے مہمان نواز تھے کہ ان کا لقب ہی ابوالضیفان (مہمانوں کے باپ) پڑ گیا تھا۔ آپ کے دولت خانے پر چار دروازے تھے تاکہ کسی اجنبی شخص کو آنے میں دشواری نہ ہو۔ اور حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کی تلاش میں بسا اوقات ایک ایک دو دو میل چلے جاتے تھے کہ انہیں ساتھ بٹھا کر دو پہر یا رات کا کھانا کھلائیں۔ (الترغیب والترہیب ص ۶۳)

حضرت مجاہد آیت قرآنی قُلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ صَفِيْفٍ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنِ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ مہمان کی خدمت خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے۔ نیز ان کے ساتھ نہایت بشاشت اور خوش روی سے پیش آتے تھے۔ (حوالہ بالا)

## آنحضرتؐ اور حضرات صحابہؓ کی مہمان نوازی

مارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجہ کے مہمان نواز تھے۔ اصحابِ صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو گویا آپ کے مستقل مہمان تھے ہی۔ ویسے بھی مدینہ میں جو وفد آتے وہ سب آپ کے مہمان رہتے تھے۔ کبھی متعدد مہمان آجاتے تو آپ اپنے گھروں میں معلوم کراتے جہاں سے بھی کھانے کا نظم ہو جاتا مہمان کو پیش کیا جاتا۔ اور اگر ازواجِ مطہرات میں سے کسی گھر میں بھی انتظام نہ ہو پاتا تو آپ ان مہمانوں کو اپنے جاں نثار صحابہ میں تقسیم فرمادیتے۔ اور جس صحابی کو بھی یہ سعادت ملتی وہ اس کا حتی الامکان پوری بشارت اور خوش دلی سے حق ادا کرتا۔ ایک مرتبہ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص آپ کے یہاں مہمان ہوا۔ آپ نے ازواجِ مطہرات کے گھروں میں کھانے کو معلوم کرایا تو اتفاق سے کسی کے یہاں انتظام نہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں موجود صحابہ سے فرمایا کہ میرے اس مہمان کی کون میزبانی کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس مہمان کو لے کر حضرت ابو طلحہ گھر پہنچے اور اپنی پاک طینت اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کھانے کا کیا انتظام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بس ہمارے اور بچوں کے بقدر انتظام ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور جب دسترخوان بچھاؤ تو چراغ بجھا دینا اور مہمان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا اور یہ احساس دلاؤں گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں تاکہ مہمان کو ناگواری نہ ہو۔ چنانچہ اہلیہ نے ایسا ہی کیا۔ اپنا سارا کھانا ان دونوں نے مہمان کو کھلا دیا اور خود حالانکہ دن میں روزے سے تھے، چھو کے حق سو گئے۔ صبح جب نماز فجر میں حضرت ابو طلحہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا: ابو طلحہ! رات تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا اور اس نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے:

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر آیت: ۹)

اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اور اگر چہ ہوا اپنے اوپر فاقہ۔

(حدیث: ۵۳۵/۱، غیر منقول)

یہ ایک ہی واقعہ نہیں بلکہ حضرات صحابہ کرام کے معمول اکرامِ حنیف کا تھا۔ جس کی تفصیلات صحابہ کی سیرت میں موجود ہیں۔

## حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مہمان کے ساتھ معاملہ

رجاء بن حیوۃ نے ایک مرتبہ خلیفہ عادل امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عبدالعزیز سے کہا کہ میں نے تمہارے والد محترم سے زیادہ کامل عقل والا شخص نہیں دیکھا۔ ایک رات میں ان کا مہمان ہوا۔ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ چراغ بجھ گیا۔ ہمارے قریب ایک خادم سو رہا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اس خادم کو جگا دیجئے۔ وہ چراغ جلانے لگا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں وہ سو گیا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اچھا تو میں جا کر اس کو درست کر لاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مہمان سے خدمت لینا شرافت اور مردت کے خلاف ہے۔ پھر آپ خود اٹھے اور چراغ کی جتنی درست کی اور اس میں تیل ڈال کر جلا کر لائے۔ پھر فرمایا کہ میں جب گیا تھا تو بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور آیا تو بھی عمر بن عبدالعزیز ہی رہا۔ یعنی اس چراغ جلانے سے میری حیثیت میں کوئی تہدیلی نہیں ہوئی۔ (ضع الامان ۱۰۲/۷)

معلوم ہوا کہ مہمان کسی بھی درجہ کا ہو اس کا اکرام یہ ہے کہ میزبان اس سے کوئی کام نہ لے بلکہ ہر ممکن طریقہ پر اسے راحت پہنچانے کی کوشش کرے۔

ابن عوف فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت حسن بصریؒ اور حضرت محمد بن سیرینؒ کے دولت خانہ پر قیام کا اتفاق ہوا تو یہ دونوں حضرات خود کھڑے ہو کر میرے لیے بستر بچھواتے تھے۔ اور حضرت حسن بصریؒ کو تو میں نے اپنے دست مبارک سے بستر بچھاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ (ضع الامان ۱۰۲/۷)

## مہمان کے حقوق

مہمان کے حقوق کے متعلق حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے چند جامع باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مہمان کے حقوق درج ذیل ہیں۔

- (۱) آمد کے وقت بشاشت ظاہر کرنا اور جانے کے وقت کم از کم دروازہ تک مشایعت کرنا۔
- (۲) اس کے معمولات و ضروریات کا انتظام کرنا جس سے اس کو راحت پہنچے۔
- (۳) تواضع و تکریم و مدارات کے ساتھ پیش آنا، بلکہ اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرنا۔
- (۴) کم از کم ایک روز اس کے لیے کھانے میں کسی قدر متوسط درجہ کا تکلف کرنا مگر اتنا ہی کہ جس میں نہ اپنے کو تردد ہونہ اس کو حجاب ہو اور کم از کم تین روز تک اس کی مہمان داری کرنا۔ اتنا تو اس کا حق ضروری ہے۔ اس کے بعد جس قدر وہ ٹھہرے میزبان کی طرف سے احسان ہے۔ مگر خود مہمان ہی کو مناسب ہے کہ اس کو تنگ نہ کرے۔ نہ زیادہ ٹھہر کر نہ بچا فرمائش کر کے۔ نہ اس کی تجویز طعام و نشست و خدمت میں دخل دے۔ (رسالہ حقوق الاسلام اور اسلامی نصاب ۳۳۸)

یہ آداب احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جس کا ایمان اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ہو تو وہ اپنے مہمان کا اکرام جائزہ (انعام) سے کرے۔“

صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ جائزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دن رات (کا پر تکلف اہتمام) اور مہمانی تین دن ہے۔ اور جو اس سے زیادہ کھلائے گا وہ اس پر صدقہ شمار ہوگا۔ اور کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کے یہاں اتنے دن ٹھہرے کہ اسے گنہگار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ گنہگار کرنے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا یعنی مہمان ٹھہرا رہے اور میزبان کے پاس کھلانے کو کچھ نہ ہو (جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو وہ بد اخلاقی پر مجبور ہوگا یا اسے کھلانے کیلئے سخت کلفت اور مشقت جھیلنی ہوگی)۔ (مسلم شریف ج ۱۰)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ مہمان کی مدارات اگرچہ میزبان کی اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے لیکن مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے طرز عمل سے میزبان کو اذیت میں مبتلا نہ کرے۔

## مہمان کی ذمہ داری

آج کل جہاں مہمان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی عام ہے، وہیں مہمان کی طرف سے میزبان کی راحت و سہولت کے لیے جو ذمہ داری ادا ہونی چاہیے۔ اس میں بھی بہت زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

۱۔ میزبان کو اپنی آمد کی اطلاع پہلے دے دی جائے۔ اور اگر کسی وجہ سے پروگرام ملتوی ہو جائے تو اس کی بھی اطلاع ضروری جائے۔

۲۔ اگر پہلے سے اطلاع نہ ہو تو کوشش کی جائے کہ بے وقت (مثلاً عین طعام یا آرام کے وقت) میزبان کے یہاں نہ پہنچنا ہو (الایہ کہ یہ یقین کامل ہو کہ میزبان اس وقت اچانک آنے سے ناگواری محسوس نہ کرے گا)

۳۔ اگر میزبان کے یہاں کھانا کھانے کا ارادہ نہ ہو تو جاتے ہی اس کو مطلع کر دیں تاکہ وہ کھانے کے انتظام میں نہ لگے۔

۴۔ اگر کم مروج یا پرہیزی کھانے کا معمول ہو تو پہلے سے یا جاتے ہی میزبان کو مطلع کر دیں، کیونکہ کھانا آجانے کے بعد اس کے اظہار سے میزبان کو تکلیف ہوگی۔

۵۔ مہمان کو چاہیے کہ میزبان کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے شخص کی دعوت قبول نہ کرے۔ اور اگر اپنے کسی کام سے کسی جگہ جانا ہو تو میزبان کو بتا کر جائے تاکہ میزبان کھانے کے وقت پریشان نہ ہو۔

۶۔ بہتر ہے کہ اپنے واپسی کے پروگرام سے میزبان کو مطلع کر دے۔ تاکہ میزبان کی مصروفیات میں بھی کوئی خلل واقع نہ ہو۔

﴿ اللہ سے شکر کہنے ﴾ ﴿ ۱۹۴ ﴾

۸۔ میزبان اپنی وسعت کے مطابق جو چیز بھی ضیافت میں بروقت پیش کرے مہمان کو چاہیے کہ اسے خوش دلی سے قبول کرے۔ اس پر چمیں بہ جنیں نہ ہو اور نہ میزبان سے فرمائش کرے (الایہ کہ میزبان بے تکلف اور اس کے حالات اس کی اجازت دیں تو بات الگ ہے)

اس طرح کے آداب کا ضماصل میں یہ ہے کہ جس طرح میزبان پر مہمانی کی راحت رسائی کی ذمہ داری ہے اسی طرح مہمان پر بھی لازم ہے کہ وہ میزبان کی راحت کا خیال کرے اور اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔

فقیر الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ رات میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ملاقات کے لیے تھانہ بھون پہنچے۔ دیر ہونے کی وجہ سے خانقاہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت مدنی نے یہ سوچ کر کہ اس وقت دروازہ کھلنے کا قانون نہیں ہے اور دستک دینے سے حضرت تھانویؒ کے آرام میں غلغلہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے حضرت تھانویؒ کے دولت کدہ کے سامنے اپنا بستر بچھالیا اور رات بھر وہیں قیام فرمایا۔ صبح جب معمول حضرت تھانویؒ باہر تشریف لائے تو ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ باہر رات گزارنے پر حضرت تھانویؒ نے بھی انیسوں کا اظہار فرمایا۔ الخ

اسی طرح خواتین جب کسی جگہ جائیں تو اس کا خیال رکھیں کہ ان کی وجہ سے میزبان گھر انہ کے مردوں کو تکلیف نہ ہو۔ آج کل رہائشی مکانات تنگ ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیگر عورتیں گھر میں ملنے آجاتی ہیں اور ان کی گفتگو اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ گھر کے مردوں کو باہر وقت گزارنا پڑتا ہے۔ جو سخت کلفت کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی عین دوپہر میں آرام کے وقت دوسرے کے گھر پہنچ جاتی ہیں جس سے سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ اگرچہ اپنی شرافت یا حسن اخلاق کی وجہ سے



﴿ اللہ سے شرم کیجئے ﴾ ﴿ ۱۹۵ ﴾

زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن ایسے موقع پر آدمی کو خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو تو ہمیں کیسا لگے گا؟

الغرض ایک دوسرے کی راحت رسانی کا جذبہ ہر وقت ہر مسلمان کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔



## یا نچویں فصل

### بغض و عداوت

دل کو جن بدترین امراض سے بچانا ضروری ہے ان میں ایک بڑا مرض کسی سے کینہ اور بغض رکھنا ہے۔ یہ ایسا مرض ہے جس کا ضرر مسلسل جاری رہتا ہے اور دینی و دنیاوی ہر اعتبار سے اس کے مفاسد سامنے آتے رہتے ہیں۔ دنیاوی مفاسد تو ظاہر ہیں کہ اس بغض و عداوت کی وجہ سے معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دینی مفاسد یہ ہیں کہ جب کسی سے بغض ہوتا ہے تو پھر اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں، مثبتیں کی جاتی ہیں، سازشیں رچائی جاتی ہیں، گویا کہ ایک مرض نہ جانے کتنے امراض کا سبب بن جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی نحوست یہ کہ اس کی بناء پر بارگاہِ خداوندی میں دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ  
فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبِّهِ شَحْنَاءٌ فَيَقَالُ أَتْرَكُوا هَذَا  
حَتَّى يَفِيئًا۔ (عن ابی ہریرۃ، کنز العمال ۱۸۷/۳)

ہر ہفتہ میں دو بار جمعہ اور جمعرات کے دن (اللہ کے دربار میں) لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے شخص کی مغفرت فرماتا ہے۔ سوائے ایسے آدمی کے جس کی دوسرے سے دشمنی اور بغض ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی چھوڑ دو تا آنکہ یہ دونوں صلح کر لیں۔

اور بعض روایات میں ہے کہ شعبان کی پندرہویں شب کو مغفرت کی جاتی ہے مگر کینہ پروردگی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ (کنز العمال ۱۸۶/۳)

اس لیے شریعت اسلامیہ نے بغض و عداوت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے نہایت سختی سے منع کیا ہے۔

## بول چال بند کرنا

مثلاً آج جہاں کسی سے کوئی ناگواری کی بات ہوئی بول چال بند کر دی جاتی ہے۔ خوشی اور غمی میں شرکت سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کہیں دونوں کا سامنا بھی ہو جائے تو ہر ایک منہ موڑ کر الگ راستہ اپنا لیتا ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَيَخْتَرُّهُمَا الَّذِي يُؤَدُّهُ بِالسَّلَامِ۔ متفق عليه (مشکوٰۃ ص ۲۷۷/۲)

کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین راتوں سے زیادہ بول چال قصداً بند کرے دونوں اس حال میں ملیں کہ ہر ایک دوسرے سے اعراض کرتا ہو، ان میں بہتر وہ شخص ہے جو سلام سے ابتداء کرے۔

حدیث میں تین دن کی قید اس لیے لگائی کہ اگر طبعی تقاضے کی بناء پر ناگواری ہو جائے تو اس کا اثر تین دن پورے ہونے پر جاتا رہتا ہے۔ اب اگر آگے قصد ابول چال بند ہو رہی ہے تو یہ طبعی تقاضے کا اثر نہیں بلکہ دل کے کینے اور بغض کا اثر ہے جس کو مٹانے کی ضرورت ہے فوراً کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نزاع کے دوران فریقین میں بات چیت بند ہونا نزاع کو بڑھانے میں سب سے مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ کیونکہ اگر بات چیت کا سلسلہ قائم ہو تو کئی بدگمانیاں تو محض گفتگو سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بات چیت قائم نہ ہو تو جھگڑے کی طبع برابر بڑھتی چلی جاتی ہے اور دونوں طرف سے کھل کر حقوق کی پامالی کی جاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نزاع کے سبب اسباب کو سرے سے ختم کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا تَنَاحَشُوا وَلَا تَحَاسَبُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِعْوَانًا۔ متفق عليه (مشکوٰۃ ص ۲۷۷/۲)

بدگمانی سے بچتے رہو۔ اس لیے کہ بدگمانی سب سے جموٹی بات ہے۔ اور کسی کی ٹوہ میں مت رہو اور نہ جاسوسی کرو اور نہ بھاد بڑھاؤ اور نہ آپس میں حسد کرو اور نہ بغض کرو اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرو۔ اور سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔

اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفَلِكِ ذَبِيهِ۔ (العرہب والعرہب ۳/۶۱۳)

جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال بول چال بند رکھی اس نے گویا

اس کا خون بہا دیا۔

بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ دو آدمیوں میں ناچاقی ہوتی ہے اور ان میں ایک صلح کرنا چاہتا ہے، دوسرا صلح پر آمادہ نہیں ہوتا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صلح پر آمادہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اگر اس کا کوئی حق بنتا ہے جس کا وہ مطالبہ کر رہا ہے تو اس کا حق ادا کیا جائے اور اگر وہ خواہ مخواہ صلح سے انکار کرتا ہے تو لڑائی اور نزاع کا گناہ صلح چاہنے والے پر نہ ہوگا بلکہ صرف اسی شخص پر ہوگا جو صلح سے انکار کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے:

لَا تَجْعَلْ لِلْمُحْرِمَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّ التَّقِيَةَ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا فَرَدَّ الْآخَرَ  
اِشْتَرَكَ فِي الْآخِرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ بَرِيًّا هَذَا مِنَ الْأَيْمِ وَبَاءَ بِهِ الْآخِرُ۔ (رواہ الطبرانی،  
العرہب والعرہب ۳/۵۰۵)

تین دن سے زیادہ بول چال بند کرنا جائز نہیں ہے پھر اگر دونوں کی ملاقات ہو اور ایک نے سلام کیا تو اگر دوسرا جواب دے دے تو دونوں ثواب میں شریک ہو جائیں گے اور اگر دوسرا جواب نہ دے تو یہ (سلام کرنے والا) گناہ سے بری ہو جائے گا اور دوسرا (جواب نہ دینے والا) گنہگار رہے گا۔

حاصل یہ ہے کہ ہر مومن کو دوسرے کی طرف سے دل صاف رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر اتفاقاً کوئی بات ناگواری کی پیش آجائے تو جلد از جلد اسے رفع دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس بارے میں کوتاہی اور لا پرواہی سے بڑے مفاسد جنم لیتے ہیں۔ اور بعد

میں ان کا سدباب بہت مشکل ہو جاتا ہے۔

## بغض کے بعض مفاہد

- ۱۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ بغض و عداوت کی وجہ سے آٹھ خرابیاں اکثر سامنے آتی ہیں:
- ۱۔ حسد: یعنی تمنا ہوتی ہے کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہے اور اس کو نعمت ملنے پر دل میں کڑھتا ہے اور اس کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ یہ منافقین کی خصلت ہے اور دین کا ستیاناس کرنے والی صفت ہے۔
- ۲۔ شامت: یعنی دوسرے کی مصیبت پر دل ہی دل میں خوب خوشی محسوس کرے۔
- ۳۔ ترک تعلقات: کہ دلی کینہ کی وجہ سے بول چال، آنا جانا سب بند کر دیتا ہے۔
- ۴۔ دوسرے کو حقیر سمجھتا: عموماً کینہ کی وجہ سے دوسرے کو ذلیل و حقیر سمجھتا ہے۔
- ۵۔ زبان درازی: جب کسی سے بغض ہوتا ہے تو اس کے بارے میں غیبت، جھجلی، بہتان طرازی الغرض کسی بھی برائی سے احتراز نہیں کیا جاسکتا۔
- ۶۔ مذاق اڑانا: یعنی کینہ کی وجہ سے دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے اور بے عزتی کرتا ہے۔
- ۷۔ مار پیٹ: یعنی کبھی کبھی کینہ کی وجہ سے آدمی مار پیٹ پر بھی اتر آتا ہے۔
- ۸۔ سابقہ تعلقات میں کمی: یعنی اگر کچھ اور نہ بھی ہو تو بغض کا ایک ادنیٰ اثر یہ تو ہوتا ہی ہے کہ اس شخص سے پہلے جو تعلقات اور بٹاشت رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ (مذاق معارفین ۳/۱۹۹)

## بغض کا سبب

علماء نفسیات کے نزدیک کینہ اور عداوت کی ابتداء غصہ سے ہوتی ہے۔ یعنی جب آدمی کسی وجہ سے غصہ کے تقاضے پر عمل نہیں کر پاتا تو یہی غصہ کینہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی بڑے آدمی کی طرف سے کوئی خلاف طبع بات سامنے آئی، تو اس پر غصہ بہت آتا ہے لیکن اس آدمی کی بڑائی کی وجہ سے آدمی اس سے انتقام نہیں لے پاتا تو یہی بات

﴿اللہ سے ملنا کھینچنے﴾

اس سے بغض و کینہ کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بغض کے اس سبب کو مٹانے کی کوشش کی جائے۔ اولاً تو کوشش کریں کہ غصہ ہی نہ آئے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نصیحت کے طالب بعض صحابہؓ کو یہی ایک نصیحت فرمائی کہ وہ غصہ نہ ہوا کریں۔ (الترغیب والترہیب ۳/۲۹۹)

کیونکہ یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے اور غصہ کا سب سے بڑا سبب تکبر اور خود نمائی ہے۔ جو شخص تکبر سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی وہ غصہ سے بھی پاک ہوگا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اگر غصہ اسی لیے آتا ہے کہ اس نے ہماری عزت پامال کر دی ہے۔ اس نے ہماری مجلس میں ہماری رائے کے خلاف رائے دی۔ اس نے ہمارے مشورہ کو قبول نہیں کیا۔ اس نے ہمارے مقام اور مرتبہ کا خیال نہیں رکھا وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر آدمی متواضع ہو جائے تو یہ سب جھیلے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور کیفیت یہ ہو جائے گی کہ کسی لعن طعن کرنے والے کی ہرزہ سرائی پر بھی نفس میں کچھ حرکت نہ پیدا ہوگی۔ اور جب غصہ نہیں آئے گا بغض کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔

## اگر غصہ آجائے تو کیا کریں؟

لیکن غصہ ایک طبعی چیز بھی ہے۔ لہذا اگر غصہ کسی بات پر آتی جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کے تقاضے پر عمل کرنے کے بجائے پہلی فرصت میں اسے دفع کرنے کی کوشش کریں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کا غصہ جلدی جاتا رہا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْغَضَبَ حُمْرَةٌ تَتَوَقَّدُ فِي حَوْفِ ابْنِ آدَمَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى حُمْرَةِ عَيْنِيهِ  
وَأَنْتِفَاحِ أَوْ دَاجِهِ فَإِذَا وَحَدٌ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَبَقًا فَلْيَلْزَمِي بِالْأَرْضِ، أَلَا إِنَّ  
خَيْرَ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ بَطِيئًا فِي الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ وَشَرَّ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ بَطِيئًا  
فِي الْفَيْءِ سَرِيعَ الْغَضَبِ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ فَإِنَّهَا بِهَا وَإِذَا  
كَانَ بَطِيئًا فِي الْغَضَبِ بَطِيئًا فِي الْفَيْءِ فَإِنَّهَا بِهَا۔ الخ۔ (رواه البيهقي في شعب الایمان ۳۰۱/۶)

غصہ ایک انگارہ ہے جو آدمی کے اندر دھکتا ہے کیا تم (غصہ کرنے والے کی) آنکھ کی سرخی اور اس کی رگوں کا پھولنا نہیں دیکھتے۔ لہذا تم میں سے جب کوئی غصہ محسوس کرے تو زمین سے چٹ جائے۔ اچھی طرح یاد رکھو! سب سے اچھا آدمی وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے اور جلدی اتر جائے اور سب سے بدتر آدمی وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے اور دیر سے اترے۔ اور اگر ایسا آدمی ہو جسے غصہ جلدی آکر جلدی اتر جائے تو اس کا معاملہ برابر برابر ہے اور اگر دیر سے آکر دیر میں جائے تو بھی برابر برابر ہے۔ الخ۔

نیز دیگر احادیث میں غصہ کے دفعیہ کے طریقے بتائے گئے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) اعوذ باللہ پر دھیں: ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سخت غضبناک دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ”میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔“ پھر پوچھنے پر فرمایا۔ وہ کلمہ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ہے۔ (الترغیب والترہیب ۳/۳۰۳)

(۲) وضو کریں: ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ لہذا جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے۔ (الترغیب والترہیب ۳/۳۰۳)

(۳) بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں: ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جائے۔ (الترغیب والترہیب ۳/۳۰۳)

علاوہ ازیں جب کسی شخص پر غصہ آئے تو بہتر ہے کہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے۔ بالخصوص گھر والوں سے یا بیوی سے غصہ ہو تو سامنے سے ہٹ کر کمرے میں چلا جائے، یا گھر سے باہر آ جائے، اس لیے کہ اگر وہیں کھڑا رہے گا تو بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ آج کل اکثر طلاق کے واقعات اسی لیے پیش آتے ہیں کہ غصہ آنے کے بعد اس کے دفعیہ کی کوشش نہیں کی جاتی، اور جب شیطان غصہ کے ذریعے لہنا کام پورا کر دیتا ہے تو

﴿ اللہ سے شکر کہنے ﴾ اور مفتیوں کے دامن میں پناہ ڈھونڈتے ہیں اور جو قابو کرنے کا موقع ہوتا ہے اسے غصہ کے جوش میں برباد کر دیتے ہیں۔ اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ۔

## سب سے بڑا پہلوان

ذاتی معاملات میں غصہ کے تقاضے پر عمل کرنے سے روک جانا بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے مقبول بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: **وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔** (اور جو غصہ کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں) اور ایک روایت میں وارد ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم سب سے بڑا پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہم اسے سب سے بڑا پہلوان سمجھتے ہیں جس کو کشتی میں کوئی بچھاڑ نہ سکے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَيْسَ بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ۔ (مسلم حریف ۲/۳۲۶)

وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ اصل طاقتور وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔

## غصہ پینے کا اجر و ثواب

ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ رُؤْسِ الْعَلَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُغَيِّرَهُ مِنْ آيٍ حُورٍ شَاءَ۔ (شعب الایمان ۶/۳۱۳)

جو شخص باوجود غصہ کے تقاضے پر عمل کرنے کی قدرت کے، غصہ کو پنی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جنت کی جس حور کو چاہے پسند کر لے۔

اور ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَا جَرَعَ عَبْدٌ جَرْعَةً أَكْبَرَ مِنْ جَرْعَةٍ غَوَّظَ كَظْمَهَا اِبْتِغَاءَ



وَجِهَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ - (صحب الامان ۱/۳۱۶)

اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ حکمت و صلاح کونٹہ وہ  
فصرہ کا کونٹہ ہے جسے محض رضا خداوندی کی نیت سے انسان پی جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ فصرہ کو پی جانا اور طالب کو معاف کر دینا اہل صحیح کمال ہے۔  
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اچھائی پسندیدہ اعمال  
میں سے تین اعمال ہیں (۱) قدرت کے باوجود معاف کر دینا (۲) تیزی اور شدت کے  
وقت فصرہ کو قابو میں رکھنا۔ (۳) اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔

(صحب الامان ۱/۳۱۶)

## حضرت زین العابدینؑ کا واقعہ

خالوادۂ نبوت کے چشم و چراغ حضرت زین العابدین علی بن احسن رحمہ اللہ کو  
ایک مرتبہ ان کی بائعی دھوکہ کرا رہی تھی۔ اتفاق سے اس کے ہاتھ سے لونا چھوٹ کر اس طرح  
گرا کہ حضرت کے چہرہ پر کچھ خم لگ گیا۔ ابھی آپ نے سر اٹھا کر لوہہ دکھایا تھا کہ بائعی  
بولی بولک اظہمین الغیظ، حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنا فصرہ پی لیا۔ پھر اس بائعی نے  
آیت کا اگلا کھلا پڑھا اذ حلو العافین عن الناس، تو حضرت نے فرمایا کہ جا تجھے میں نے معاف  
کر دیا اور اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف فرمائے پھر بائعی نے آیت کا آخری حصہ پڑھا اذ  
یحب الموحسین، یہ سن کر حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا تو آزاد ہے۔

(صحب الامان ۱/۳۱۶)

اس واقعہ کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے خدام کے ساتھ طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔  
آج صورت حال یہ ہے کہ کسی خادم یا ملازم سے بلا ارادہ بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو نہ  
صرف یہ کہ اس کو بروقت سخت سزا سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بلکہ مدت دراز تک اسے بات  
بات پر طعنے بھی سننے پڑتے ہیں۔ یہ چیز انسانیت اور مروت کے خلاف ہے۔ ایمان کا تقاضا

﴿ اللہ سے شرم کھینچنے ﴾  
یہ ہے کہ ایسے مواقع پر جذبہ انتقام کے بجائے غم و درگزر سے کام لینا چاہیے، اور دنیا کے نقصان پر آخرت کے ثواب کا امیدوار رہنا چاہیے۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کا متحسی ہو کہ آخرت میں اس کے لیے بلند و بالا محل بنایا جائے اور اس کے درجات اونچے کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دے اور اپنے محروم کرنے والے کو عطا کرے اور تعلق توڑنے والے سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔ (تیسرے ایسے ۲۶۶/۱۳۲)

حضرت سری سعلیؒ فرماتے ہیں کہ تین خصلتیں جس شخص میں پائی جائیں گی وہ اپنے کو مکمل کرنے والا ہوگا۔ (۱) وہ شخص کہ جب اسے غصہ آئے تو اس کا غصہ اسے دائرہ حق سے نہ نکالے۔ (۲) جب وہ کسی سے راضی ہو تو یہ رضامندی ناحق کی طرف نہ لے جائے۔ (۳) جب اسے اپنا حق وصول کرنے پر قدرت ملے تو اپنے حق سے زیادہ وصول کرنے سے باز رہے۔ (غیب ۱۱/۶)

بہر حال قرآن کریم اور احادیث طیبہ کی ہدایات کے بموجب اپنے ذاتی معاملات میں حتی الامکان غصہ کے قحاضے پر عمل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے خلاف کرنے سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ بالخصوص میاں بیوی کے تنازعات میں طلاق تک کی توجیہ آجاتی ہے اور پھر بعد میں حسرت و افسوس کچھ کام نہیں دیتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ شروع ہی میں سمجھ داری سے کام لیا جائے۔

## غصہ کہاں پسندیدہ ہے

ذکورہ بالا تفصیلات سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ غصہ کہیں بھی مشروع اور پسندیدہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ وضاحت پیش نظر رکھنی ضروری ہے کہ غصہ ضبط کرنے کا حکم وہیں ہے جہاں معاملہ محض اپنی ذات تک محدود ہو۔ اس کے برخلاف کسی دینی یا شرعی معاملہ میں یا عام مسلمانوں کے نقصان کے مجالے میں غصہ کا اظہار عین تقاضائے ایمان ہے۔ جب

﴿ اللہ سے شرم نہ گھسنے ﴾ ﴿ ۱۰۵ ﴾

شریعت کے کسی حکم کو پامال کیا جائے، سنت کی بے حرمتی کی جائے۔ اسلام کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا جائے یا مسلمانوں کے شعائر اور ان کے مفادات پر ضرب لگائی جائے تو ایسے مواقع پر غصہ نہ آنا اور مرعوبیت اختیار کرتے ہوئے مصلحت کوشی سے کام لینا ایمانی تقاضے کے خلاف ہے۔ اس وقت غصہ آنا ہی باعثِ اجر و ثواب اور قابلِ تعریف ہے۔ کیونکہ یہ غصہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ بلکہ ایمان کی محبت میں آ رہا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل و اخلاقِ مقدسہ کے متعلق حضرت ہندائین ابی ہالد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صفت بیان کی گئی ہے کہ:

وَلَا يُقَامُ لِنَفْسِهِ إِذَا تَعَرَّضَ لِلْحَقِّ بِشَيْءٍ سَخِيٍّ يَتَّصِرُ لَهُ وَلَا يَغْضَبُ

لِنَفْسِهِ وَلَا يَتَّصِرُ لَهَا۔ (مسائل الرسول، ماہنامہ کلبر، ۵۹)

اور جب کسی امر حق کی کوئی مخالفت ہوتی تو اس وقت آپ کے غصہ کی کوئی تاب نہ لاسکتا تھا تا آنکہ آپ حق کو غالب نہ فرمادیتے اور آپ اپنی ذات کے لیے نہ تو غصہ ہوتے اور نہ انتقام لیتے تھے۔

چنانچہ ذخیرہٴ احادیث میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں کہ آپ نے حکمِ شریعت کی خلاف ورزی یا دینی معاملہ میں لاپرواہی پر سخت غصہ کا اظہار فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زیدؓ نے ایک کلمہ گو کو منافق سمجھ کر قتل کر دیا تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو انہماکی ناراضگی ظاہر فرمائی۔ اور آپ بار بار فرماتے رہے: اَفَلَا شَقَقْتُ عَنْ قَلْبِهِ (کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا) حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خفا ہوئے کہ میں تمنا کرنے لگا کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا۔ اور آج ہی اسلام لاتا (تاکہ یہ گناہ اسلام لانے سے معاف ہو جاتا) (مسلم شریف، ۷۸)

اسی طرح ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے اپنے محلہ میں عشا کی کھانا ضرورت سے زیادہ لمبی پڑھا دی تھی۔ جس سے بعض مقتدیوں کو بجا طور پر اشکال ہوا تو آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر حضرت معاذ کو سخت حیرت فرمائی۔

افترض جب کوئی دینی کتابی کام سنا منے آتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ اور ناکامی کا اظہار فرماتے تھے۔ لہذا ایسے مواقع پر غصہ اور سختی کرنا ممنوع ہے جس پر حضرات صحابہؓ مٹی سے پوری زندگی قائم رہے۔ حضرات صحابہؓ کی زندگی میں ”غضب فی اللہ“ کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ صحابہؓ ہر طرح کا نقصان برداشت کر سکتے تھے مگر دینی نقصان کو دیکھ کر خاموش رہنا ان کی فطرت کے خلاف تھا۔ ان کا ہر فرد ”اَبْنَفْسُ السَّيِّئَةِ وَتَقَا حَتَّى“ (کیا دین برباد ہو اور میں زندہ رہوں) کے نعرہ کا عملی نمونہ تھا۔ جب مسائل دین کا ہوتا تو پھر رشتہ داری یا تعلق کو بالائے طاق رکھ کر وہ صرف دینی تقاضوں کو پورا فرماتے اور صلوات کا شائبہ بھی پاس نہ آنے دیتے تھے۔

## دینی ضرورت سے ترک تعلق بھی جائز ہے

مکرات پر نگر کرنے میں یہاں تک حکم ہے کہ اگر جملائے معصیت سے ترک تعلق اور بائیکاٹ کرنے میں کسی دینی نفع (یعنی خود اس کی ہدایت یا دوسروں کے لیے عبرت و نصیحت) کی امید ہو تو اس سے مقابلہ اور ترک تعلق کی بھی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان تین غلص صحابہؓ کا ۵۰ دن تک مقابلہ (سوشل بائیکاٹ) کیا گیا جو غزوہ تبوک میں بلا کسی دینی عذر کے شریک نہیں ہوئے تھے جن کے نام کعب بن مالکؓ، ہریرہ بن الرقیعؓ اور ہلال بن امیہؓ ہیں۔ ان حضرات کے بائیکاٹ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جس میں ان گنت نصیحتیں اور عبرتیں موجود ہیں۔ امام نوویؒ نے شرح مسلم شریف میں اس واقعہ سے ۳۷ نوایا ذکر صحیح فرمائے ہیں۔

(مسلم شریف ج ۱ ص ۱۷۷/۱۷۸)

لہذا اگر کوئی ایسی صورت سامنے آئے کہ بائیکاٹ، کیے بغیر چارہ نہ رہے اور اس کا بائیکاٹ سے کوئی دوسرا برا اقدار کھڑا نہ ہو تو اس کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ مگر اس قدر نگر دور میں یہ اقدام کرنے سے پہلے ہر پہلو پر اچھی طرح غور و فکر کی ضرورت ہوگی۔

﴿ اللہ سے شرم رکھنے ﴾ ﴿ ۲۰۷ ﴾

ایسا نہ ہو کہ اپنی ذاتی خواہش کی تکمیل کیلئے شریعت کو آڑ بنا کر ترک تعلق کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ اگر ترک تعلق نفسانیت کی بنیاد پر ہوگا تو وہ شرعاً ہرگز درست نہیں ہے۔ اس سے احتراز لازم ہے۔

## دل کو صاف رکھنے کا مجرب عمل

گزشتہ صفحات میں بتایا جا چکا ہے کہ دل کو کینہ پکٹ سے پاک رکھنا اللہ تعالیٰ سے شرم و خیا کا ایک اہم تقاضا ہے۔ اب سوال ہے کہ دوسروں کی طرف سے مستقل دل صاف کیسے رکھا جائے اس لیے کہ جب کچھ لوگ ساتھ رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات خلاف طبع پیش آتی جاتی ہے، جو بڑا اوقات بڑھتے بڑھتے بغض تک پہنچ جاتی ہے، تو اس خطرہ سے بچاؤ کے لیے دو چیزیں انتہائی نفع بخش اور موثر ہیں۔ (۱) عذر تلاش کرنا (۲) نظر انداز کرنا۔

## عذر تلاش کرنا

پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کی طرف سے کوئی خلاف طبع قول و فعل کا علم ہو تو حتی الامکان اس شخص کی طرف سے کوئی عذر تلاش کیا جائے کہ عہد بناوہ شخص کسی مصلحت کی وجہ سے اس عمل کا مرتکب ہوا ہوگا۔ اس کے فعل کو اچھے محل پر رکھنے کی وجہ سے انشاء اللہ اس کی طرف سے دل میں بعد پیدا نہ ہوگا۔ امام محمد سیرینؒ اور ابو قلابہؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا:

إِذَا بَلَغَكَ عَنْ أَيْعِيكَ شَيْءٌ نَحَدُّ عَلَيْهِ فِيهِ فَاطْلُبْ لَهُ الْعُذْرَ بِحُجَّتِكَ فَإِنَّ

أَعْيَاكَ فَقُلْ لَعَلَّ عِنْدَهُ أَمْرًا يُلْفُهُ عَلَيْهِ عَلِيمِي۔ (حسب الامان ۶/۳۲۱)

جب تمہیں اپنے کسی بھائی کی طرف سے کوئی ناگواری کی بات معلوم ہو تو حتی الامکان اس کی طرف سے عذر تلاش کرو۔ اگر کوئی عذر نہ ملے تو یہ کہہ دو کہ شاید اس کے پاس کوئی مصلحت ہوگی جس کا مجھے علم نہ ہوگا۔

مثلاً آج کل اخبارات میں علماء اور قائدین کے بارے میں رنگ آمیزی کے ساتھ رسوا کن رپورٹیں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ ان تحریرات کو پڑھ کر اولاً تو یقین نہیں کرنا

چاہیے اور تائید ان کے اعمال و اقوال کو بہتر معانی پر محمول کرنا چاہیے۔ تاکہ ان کا بغض دل میں نہ جم جائے جو انجہائی نقصان کا باعث ہے۔

## غلطی کو نظر انداز کرنا

دل کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کی ٹوہ میں نہ رہے۔ بلکہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھے۔ حضرات ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

مَنْ يَبِيعُ نَفْسَهُ كُفْلَ مَا يَرَى فِي النَّاسِ يَطُولُ حُزْنُهُ وَ لَمْ يَشْفِ غَيْظُهُ۔ (شعب الایمان ۳۳۱/۶)

جو شخص لوگوں میں دکھائی پڑنے والی ہر بات کی ٹوہ اور جتو میں رہتا ہے تو اس کا غم طویل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا غصہ شہدا نہیں پڑتا۔

یعنی اول یہ کہ دوسروں کے عیوب پر مطلع ہونے کی کوشش نہ کرے اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو اس کی تحقیق و تفتیش میں نہ پڑے اور حتی الامکان اسے نظر انداز کرے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو خواہ مخواہ خود ایک غم میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ دنیا میں عافیت سے وہی لوگ رہتے ہیں جو دوسروں کے عیوب سے چشم پوشی رکھتے ہیں اور تغافل برتتے ہیں۔ حضرت امام شافعی کا ارشاد ہے

الْكَيْسُ الْعَاقِلُ هُوَ الْعَاطِلُ الْمُتَغَابِلُ۔ (شعب الایمان ۳۳۱/۶)

سمجھ دار عقل مند وہ شخص ہے جو دین ہو اور لوگوں کے عیوب سے غفلت برتنے والا ہو۔

محمد بن عبداللہ خزاعی فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان بن ابی زائدہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عافیت کے دس اجزاء ہیں جن میں سے نو اجزاء تغافل (نظر انداز کرنے) میں پائے جاتے ہیں۔ محمد کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن ابی زائدہ کا یہ مقولہ جب امام احمد بن حنبل کو جا کر سنایا تو آپ نے فرمایا کہ عافیت کے دس اجزاء ہیں۔ اور یہ دس اجزاء تغافل میں پائے جاتے ہیں۔ (شعب الایمان ۳۳۰/۶)

واقعہ بھی یہی ہے کہ یہ ”تغافل“ عافیت کی بنیاد ہے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص عیوب سے پاک نہیں ہے۔ اگر ہر آدمی عیب اچھالنے میں لگ جائے تو کوئی آدمی بے عیب

﴿ اللہ سے شہوم کھینچنے ﴾ ﴿ ۲۰۹ ﴾

نہیں رہ سکتا حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا دوست چاہے جو بالکل بے عیب ہو تو اسے زندگی دوست کے بغیر ہی گزارنی پڑے گی۔ (اس لیے کہ بے عیب دوست کہیں دستیاب ہی نہ ہوگا) (عقب الامین ۶/۳۳۰)

## مخاطب کی عزت نفس کا خیال

اس طرح گفتگو کرنے کے دوران ایسا انداز اختیار نہ کرنا چاہیے جس سے مخاطب کی عزت پر ضرب آئے یا اسے ناکامی ہو اس سلسلہ کی بے احتیالی بھی دل میں ٹکنے اور نفرت کا باعث بنتی ہے۔ ہر آدمی غماوہ کتنا ہی کم تر ہو اپنی ایک عزت رکھتا ہے اس سے تحقیر آمیز یا تہذیب سے گری ہوئی گفتگو کرنا خواہی تو جین کے مرادف ہے جو بات بھی کہی جائے اس کے لیے اچھی تعبیر اختیار کی جائے اور بحث کے دوران کسی اپنی بات پر نفاذ کی جائے۔ جو شخص اس کا خیال نہیں رکھتا وہ خود کو کسی بڑے شخص ہونے کی نظروں میں ڈال لیا ہوا ہے اور لوگ اس سے بحث کرنے سے گھرانے لگتے ہیں۔ حضرت ہلال بن سعد فرماتے ہیں:

إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا لَسُو حَامًا مُتَمَارِبًا مُتَعَبِّبًا بِرَأْيِهِ فَقَدْ فَتِنْتَ عَسَاوَتَهُ۔ (عقب

الامین ۶/۳۳۱)

جب تم کسی آدمی کو سچ کرنے والا، جھگڑالو اور اپنی رائے کو اچھا سمجھنے والا دیکھو تو (بجھو) کہ اس کا شمار اپنی اچھا کوئی چکا ہے۔

اس لیے اجتماعی زندگی میں اس پہلو کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے کہ معاملات میں دوسروں کی عزت پر کوئی حرف نہ آنے پائے اپنی رائے دوسروں پر تھوپنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بات مشورہ کے اعلا میں پیش کر دی جائے اگر سب کو قبول ہوتو فیہا، ورنہ نامقبول ہونے سے رنج نہ ہو اور نہ ہی بعد میں یہ تہمیرہ کیا جائے کہ اگر میری رائے مان لی جاتی تو یہ فائدہ ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں اجتماعی زندگی میں تکرار اور نفاق کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جن سے احتیاط کرنا لازم ہے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی اور دلوں کو ٹکڑے سے پاک اور صاف دکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

## چھٹی فصل

### تزکیہ کی ضرورت

دل کو ہر طرح کی اخلاقی بیماریوں اور روحانی امراض سے پاک رکھنے کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ قلب کو اتنا صاف سترا کر دیا جائے کہ وہ اخلاقِ مستینہ سے خود بخود نفرت کرنے لگے اور اخلاقِ فاضلہ کا شوقین بن جائے۔ جب آدمی کا قلب حُرکی اور مٹھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے رضاءِ خداوندی کا راستہ سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر قرآن کریم میں جنابِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتاتے ہوئے بطورِ خاص و يُؤْتِيهِمْ (اور وہ ان کی صفائی کرتا ہے) کو ذکر کیا گیا، اور جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں حضراتِ صحابہؓ پر پوری توجہ رکھی۔ تا آنکہ آپ کی صحبت اور شاندار تربیت کے بدولت وہ صحابہ امت کے تمام بعد میں آنے والے اولیاء و مشائخ اور علماء سے افضل قرار پائے اور ان کو زبانِ نبوت سے ”نجومِ ہدایت“ کا لقب عطا ہوا۔ تزکیہ کے بعد ان کی صفات عالیہ کیا تھیں؟ ان کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

مَنْ كَانَ مُسْتَنًا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ  
 الْفِتْنَةُ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبْرَهًا  
 قُلُوبًا وَأَعَمَّقَهَا عِلْمًا وَأَقْلَبَهَا تَكْلُفًا، اخْتَارَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلَا قَامَةَ دِينِهِ،  
 فَاعْرِضُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَى أَرْهَمِ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَحْلَاقِهِمْ  
 وَسِيرَتِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَعْلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ۔ (مشکوٰۃ شریف ۱/۳۲، مظاہر حق ۱/۹۳)

جسے پیروی کرنی ہے وہ مرحومین کی پیروی کرے اس لیے کہ زندہ لوگ فتنہ سے محفوظ نہیں ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اسی امت میں سب سے افضل تھے، جن کے دل سب سے زیادہ نیک تھے جو ظلم کے اعتبار سے سب سے گہرے اور



ایمینان کی دولت نصیب ہوگی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

(الرعد آیت: ۲۸)

جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے ایمان پاتے ہیں۔ ان لو

اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ آدمی مطمئن اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اسے آئندہ کی زندگی میں کوئی

خطرہ درپیش نہ ہو اور جو شخص گناہ کرنے والا ہے وہ مطمئن ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اسے

آئندہ اپنی بد عملیوں کی سزا کا خطرہ ہر لمحہ دامن گیر ہے گا۔ جو اس کی زندگی کو کند کرتا ہے

گا۔ اس سے مطمئن ہو گیا کہ زیادہ آخرت میں وہی لوگ ایمان اور عافیت میں رہ سکتے ہیں

جو بڑے خداوندی میں اپنے کو مشغول رکھیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔

## استغفار کی کثرت سے دل کی صفائی

مطلق ذکر خداوندی کے ساتھ بالخصوص استغفار کو اپنی اصلاح طیبہ میں دل کی

صفائی اور پاکیزگی کا سبب بتایا گیا ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے۔

إِنِ السُّلُوبُ صَدَأَ كَصَدِّ النَّحْلِ وَخَلَّ وَهَذَا إِلَّا مُغْفَرًا (کتاب الدعاء

للطبرانی ۵۰۶)

دلوں میں بھی تانبے کی طرح زنگ لگتا ہے جس کی صفائی کا اور یہاں استغفار ہے۔

ایک دوسری روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

إِنِّي لَأَكْفَأُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ

(کتاب الدعاء ۵۱۵، مسلم حریف ۳۳۶/۲)

میرے دل پر غبار سا آجاتا ہے چنانچہ میں ہر دن سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔

دیگر احادیث میں بھی کثرت سے استغفار کرنے کی تاکید وارد ہوئی ہے۔ اس

کے ذریعہ دل کی صفائی کی اصل وجہ یہ ہے کہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ جب آدمی استغفار

تکلفات میں کمتر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی حفاظت کیلئے منتخب فرمایا تھا بلہذا ان کی فضیلت پہچاننا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اور جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور سیرت پر مضبوطی سے قائم رہنا اور یہ سب وہ سیدھے راستے پر گامزن تھے۔

الغرض دل کو قساوت سے محفوظ کر کے صاف ستھرا کرنا اور نیکیوں کا عادی بنانا ہر مومن کی ذمہ داری ہے اس کے لیے محنت اور ہمت بلند کرنی چاہیے۔ جو شخص جتنا زیادہ تزکیہ میں آگے بڑھے گا اتنا ہی قرب خداوندی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اور رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائے گا۔

## دل کی بیماریوں کا علاج

اب سوال یہ ہے کہ دل کا تزکیہ کیسے کیا جائے اور اس کو روحانی رذائل سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے؟ اس سلسلہ میں رہنمائی فرماتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَفَاةً وَسَفَاةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا شِئْتَ أَنْتَلِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ (صحیح ابی یوسف، الامان ۱/۳۹۶، کنز العمال ۱/۲۱۲)

ہر چیز کو صاف کرنے اور مانجھنے کا آلہ ہوتا ہے اور دل کی صفائی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔

ایک دوسری روایت میں ارشاد ہے:

ذِكْرُ اللَّهِ شِفَاءُ الْقُلُوبِ۔ (کنز العمال ۱/۲۱۲)

اللہ کا ذکر دلوں (کے امراض) کے لیے شفاء ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”دلوں کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مبارک ہے۔ (صحیح الامان ۱/۳۹۶)

یعنی جتنا زیادہ ذکر خداوندی میں اپنے کو لگائیں گے اتنا ہی دل صاف ہوگا۔ خیر کی توفیق عطا کی جائے گی۔ اور دل کے امراض دور ہو گئے جس کے بناء پر دل کو سکون و

﴿ اللہ سے شہدہ کیجئے ﴾ ﴿ ۲۱۳ ﴾

کرے گا تو دعا امت اور شرمندگی کی بنا پر خود بخود دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی اور رب  
الرحمت کی بڑائی اور اپنی عاجزی کا احساس جاگزیں ہوگا۔ اور یہ احساس دل کے تزکیہ کی  
سب سے زیادہ موثر تدبیر ہے۔

## صالحین کی صحبت

دل کی صفائی کے لیے اللہ والوں کی صحبت بھی بے مثال تاثیر رکھتی ہے۔ قرآن  
کریم میں ”وَارْتَبِعُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ“ (اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ) اور ”كُونُوا مَعَ  
الصَّادِقِينَ“ (اور رہو سچوں کے ساتھ) جیسی ہدایات دے کر اس جانب رہنمائی فرمائی  
ہے کہ اعمال صالحہ کا شوق اور بری باتوں سے بے رغبتی کا ملکہ حاصل کرنے کے لیے اللہ  
تعالیٰ کے مقرب بندوں کی صحبت میں وقت لگانا اور ان کے دامن فیض سے وابستہ ہونا بھی  
انتہائی موثر اور مفید ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں احکام کی عبادت بھی اسی مقصد  
سے شروع کی گئی ہے کہ آدمی کو ایسا ماحول ملے جہاں رہ کر وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت و  
اطاعت میں وقت لگا سکے اور گناہوں کے مواقع سے محفوظ رہے۔

## شیخ کامل سے وابستگی

تجربہ یہ بتاتا ہے کہ دلوں کا تزکیہ محض کتابیں پڑھ لینے اور معلومات کے ذخائر جمع  
کر لینے سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس مقصد کی تحصیل کے لیے اصحاب معرفت اولیاء اللہ  
سے وابستگی اور ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے  
ضروری ہے کہ جس طرح آدمی جسمانی امراض کے علاج کے لیے بہترین اور قابل ڈاکٹر کو  
تلاش کر کے اپنے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے نسخہ پر عمل کر کے اور  
پرہیز کا اہتمام کر کے شفاء حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے روحانی امراض کے علاج کے  
لیے بھی ماہر روحانی طبیب تلاش کرنا چاہیے۔ دل کے چھپے ہوئے امراض کا آدمی (خواہ کتنا  
عی بڑا ہو) خود اپنا علاج نہیں کر سکتا۔ نفس کے مکائد اتنے خطرناک ہیں اور شیطان کے

فریب اتنے گہرے اور باریک ہیں کہ ان کا ادراک خود آدمی کو نہیں ہو سکتا۔ بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو آدمی عین عبادت سمجھا رہتا ہے وہی اس کے لیے ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ اور زہر ناک ہوتی ہے۔ اس طرح کے امراض کی تشخیص شیخ کامل ہی کر سکتا ہے۔

## شیخ کامل کی پہچان

اب یہ پتہ کیسے چلے کہ کون شیخ کامل ہے اور کون ناقص، تو اس سلسلہ میں مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے درج ذیل دس علامتیں بتائی ہیں، جن کو دیکھ کر شیخ کامل کو پہچانا جاسکتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں:

”شیخ کامل وہ ہے جس میں یہ علامتیں ہوں۔ (۱) بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو۔ (۲) عقائد و اعمال و اخلاق میں شرع کا پابند ہو۔ (۳) دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو، کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی شعبہ دنیا ہے۔ (۴) کسی شیخ کامل کی صحبت میں چندے رہا ہو۔ (۵) اس زمانہ کے متصف علماء و مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں۔ (۶) بہ نسبت عوام کے خواص یعنی فہیم دین دار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ (۷) جو لوگ اس کے مرید ہیں ان میں اکثر کی حالت باعتبار اتباع شرع و قلب حرص دنیا کے اچھی ہو۔ (۸) وہ شیخ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو اور ان کی کوئی بری بات سن کر یاد دیکھ کر ان کو روک ٹوک کرتا ہو، یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے۔ (۹) اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو۔ (۱۰) خود بھی وہ ذاکر و شاغل ہو کہ بدون عمل یا عزم عمل تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔“

جس شخص میں یہ علامات ہوں پھر نہ دیکھے کہ اس سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یا نہیں یا اس کو کشف بھی ہوتا ہے یا نہیں، یا یہ جو دعا کرتا وہ قبول بھی ہو جاتی ہے یا نہیں، یا یہ صاحب تصرفات ہے یا نہیں۔ کیونکہ یہ امور لوازم مشیخت یا ولایت میں سے نہیں۔“

(تقد اسبیل در املاقی نصاب ۵۱۸)

کوئی دور بافضل خداوندی مذکورہ بالا علامات سے متصف اولیاء اللہ اور اصحاب

معرفت سے خالی نہیں رہا ہے۔ الحمد للہ آج بھی ایسے اکابر موجود ہیں۔ جن سے وابستہ ہو کر ہزاروں ہزار افراد لوگوں کے تزکیہ پر محنتیں کر رہے ہیں۔

## تصوف کی محنتوں کا منتہائے مقصود

ان اولیاء اللہ کے ذریعہ مخصوص اعمال و وظائف کی جو مشق کرائی جاتی ہے اس کا منتہائے مقصود یہ ہے کہ سالکین و طالبین میں صفت احسانی کا ظہور ہو جائے۔ یعنی دلوں سے غفلت کا پردہ اٹھے اور وہ ایمانی نوراً بھر کر آئے جس کی روشنی سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ذاتِ خداوندی کا استحضار جسے ملکہِ یادداشت کہا جاتا ہے میسر آ جائے اور ”اِنَّ قَعْبُدَ اللّٰهَ كَمَا تَك تَرَاهُ لِاِنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ لِاِنَّهُ يَرَاكَ“ (مسلم شریف ۲/۱۷۱) یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کا مقام حاصل ہو جائے۔ تصوف و سلوک کی ساری محنتوں کا خلاصہ اور مقصود یہی ہے۔ بقیہ جو ذکر کے طریقے ہیں یا خاص اعداد کے ساتھ اذکار کی تعلیمات ہیں۔ وہ طریقے ان خاص صورتوں کے ساتھ مقصود بالذات نہیں ہیں اور نہ ان کو شرعی اعتبار سے وجوب یا فرضیت کا درجہ حاصل ہے۔ بلکہ حقیقت میں یہ خاص طریقے امراض روحانیہ کے علاج اور ان کو دور کرنے کی تدبیریں ہیں جنہیں شیخ کامل سالک کے حالات اور ضروریات کا جائزہ لے کر تجویز کرتا ہے۔ اب اگر کوئی انہی تدابیر کو اصل سمجھ بیٹھے اور منتہائے مقصود یعنی صفت احسانی کے حصول سے صرف نظر کر لے تو وہ یقیناً غلطی پر ہے اور تصوف و سلوک کی حقیقت سے قطعاً ناواقف ہے۔

## عارف باللہ حضرت رائے پوریؒ کا ارشاد

اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے دور کے صاحبِ معرفت اور راہِ سلوک کے رمزا شہناز بزرگ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہر وقت اس کا اور اس کی رضا کا دھیان و فکر کرنا اور اس کی طرف سے کسی وقت بھی غافل نہ ہونا، یہ کیفیتیں دین میں مطلوب ہیں اور قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بغیر ایمان اور اسلام کامل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دین کی تعلیم و تربیت کی طرح یہ ایمانی کیفیتیں بھی آپ کی محبت ہی سے حاصل ہو جاتی تھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ محبت سے صحابہ کرام میں بھی یہ تاثیر تھی لیکن بعد میں ماحول کے زیادہ بگڑ جانے اور استعدادوں کے ناقص ہو جانے کی وجہ سے اس مقصد کے لیے کاپٹین کی محبت بھی کافی نہیں رہی، تو دین کے اس شعبہ کو اماموں نے ان کیفیات کے حاصل کرنے کے لیے محبت کے ساتھ ”ذکر و فکر کی کثرت“ کا اضافہ کیا اور تجربہ سے یہ تجویز صحیح ثابت ہوئی۔ اسی طرح بعض مشائخ نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے احوال کا تجربہ کر کے ان کے نفس کو توڑنے اور شہوات کو مظلوم کرنے اور طبیعت میں لہجہ (زری) پیدا کرنے کے لیے ان کے واسطے خاص قسم کی ریاضتیں اور مجاہدے تجویز کیے۔ اسی طرح ذکر کی تاثیر بڑھانے کے لیے اور طبیعت میں رقت اور یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ضرب کا طریقہ نکالا گیا، تو ان میں سے کسی چیز کو مقصود اور مامور بہ نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ یہ سب کچھ علاج اور تدبیر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اور اسی لئے مقصد حاصل ہو جانے کے بعد یہ سب چیزیں چھڑادی جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئمہ طریق اپنے اپنے زمانہ کے حالات اور اپنے تجربہ کے مطابق ان چیزوں میں رد و بدل اور کمی بیشی بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ ایک ہی شیخ کسی کسی مختلف طالبوں کے لیے ان کے خاص حالات اور ان کی استعداد کے مطابق الگ الگ اعمال و اشغال تجویز کرتا ہے اور بعض ایسے اہل استعداد کو بھی ہوتے ہیں جنہیں اس طرح کا ذکر و شغل کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ ان کو یونہی نصیب فرمادیتا ہے۔ اس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کو صرف علاج اور تدبیر کے طور پر ضرورتاً کرایا جاتا ہے۔ (میں بڑے مسلمان ۹۹۸ مضمون مولانا ہاشم نور احمد نعمانی)

اس وضاحت سے معلوم ہو گیا کہ تصوف اور راہ سلوک کی تختیش دین سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ شریعت کی روح کو انسان کے رگ و پے میں بسانے کا نام ہی دراصل تصوف ہے اور یہی وہ تصوف ہے جس کے اولیاء اللہ امام رہے ہیں اور اس راہ سے ان کے ہاتھوں پر ہزار ہا ہزار تشنگان معرفت نے مئے عرفان و محبت سے سیرابی حاصل کی ہے۔

## تصوف کی راہ سے دینی خدمت میں جلا پیدا ہوتی ہے

تصوف دینی خدمات و معروفیات میں حامل نہیں ہوتا بلکہ ان خدمتوں کی جان اور روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہی شخص خلق خدا کو افادہ ظاہری (تعلیم و تدریس) اور افادہ باطنی (سلوک و تربیت) کا حق دار ہے جو نسبت باطنی سے آراستہ ہو۔ یہ دین ایسے ہی اصحاب نسبت خدام کے ذریعہ دنیا میں پھیلا ہے۔ محض علم سے فیض نہیں پہنچتا، جب تک کہ اس کے ساتھ نسبت کی چاشنی نہ ہو اور نسبت باطنی کی وضاحت کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

”اور علامت حصول نسبت باطنی کے دو امر ہیں۔ ایک یہ کہ ذکر اور یادداشت کا ایسا ملکہ ہو جائے کہ کسی وقت غفلت اور ذہول نہ ہو اور اس میں زیادہ تکلف نہ کرنا پڑے دوسرے یہ کہ اطاعت حق یعنی اتباع احکام شریعہ کی عبادت و محاسبہ و خلعتاً و قولاً و افعالاً اس کو ایسی رغبت اور منہیات و مخالفت سے ایسی نفرت ہو جائے جیسے مرغوبات و مکروہات طبیعت کی ہوتی ہے۔ اور حرص دنیا کی کلب سے نکل جاوے۔ کان بحلقہ القران اس کی شان بن جائے۔ البتہ کسل عارضی یا دوسرہ جس کے متقاضی پر عمل نہ ہو اس رغبت و نفرت کے منافی نہیں۔“ (تھانوی دماغی نصاب ص ۵۲۲)

ظاہر ہے کہ ایسے صاحب نسبت کی خدمت سے اور افادہ عوام و خواص سے جو نفع خلق خدا کو پہنچ سکتا ہے کہ وہ غیر نسبت والے شخص سے ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے بالخصوص مدارس کے فضلا کو چاہیے کہ وہ علوم ظاہری کی تکمیل کے ساتھ نسبت کے حصول کے لیے کسی شیخ کامل کی صحبت و متابعت سے فیض اٹھائیں۔ تاکہ جب وہ خدمت کے میدان میں قدم

رکھیں تو ان کے ذریعہ سے ہدایت کی کرنیں چار دانگ عالم میں پھوٹنے لگیں اور ان کا صاف سترا کردار اور شاندار عمل ان کے علم نافع کا مظہر بن جائے۔

## نقالوں سے ہوشیار!

یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ چلتا ہوا کام دیکھ کر بہت سے دنیا دار اور عزت و شہرت کے حریص لوگ پیرومرشد کا لبادہ اوڑھ کر تصوف کے نام پر شرک و بدعات کی دوکان چلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے تصوف کے شریعت سے الگ ہونے کا ڈھونگ رچا کر ضلالت اور گمراہی کا جال بچھا رکھا ہے۔ اس طرح کی دوکانیں حزارات پر سجادہ نشینوں کے ذریعہ خوب چل رہی ہیں۔ اور پھل پھول رہی ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو تصوف شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتا ہو وہ تصوف نہیں ہے۔ شیطانیت ہے، اس لیے ایسے جعلی پیروں کی جعل سازیوں سے جہاں اپنے کو بچانا ضروری ہے وہیں ان جعل سازوں کو دیکھ کر اصلی اور سچے اہل تصوف سے دل میں بدگمانی نہ قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ بعض افراد کی غلط کاریوں کی بناء پر پورے کام کو غلط قرار دینا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔

بہر حال گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دلوں کے تزکیہ کے لیے معتبر اولیاء اللہ کے دامن سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لیے اطاعت و عبادت کی راہ آسان ہو، ہمیں اللہ کی رضا میسر آئے۔ اور ہم صحیح معنوں میں اپنے خدا سے شرم و حیا کرنے والے بن جائیں۔

وما ذلک علی اللہ بعزیز۔





## باب چہارم

# موت کی یاد

- ☆ تذکیر موت
- ☆ موت کی حقیقت
- ☆ اللہ انجام بخیر کرے
- ☆ حسن خاتمہ
- ☆ نزع کا عالم



## و ليدكر الموت والبلى

زیر بحث حدیث ( اِمْتَحِنُوْا مِنْ اللّٰهِ الْمَخ ) میں اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا حق ادا کرنے کی تیسری اہم ترین علامت یہ بیان فرمائی گئی کہ آدمی اپنی موت اور اس کے بعد پیش آنے والے برزخی و اخروی حالات و آثار اور مناظر کا ہر وقت احتضار رکھے۔ واقعہ یہ ہے کہ موت کے احتضار سے عبادت کی طرف رغبت، گناہوں سے ہر ممکن اجتناب کا جذبہ اور دنیا کی زندگی سے بے رغبتی جیسی اعلیٰ صفات وجود میں آتی ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی کے لیے ممکن نہیں۔ دنیا میں ہر نظریہ کے متعلق اختلاف موجود ہے حتیٰ کہ خدا اور رسول اور نظام کائنات کے بارے میں مختلف مذاہب کی الگ الگ رائیں پائی جاتی ہیں۔ مگر موت وہ اہل حقیقت ہے جس کے متعلق دنیا میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ہر شخص یہ جانتا اور مانتا ہے کہ ایک دن اس کی دنیوی زندگی کا تسلسلہ عیناً ختم ہو کر رخصت اور جب اس کا وقت آئے گا، تو دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسی اسباب و وسائل موت کے منہ سے دھچکا سکیں گے۔ قرآن کریم میں گئی جگہ ارشاد فرمایا گیا:

لَا تَسْمَعُ لَهَٰٓئِٰلِهِمْ وَلَا يَسْتَكْبِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْبِلُوْنَہَا (الاحزاب آیت: ۴۳، ۴۴)

جو جس وقت اللہ کی جیسا جیسا چاہے گا، اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اِيْدُرِكُھُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِیْ رُوحٍ مُّشْبَدَةٍ۔

(سورۃ النساء آیت: ۷۸)

تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں ہی موت تم کو آدباوے گی اگرچہ تم قلعی چوڑے (بمخاض) کے قلعہ ہی میں ہو۔

لیکن اس کے بالمقابل یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقینی ہے، اتنی ہی لوگوں میں اس سے غفلت اور عدم توجہی پائی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ مجلسوں میں موت کا

﴿ اللہ سے شکر ادا کرنے ﴾ ﴿ ۳۳۱ ﴾

ذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے، بالخصوص خوشی کی تقریبات میں اگر بالتصد موت کا تذکرہ کر دیا جائے تو ناک بھوس چڑھ جاتی ہیں، گویا کسی آن ہونی بات کو بھیڑ دیا گیا ہو۔ یہ غفلت، ایمانی تقاضے کے بالکل برخلاف ہے۔ مومن کو تو کثرت سے موت کو یاد رکھنا چاہیے اور حتی الامکان آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت تگ و منہمک رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں موت، حشر، نثر اور جنت و جہنم کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی بہشت کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کے "اصلی اور دائمی وطن" سے آگاہ کر کے وہاں کی دائمی نعمتوں کا اسے مستحق بنا دیا جائے۔



## پہلی فصل

### موت کی یاد کا حکم

اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کثرت سے موت کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا ہے۔

(۱) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَكْبَرُوا ذِكْرَهَا ذِمَّ السَّلْمَاتِ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ وَلَا فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ۔ (رواه البزار، شرح الصدر للسيوطي ۴)

لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس لیے کہ جو بھی اسے تنگی کے زمانہ میں یاد کرے گا تو اس پر وسعت ہوگی (یعنی اس کو طبعی سکون حاصل ہوگا کہ موت کی سختی کے مقابلہ میں ہر سختی آسان ہے) اور اگر عافیت اور خوشحالی میں موت کو یاد کرے گا تو یہ اس پر تنگی کا باعث ہوگا۔ (یعنی موت کی یاد کی وجہ سے وہ خوشی کے زمانہ میں آخرت سے غافل ہو کر گناہوں کے ارتکاب سے بچا رہے گا)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موت کی یاد ہر حال میں نفع بخش ہے۔ مصیبت کے وقت اس کو یاد کرنے سے ہر مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ ”یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں۔ انا لله وانا اليه راجعون۔“ یعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح جب خوشحالی اور عافیت کے وقت موت کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی بہت سے ان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جن کا داعیہ عموماً خوشحالی کے زمانہ میں قوت کے ساتھ ابھرتا ہے۔ اسی لیے حدیث بالا میں موت کو لذت توڑنے والی چیز قرار دیا گیا ہے۔

## ﴿ اللہ سے شرم کیجئے ﴾

(۲) حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے

پوچھا گیا کہ ایمان والوں میں کون سا شخص سب سے زیادہ عقلمند ہے۔ آپ نے فرمایا:

أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتَعْدَادًا أَوْ لِقَاءً

الْأَكْبَاسِ۔ (رواہ ابن ماجہ ۳۲۴ شرح الصدور ۴۳)

ان میں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد کے لیے جو

سب سے عمدہ تیاری کرنے والا ہو، ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ عقلمند ہیں۔

(۳) حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ

هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ۔ (رواہ العرمذی ۷۲/۲)

عقلمند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل

کے جب کہ عاجز اور در ماندہ آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہش کے تابع بنا لے اور

پھر اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے۔

آج کل عقلمند سے سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے اور کاروبار کرنے میں سبقت لے

جائے خواہ اس کے پاس آخرت کے لیے کوئی بھی عمل نہ ہو۔ اور جو شخص اپنی زندگی آخرت کی

تیاری میں لگائے، مال کے حصول میں حلال و حرام کی تمیز رکھے اور ہر مرحلے پر شریعت کو ملحوظ

رکھے تو لوگ اسے بھارہ اور عاجز قرار دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو طرح طرح کے طعنے سننے

پڑتے ہیں لیکن مذکورہ احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلمندی کا جو معیار

بتلایا ہے وہ لوگوں کے نظریہ سے بالکل الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں

قابل تعریف شخص وہی ہے جو موت کو یاد کرنے والا اور اس کے لیے تیاری کرنے والا ہو۔

چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص کی تعریف

بیان کی گئی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ موت کو یاد کرنے میں اس کا حال کیا ہے؟ لوگوں

نے عرض کیا کہ ہم نے اس سے موت کا زیادہ ذکر نہیں سنا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ وہ اپنی

﴿ اللہ سے شکر کا عملیہ ﴾ ﴿ ۲۲۳ ﴾

خواہشات کو چھوڑتا ہے یا نہیں؟ اس پر لوگوں نے عرض کیا کہ وہ دنیا سے حسب خواہشات فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اس تعریف کا مستحق نہیں ہے جو تم اس کے متعلق کر رہے ہو۔ (ص ۲۱۷، اربعہ ایام المبارک ص ۹۰)

بہر حال دانشمند، دوراندیش اور عملدروہی شخص ہے جو ہمیشہ دائمی زندگی کو بہتر بنانے

کے لیے کوشاں رہے اور اس چند روزہ زندگی میں پڑ کر ہمیشہ کے عذاب کو محسوس نہ لے۔

(۴) حضرت وحسن ابن عطاء فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں موت سے غفلت کا احساس فرماتے تو آپ جبراً مبارک کے دروازے پر کھڑے ہو کر تین مرتبہ پکا اور ج ذیل کلمات ارشاد فرماتے تھے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ! اتَّقُوا الْمَوْتَ رَاتِبَةً لَازِمَةً حَتَّى حَتَاةِ الْمَوْتِ بِمَا حَتَاةٍ بِهِ، حَتَاةٌ بِالنَّفْسِ وَالسَّرَاةِ وَالْمَكْرَةِ الْمُتَبَارِكَةِ لِأَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْعُلُوِّ الَّذِينَ كَانُوا سَبِيحَتِكُمْ وَرَغَبَتِكُمْ لَهَا. إِلَّا إِنْ لِكُلِّ سَاعٍ حَتَاةٌ وَحَتَاةٌ كُنْتُمْ سَاعِ الْمَوْتِ سَابِقٍ وَمَبْتُورٍ. (رواه الشيخان شرح المصنوع ص ۳۴)

اے لوگو! اے اہل اسلام! تمہارے پاس ضرور بالضرور مقررہ وقت میں موت آنے والی ہے، موت اپنے ساتھ ان چیزوں کو لائے گی جن کو وہ لاتی ہے وہ رحمن کے مقرب بندوں کے لیے جو جنتی ہیں اور جنہوں نے اس کے لیے کوشش اور اس کی رغبت کی ہے عافیت، راحت اور بہت سی مبارک نعمتیں لے کر آئے گی۔ خبردار ہوجاؤ اور رحمت کرنے والے کی ایک انتہا ہے اور وہ انتہا موت ہے۔ پہلے آئے یا بعد میں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن کے لیے موت کو یاد کرنا کوئی خلاف طبع بات نہیں ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کے اعمال صالحہ کی بدولت اسے آخرت میں بہترین دائمی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ موت سے تو وہ پہلا تہی کرے جسے آخرت میں اپنی تہی دائمی کا یقین ہو۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب اپنے کو اللہ کا مقرب اور جنت کا اولین مستحق قرار دیتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کے دھڑکی کی تردید کرتے

ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تمہیں جلد سے جلد موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ تاکہ تم اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچ کر نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن اہل کتاب نے نہ کبھی تمنا کی، نہ کریں گے۔ اور ہمیشہ موت سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے جو اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں آخرت میں اپنی عمروی کا پورا یقین ہے۔ سچے مومن کی شان ان کے بالکل برخلاف ہے۔ اس لیے تو موت کا ذکر وصل محبوب کی لذت حطا کرتا ہے۔

چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ نے ایک مرتبہ صحابہؓ سے ارشاد فرمایا کہ ”کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے سب سے پہلے کیا بات کرے گا اور تم اس کو کیا جواب دو گے؟ ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ ضرور بتلائیے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے فرمائے گا کہ کیا تمہیں مجھ سے ملاقات پسند تھی، مومنین عرض کریں گے کہ ہاں ہمارے رب! تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیوں؟ تو اہل ایمان عرض کریں گے ہمیں آپ کی مغفرت اور معافی کی امید تھی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہوگی۔

(کتاب البر، ۹۳)

## موت کے متعلق اصحابِ معرفت کے اقوال و احوال

- ☆ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت نصیحت کا اچھائی مؤثر ذریعہ ہے لیکن اس سے غفلت بھی بہت زیادہ ہے۔ موت دماغ کے لیے کافی ہے اور زمانہ لوگوں میں جدائی پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج جو لوگ گھروں میں ہیں وہ کل قبروں میں ہوں گے۔
- ☆ رجاہ بن حیوۃ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس کے دل سے حسد اور اتر اہٹ نکل جائے گی۔ یعنی نہ تو وہ کسی دنیوی نعمت کی بناء پر بڑی الجھن میں مبتلا ہوگا اور نہ ہی فرح و مسرت میں مست ہو کر معاصی کا ارتکاب کرے گا۔
- ☆ عون بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں موت کی یاد جم جاتی ہے وہ

اگلے دن تک بھی اپنی زندگی کے رہنے کا یقین نہیں رکھتا۔ کیونکہ کتنے ایسے دن تک پہنچنے والے ہیں کہ وہ موت کی وجہ سے دن بھی پورا نہیں کر پاتے اور کتنے لوگ کل کی امید رکھنے والے ہیں مگر کل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اگر تم موت اور اس کی آمد کو دیکھ لو تو آرزو اور اس کے دھوکے کو ناپسند کرو گے۔ اور آپ ہی سے مروی ہے کہ فرماتے تھے کہ آدمی جس عمل کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتا ہے (یعنی گناہ اور معصیت) اسے فوراً چھوڑ دے پھر کوئی مشکل نہیں جب چاہے مر جائے۔

☆ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں تھے کہ موت کی یاد جس کے دل میں جگہ بنا لے تو وہ اپنے قبضہ کے مال کو ہمیشہ زیادہ ہی سمجھے گا۔ (یعنی مزید مال بڑھانے کی فکر نہ کرے گا)

☆ حضرت مجبؓ فرماتے ہیں کہ موت کی یاد ایک طرح کی مالداری ہے۔

☆ کعب احبارؓ سے مروی ہے کہ جو شخص موت کو پہچان لے اس کے لیے دنیا کی تمام مصیبتیں اور رنج و غم ہلکے ہو جائیں گے۔

☆ ایک دانشمند کا قول ہے کہ دلوں میں عمل کی زندگی پیدا کرنے کے لیے موت کی یاد سب سے زیادہ موثر ہے۔

☆ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔

☆ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرماتے تھے کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خیر ملے گی۔ (شرح الصدور ۳۷-۳۸)

☆ صالحین میں سے ایک شخص روزانہ شہر کی دیوار پر کھڑے ہو کر رات میں یہ آواز لگاتا تھا "چلو قافلے کے چلنے کا وقت آ گیا ہے" جب اس کا انتقال ہو گیا تو شہر کے حاکم کو یہ آواز نہیں سنائی دی۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے تو امیر نے یہ اشعار پڑھے۔

مَا زَالَ يَلْمُحُ بِالرَّجِيلِ وَذَكَرِهِ      حَتَّىٰ أَنَاخَ بِسَابِهِ الْحَمَلِ  
فَأَصَابَهُ مُتَوَقِّظًا مُتَشَمِّرًا      ذَاغِبَةً لَسْمُ نُلُوهِ الْآمَالِ



(وہ برابر کوچ کی آواز اور اس کے تذکرے سے دلچسپی لیتا رہا یہاں تک کہ خواہ اس کے دروازے پر اونٹ بان (موت کے فرشتے کی طرف اشارہ ہے) نے پڑاؤ ڈالا۔ چنانچہ اسے بیدار، مستعد اور تیار پایا۔ کھوٹی آرزوئیں اسے فائل نہ کر سکیں)

(الذکوة فی احوال الموتی الامرة۔ ۱۰)

☆ علامہ تمیمیؒ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں نے مجھ سے دنیا کی لذت چھین لی ہے۔ ایک موت کی یاد دوسرے میدانِ محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری کا استحضار۔ (الذکوة۔ ۱۰)

☆ حضرت عمر بن عبدالحزیرؓ کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت اور آخرت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے اور پھر ان احوال سے متاثر ہو کر سب ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے کہ گویا کہ ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے۔ (الذکوة۔ ۱۰)

## موت کو یاد کرنے کے بعض فوائد

علامہ سیوطیؒ لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تین باتوں کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔

۱- تعجیل التوبہ: یعنی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ کے بغیر موت نہ آجائے۔

۲- قناعة القلب: یعنی موت کو یاد رکھنے والا حرص و طمع میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اسی پر راضی رہتا ہے اور یہ قناعت اسے طبی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ تمھوڑی بہت زندگی ہے جس طرح بھی گزر جائے گزرا لیں گے۔ زیادہ کی فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔

۳- نشاط العبادۃ: یعنی موت کا استحضار رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دلجمعی اور یکسوئی کی کوشش کرتا ہے۔ اس دلجمعی کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پچھ نہیں آسکدہ اس کو عبادت کو موقع ملے کہ نہ ملے، لہذا ابھی

اسے جتنا اچھا پائیں غنیمت ہی غنیمت ہے۔ دوسرے یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اپنے عبادت پر نلنے والے عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے۔ جس کی بناء پر اسے عبادت میں وہ کیف و سرور نصیب ہوتا ہے۔ جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

## موت کو بھول جانے کے نقصانات

اس کے برخلاف جو شخص موت کو یاد نہیں رکھتا اور آخرت سے غافل رہتا ہے وہ تین طرح کی محرومی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

۱- تسویف التوبۃ: یعنی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، اور استغفار میں جلدی نہیں کرتا اور بسا اوقات اسی حالت میں اس کی موت آجاتی ہے۔

۲- ترک الرضا بالکفایف: جب موت کی یاد نہیں رہتی تو آدمی کی ہوس بڑھ جاتی ہے اور وہ ضرورت کے مطابق روزی پر راضی نہیں رہتا، بلکہ حل من مزید کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ موت سے غفلت کی بناء پر منصوبوں پر منصوبے بنائے چلا جاتا ہے جس کا انجام یہ نکلتا ہے، کہ آرزوئیں رہ جاتی ہیں اور موت آکر زندگی کا تسلسل ختم کر دیتی ہے۔

۳- التکسل فی العبادۃ: جب آدمی موت سے غافل رہتا ہے تو عبادت کرنے میں قدرتی طور پر سستی ظاہر ہوتی ہے اور نشاط کا فور ہو جاتا ہے، ماو لا تو عبادت کرتا ہی نہیں اور کرتا بھی ہے تو وہ طبیعت پر نہایت گراں گزرتی ہے یہ گراں صرف اس بناء پر ہے کہ آدمی کو یہ احساس نہیں رہتا کہ ہم سے مرنے کے بعد ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہاں رضاء خداوندی کے مطابق جواب نہ ہو تو ایسی رسوائی ہوگی جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری رسوائیاں اور بے عزتیاں بچ ہیں۔ (شرح المصدد/۳۵)

## موت کو یاد کرنے کے چند ذرائع

احادیث طیبہ میں جہاں موت کو یاد رکھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے وہیں بعض ایسے اعمال کی ترغیب بھی وارد ہے جو موت کو یاد رکھنے میں مؤثر اور معاون ہوتے ہیں، ان میں سب سے اہم عمل یہ ہے کہ گاہے بگاہے عام قبرستان جا کر قبر کی زندگی اور قبر والوں کے حالات کے متعلق غور کیا جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تَذَكِّرُ الْمَوْتَ" (مسلم حریف ۱/۳۱۲) قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ وہ موت کو یاد دلاتی ہیں۔

اور ایک روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ - إِلَّا فزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُبْرِئُ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتَذَكِّرُ الْأَجْرَةَ وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا - (رواه الحاكم شرح الصدور ۳۹)

میں تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا مگر اب سنو! تم لوگ قبروں پر جایا کرو کیونکہ وہ دلوں کو نرم کرتی ہیں، آنکھ سے آنسو جاری کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور کوئی جھش بات مت کہا کرو۔

اسی طرح کی احادیث میں قبرستان کو موجب عبرت قرار دیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں قبرستان جانے کا اصل مقصد بھی بتا دیا گیا کہ وہاں محض تفریح اور تماشہ کی غرض سے نہ جائے بلکہ اصل نیت موت کو یاد کرنے اور آخرت کے استحضار کی ہونی چاہیے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے دلوں پر غفلتوں کے ایسے گہرے پردے پڑ چکے ہیں، اور قساوت کا ایسا مہلک زنگ لگ چکا ہے کہ اب قبرستانوں کو کھیل کود اور تماشوں کی آماجگاہ بنا لیا گیا ہے، عرس کے نام سے اولیاء اللہ کی قبروں پر وہ طوفان بدتمیزی پھا ہوتا ہے کہ الامان الحفیظ اور اس پر طرہ یہ کہ ان سب کاموں کو بہت بڑے اجر و ثواب کے اعمال میں شامل کرنے کی شرمناک کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح آج جو قبرستان آبادیوں کے بیچ میں آچکے ہیں، وہ

محلے کے آوارہ گرد نو جوانوں کے لیے کھیل کے میدان بنتے جا رہے ہیں اور ان قبرستانوں میں جواریوں اور سٹ بازوں کی کمین گاہیں بھی نظر آتی ہیں، قبروں کے سامنے رہتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں سخت قساوت قلبی کی دلیل ہیں۔

## مردوں کو نہلانا اور جنازوں میں شرکت کرنا

اسی طرح موت کو یاد کرنے کے لیے دوا، ہم اور مؤثر اسباب بعض روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ مردوں کو نہلانے میں شرکت کی جائے، ۲۔ دوسرے یہ کہ نماز جنازہ میں بکثرت شریک ہو جائے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہ مجھ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

زُرِ الْقُبُورُ تَذَكُّرُ بِهَا الْأَجْرَةَ وَاغْتِسِلَ الْمَوْتَى فَإِنَّ مَعَالِمَةَ جَسَدِ نَحْوِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَصَلَّى عَلَى الْحَنَائِزِ لَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ يُحْزِنَكَ فَإِنَّ الْحَزِينَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَتَعَرَّضُ لِكُلِّ خَيْرٍ۔ (رواہ المعاکم، شرح الصلوة ۵۰)

قبروں کی زیارت کیا کروان کے ذریعہ سے تم آخرت کو یاد رکھو گے اور مردوں کو نہلایا کرو اس لیے کہ بے جان جسم میں غور و فکر بجائے خود ایک مؤثر نصیحت ہے۔ اور جنازوں پر نماز پڑھا کرو، ہو سکتا ہے اس وجہ سے تمہارا دل ممکن ہو جائے کیونکہ ممکن آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے میں رہتا ہے، اور ہر خیر کا اس سے سامنا ہوتا ہے۔

اس حدیث میں تین باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں: اوّل قبرستان جانا۔ جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ دوسرے مردوں کو نہلانا۔ یہ ایک نصیحت ہے اور موجودہ معاشرہ کے لیے انتہائی قابل توجہ ہے آجکل غیر مسلموں کے ریت رواج اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر مسلم معاشرہ میں بھی میت کی نعش سے ایک طرح کی وحشت کا اظہار کیا جانے لگا ہے، گھروالے بھی قریب جانا نہیں چاہتے، جب غسل دینے کا موقع آتا ہے تو بھی دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بعد اور دوری مرنے والے کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہے، میت کی لاش

﴿ اللہ سے شکر کہجئے ﴾ ﴿ ۲۳۱ ﴾

اسلام کی نظر میں نہایت کاملی احترام ہے، اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسائل معلوم کر کے میت کے قریبی اعزہ ہی اسے غسل دیں اور اگر پورا طریقہ معلوم نہ ہو تو کم از کم غسل کرانے والے کے ساتھ پانی وغیرہ ڈلوانے میں تعاون کرتے رہیں، مردوں کے ساتھ اس طرح کے تعلق سے اپنی موت کا منظر بھی سامنے آجائیگا اور فطری طور پر آدمی اپنے مستقبل کے بارے میں غور کرنے پر مجبور ہو جائیگا۔

حدیث بالا میں تیسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ نماز جنازہ میں کثرت سے شرکت کی جائے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ جو شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو اس کو ایک قیراط ثواب ملتا ہے جس کی کم سے کم وسعت اُحد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو شخص جنازہ کے ساتھ قبرستان تک بھی جائے اس کو دو قیراط ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ (مسلم شریف ص ۳۷۸) اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے نماز جنازہ نہ چھوڑی جائے نماز جنازہ میں چونکہ مرنے والے کے غمگین اعزہ میں شامل ہوتے ہیں ان کے غم و اندوہ کی وجہ سے پورا ماحول غمگین بن جاتا ہے، اور پھر آدمی یہ تصور لے کر جاتا ہے کہ ایک دن تمہارا جنازہ بھی ایسے ہی اٹھے گا اور لوگ اسی انداز میں رنج و الم کا اظہار کریں گے۔

ایک عربی شاعر کہتا ہے:

بِأَصَابِجِي لَا تَغْتَرِرُ بِتَنْعَمِهِمْ      فَالْعُسْرُ يَنْفَعُ وَالنَّعِيمُ يَزُولُ  
وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ حِنَاةً      فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعَثْنَا مَحْمُولُ

ترجمہ: میرے دوست دنیا کے آرام و راحت سے دھوکے میں مت پڑنا اس لئے کہ عمر ختم ہو جائے گی اور بخش جاتا رہے گا۔ اور جب تم کسی جنازہ کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔

حدیث بالا میں یہ اشارہ بھی فرمایا گیا کہ جب جنازہ کو دیکھ کر دل غمگین ہو گا تو قدرتی طور پر انابت الی اللہ کی کیفیت پیدا ہوگی۔ سابقہ گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس جاگے گا اور اس حال میں وہ شخص جو بھی تمنا کرے گا رحمت خداوندی اس کی تکمیل کے لئے تیار ہوگی۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

## دوسری فصل

### موت کی حقیقت

عام طور پر یہ خیال رائج ہے کہ موت فنا کا نام ہے۔ حالانکہ یہ بات حقیقت کی صحیح تعبیر نہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ انسان کی موت محض ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تغیر سے تعبیر ہے۔ انسان اس جسم اور اعضاء کا نام نہیں بلکہ اصل انسان وہ جان اور روح ہے جو اس جسم غصری میں حلول کر کے اعضاء و جوارح سے کام لیتی ہے۔ یہ جسم روح کے لئے سواری کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب اس سواری کا سوار یعنی روح اور جان جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو یہ سواری یعنی بدن بے کار ہو جاتا ہے۔ اور اسے اب "لاش" کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو لاشی (کچھ نہیں) کا مخفف ہے۔ دیکھئے یہاں بدن پورا موجود ہے، ہاتھ، پیر، کان، ناک وغیرہ سارے اعضاء صحیح سالم ہیں مگر جب جان نکل گئی تو کہا جاتا ہے کہ "آدی چلا گیا" اس لئے کہ روح چلی گئی اور جان اپنی جگہ سے منتقل ہو گئی۔ اگر اسی بدن کا نام انسان ہوتا تو بدن کے رہتے ہوئے کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ آدی چلا گیا اور فلاں کا انتقال ہو گیا۔

بہر حال موت کا ایک ظاہر اثر تو یہ سامنے آتا ہے کہ انسان کا بدن کامل طریقہ پر پانچ ہو جاتا ہے اور روح کی حکمرانی اور تسلط سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جبکہ روح کے اعتبار سے اس پر وہ طرح کے تغیرات مرتب ہو جاتے ہیں۔

(۱) اول یہ کہ روح سے اس کا مجوزہ بدن اور اعضاء، اسی طرح اسکے گھر والے اور رشتہ دار، اور اس کا مال و دولت سب چھین لیا جاتا ہے۔ جس سے فطری طور پر روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ جس روح کو اب دنیوی مشاغل سے جتنا زیادہ انس اور تعلق ہوتا ہے اور آخرت سے غفلت ہوتی ہے اتنا ہی اس روح کو انتقال سے اذیت کا احساس ہوتا ہے اور اگر وہ روح دنیوی اسباب کے بجائے ذکر خداوندی سے مانوس ہوتی ہے تو یہ انتقال اس کے لئے فرحت و سرور اور مسرت و بشارت کا

عنوان بن جاتا ہے۔

(۲) اس انتقال روحانی سے دوسرا تغیر یہ سامنے آتا ہے کہ اس کے لئے وہ حالات مکشّف ہو جاتے ہیں جو جسدِ عنبری کے ساتھ والی زندگی میں مکشّف نہیں ہوتے۔ جیسا کہ کوئی سوتا ہوا شخص نیند سے بیدار ہو جائے تو اس پر سامنے دکھائی دینے والی اشیاء مکشّف ہو جاتی ہیں، اسی طرح گویا کہ سب انسان نیند میں ہیں موت یعنی روح کے انتقال پر وہ سب بیدار ہی کے عالم میں آجائیں گے اور سب سے پہلے ان پر یہ بات مکشّف ہوگی کہ ان کی نیکیاں ان کے لئے کتنی نفع بخش ہیں اور برائیوں سے کیا نقصانات ہیں۔ (لخص، اجابہ العلوم ۳/۹۱۳)

## موت کی شدت

موت کے وقت کی شدت اور سختی ناقابلِ بیان ہے، اس کی اصل کیفیت وہی جان سکتا ہے جو اس حالت سے گزرتا ہے، قرآن کریم میں غافل انسانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا گیا۔

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ بِذَلِكَ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ تَجِدُونَ (سورة قیامت: ۱۹)

اور موت کی سختی حقیقتاً قریب آچکی، یہ وہ چیز ہے جس سے توبہ کرتا ہے۔

دوسروں کا تو کیا کہنا خود آنحضرت ﷺ پر بھی موت کی یہ شدت طاری ہوئی، بخاری شریف میں روایت ہے کہ وفات کے قریب آنحضرت ﷺ سامنے رکھے ہوئے ایک برتن میں سے پانی لے کر اپنے چہرہ انور پر چھڑکتے تھے تاکہ تکلیف کی شدت میں کچھ کمی ہو، اور آپ ﷺ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ (بخاری شریف ۶۳۰/۱۲ حدیث ۳۳۳۹) اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واقعی موت کی سختیاں برحق ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں: کہ وفات کے وقت آنحضرت ﷺ کی شدت تکلیف اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اب میں کسی مرنے والے کی تکلیف کو ناپسند نہیں کرتی۔ (بخاری شریف کتاب المغازی ۶۳۹/۱۲)

﴿ اللہ سے شرم کھینچنے ﴾ ﴿ ۲۳۳ ﴾

حدیث ۲۳۳۶) تو معلوم ہوا کہ موت کے وقت کی شدت کا معاملہ عام ہے، یہ حالت مومن پر بھی طاری ہوتی ہے اور کافر پر بھی طاری ہوتی ہے۔ البتہ اس کے اثرات الگ الگ مرتب ہوتے ہیں کہ مومن کے لئے یہ شدت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے جبکہ کافر اور فاجر کے لئے عذاب کی شروعات ہوتی ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لئے اسے دنیوی تکالیف میں مبتلا فرماتا ہے اور اگر کوئی کسر رہ جاتی ہے تو موت کے وقت کی شدت سے اس کی عافی کی جاتی ہے۔ جبکہ اگر کوئی نیکی والا عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس عمل کی وجہ سے کبھی موت سے آسانی بھی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ (شرح الصدور ۵۸)

## موت کے وقت کیسا محسوس ہوتا ہے؟

حضرت عمرو بن العاصؓ انتہائی مہذب و مدبر اور ذکی و فہیم صحابہ میں ہیں، آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ پر نزع کی کیفیت شروع ہوئی تو آپ کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ابا جان! آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے کوئی ایسا بھمدار آدمی ملتا جو موت کے وقت کے حالات مجھے بتا دیتا، اور آپ کہتے تھے کہ تعجب ہے کہ آدمی ہوش میں رہنے کے باوجود موت کے وقت اپنے اوپر گزرنے والی حالت نہیں بتا پاتا۔ ابا جان! اب آپ اسی حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ لہذا آپ ہی ہمیں بتائیے کہ آپ موت کے حالات کس طرح محسوس فرما رہے ہیں۔ صاحبزادے کی بات سن کر حضرت عمرو بن العاصؓ نے فرمایا کہ بیٹے! حقیقت یہ ہے کہ موت کی کیفیت کو بیان کرنا الفاظ کی گرفت سے باہر ہے لیکن پھر بھی میں کچھ اشارات سمجھاتا ہوں، میں اس وقت ایسا محسوس کر رہا ہوں گویا میری گردن پر رضوٹی نامی پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے گویا کہ میرے پیٹ میں کانٹے کی شاخ ہے (جسے کھینچا جا رہا ہے) اور مجھے سانس لینے میں اتنی تنگی اور تکلیف ہے گویا کہ میری جان سوئی کے سوراخ میں سے ہو کر نکل رہی ہے۔ (شرح الصدور ۶۳)

حضرت شہاد بن اوسؓ فرماتے ہیں کہ "موت کا منظر دنیا اور آخرت میں انتہائی



﴿ اللہ سے شرم نہ گئے ﴾ ﴿ ۱۳۵ ﴾

ہولناک منظر ہے، اور موت کی تکلیف آروں سے چیرے جانے قینچیوں سے کانے جانے، اور دیکھیوں میں پکائے جانے سے بھی زیادہ سخت اور اذیت ناک ہے اور اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کر دنیا کے زندہ لوگوں کی صرف موت ہی کی شدت سے باخبر کر دے تو لوگ عیش و آرام کو بھول جائیں گے اور ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ (شرح ص ۳۷)

حضرت عمر بن الخطابؓ نے ایک مرتبہ حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ ذرا موت کے بارے میں بتلائیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین اسے یوں سمجھئے کہ کوئی انتہائی کانٹے دار ٹہنی آدمی کے پیٹ میں ڈال دی جائے اور اس کے کانٹے ہر ہر رگ اور جوڑے میں پھنس جائیں اور پھر کوئی نہایت طاقتور آدمی اس ٹہنی کو پکڑ کر سختی سے کھینچ لے تو اس عمل سے جتنی تکلیف ہوگی اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ (شرح ص ۳۷)

حضرت عطار بن یاسر سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ موت کا فرشتہ جب روح نکالتا ہے تو اس کی تکلیف کموار کے ایک ہزار وار سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے اور موت کے وقت مومن کی رگ رگ میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور اس وقت شیطان بھی اس کے نہایت قریب ہوتا ہے (تاکہ اسے آخری وقت میں بہا سکے)

(شرح ص ۳۷)

مروی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی روح اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچی تو ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ نے موت کو کیا پایا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا محسوس کیا جیسے کسی زعمہ چڑیا کو انگلیٹھی پر بھوننا جائے کہ نہ تو وہ مرے ہی اور نہ چھوڑی جائے گا کڑھ کر قہقہے جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسا محسوس کیا جیسے کہ کسی زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ (الذکرۃ فی احوال النبوی والآخرۃ ۲۱)

## موت کے وقت شیطان کی آخری کوشش

انسان کا دشمن اعظم یعنی شیطان آخر وقت تک اپنی اس کوشش میں کوئی کسر نہیں رکھتا کہ آدمی کو کسی طرح ایمان سے محروم کر کے دائمی عذاب کا مستحق بنا دے۔ چنانچہ روایات

﴿ اللہ سے علوم کھینچنے ﴾ ﴿ ۲۳۶ ﴾

میں آتا ہے کہ نزع کے وقت شیطان سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور مختلف انداز سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں وارد ہے۔

أَحْضُرُوا مَوْتَكُمْ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبَشِّرُوهُمْ بِالْحَنَّةِ فَإِنَّ الْحَلِيمَ  
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَتَحَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَصْرَعِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ اقْرَبُ مَا يَكُونُ مِنْ  
ابْنِ آدَمَ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَصْرَعِ۔ (کنز العمال بیروت ۵/۲۳۷۱)

جو مسلمان موت کے قریب ہوں ان کے پاس رہو اور ان کو "کلمہ طیبہ" کی تلقین کرو اور جنت کی بشارت سناؤ اس لئے کہ اس ہولناک وقت میں بڑے بڑے ظلمت مرد و عورت حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور شیطان اس وقت انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو ان کے صاحبزادے عبداللہ آپ کا جڑا ہاٹھنے کے لئے سامنے کپڑا لائے ہوئے کھڑے تھے۔ ادھر آپ کا حال یہ تھا کہ کبھی ہوش میں آجاتے کبھی استغراق کی کیفیت ہو جاتی، جب ہوش میں آتے تو ہاتھ سے اشارہ کر کے فرماتے لا بعد۔ لا بعد (ابھی نہیں، ابھی نہیں) جب کئی مرتبہ یہ کیفیت ہوئی تو صاحبزادے نے پوچھا کہ ابا جان آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ شیطان میرے سامنے کھڑا ہے اور دانتوں میں انگلیاں دبا کر کہہ رہا ہے کہ افسوس! احمد تم میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں لا بعد۔ لا بعد یعنی ابھی تک تیرے قریب سے ان نہیں ہے جب تک کہ ایمان کامل پر موت نہ آجائے (الحدیث ۳۹۵)

امام ابو جعفر قرطبیؒ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو ان سے کہا گیا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھئے تو وہ برابر لا یعنی انکار کا کلمہ فرماتے رہے۔ کچھ دیر میں جب آپ کو کچھ آفاقہ ہوا تو لوگوں نے عرض کیا کلمہ طیبہ کی تلقین کے جواب میں آپ۔ لا۔ فرماتے رہے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تمہاری تلقین کے مقابلے میں یہ کلمہ نہیں کہہ رہا تھا۔ بلکہ دو شیطان میرے سامنے کھڑے تھے ایک کہتا تھا کہ نصاریٰ مذہب پر مرنا دوسرا کہہ رہا تھا کہ

یہودیوں کے مذہب پر مرنا ان کے جواب میں نہیں لا۔ لا (نہیں۔ نہیں) کہہ رہا تھا۔ خدا کرہ

مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندیؒ کی وفات کا عجیب و غریب واقعہ  
 دیوبند میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے ایک قریبی عزیز مولانا محمد نعیم  
 صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے ہونہار اور صاحب علم و فاضل دارالعلوم تھے۔ مگر کم عمری ہی  
 میں صحت خراب ہو گئی اور حالت نازک ہوتی چلی گئی ان کا نزع کے عالم میں کافی دیر تک  
 شیطان لعین سے مناظرہ ہوتا رہا اور وہ اپنی ایمانی قوت کے ذریعے اس کے فریب کا جواب  
 دیتے رہے۔ اس عبرت ناک اور حیرت ناک منظر کا خود حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے  
 اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا اور مرحوم کی وفات کے بعد "النعمیم المقیم" کے نام سے  
 ایک چھوٹ سے رسالے میں ان کے حالات تحریر فرمادیئے۔ اس قصے کی تفصیل بتاتے  
 ہوئے حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں:

عصر کے قریب بار بار بھی ہونے لگی کہ اتنی فرصت نہ ملتی تھی جس میں نماز ادا کر  
 لیں، مجھے بلا کر مسئلہ پوچھا کہ میں اس وقت معذورین کے حکم میں داخل ہوں یا نہیں؟ میں  
 نے اطمینان دلایا کہ تم معذور ہو اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو اس وقت تک وہ اسی عالم  
 مشاہدہ میں تھے اور ارادہ کیا کہ حلی سے کچھ سکون ہو تو نماز ادا کروں۔ لیکن اتنی ہی دیر میں  
 دوسرے عالم کا مشاہدہ ہونے لگا۔ بعد مغرب جب احقر پہنچا تو حاضرین نے بیان کیا کہ کچھ  
 دیر سے حواس میں اختلال ہے اور ہذیان کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن احقر داخل ہوا تو اچھی  
 طرح پہچان کر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دو اور دعا پڑھ دو۔ اور  
 حضرت میاں صاحب (سیدی دسندی حضرت مولانا سید امین حسین صاحب دامت برکاتہم  
 محدث دارالعلوم دیوبند) سے میرا سلام کہہ دیجئے اس کے بعد ہی شیطان رجیم سے مناظرہ  
 شروع ہوا تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تک اس کا سلسلہ احقر کی موجودگی میں جاری رہا اس سلسلے میں  
 مجھے خطاب کر کے کہا کہ یہ مردود مجھے عصر کے وقت سے تنگ کر رہا ہے۔

اب معلوم ہوا کہ حاضرین جسے ہذیان سمجھ رہے تھے وہ بھی اس مردود کے ساتھ

خطاب تھا۔ مرحوم کی ہمیشہ پاس موجود تھیں اور دوسرے بہت سے مرد و عورت جو پاس تھے ان کا بیان ہے کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے (جو جمعہ) کے روز بہت سی روایات و آثار کے اعتبار سے قبولیت دعا کی گھڑی ہے۔ اول مختصری وصیت اپنی دونوں کی قضا شدہ نمازوں کے حطلق کی اور پھر بہت گڑگڑا کر تضرع و زاری کے ساتھ حق تعالیٰ سے دعا شروع کی "اے میرے پروردگار میں بہت بد عمل و رویا ہوں ساری عمر معاصی و غفلتوں میں گزار دی ہے میں تجھے کس طرح نہ دکھاؤں" لیکن تیرا ہی ارشاد ہے: "سَبَقْتُ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي" یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے اس لئے میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں" یہ تضرع و زاری کی دعا اس شان سے ہوئی کہ عام حاضرین پر رقت طاری تھی۔

دعا کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا کہ باواز بلند کہا کہ میں حجیم کروں گا ہمیشہ نے مٹی کا ڈھیلہ سامنے کر دیا حجیم کرتے ہی کہا شروع کر دیا کہ مردود تجھے بتلاؤں گا تو مجھے حق تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرنا چاہتا ہے میں کبھی مایوس نہیں ہوں مجھے اس کی رحمت سے بڑی امیدیں ہیں اس کی رحمت کے بحر وسہ پر کہتا ہوں کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔

تو ایک موٹی سی کتاب لے کر اس وقت مجھے بہکانے آیا ہے ضعیف تجھے اس لئے حرامت ہوئی کہ میں سترہ روز سے مسجد میں نہیں گیا۔ مگر میری یہ غیر حاضری خدا کے حکم سے تھی۔

اس کے بعد آیت کریمہ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ يَمْكُ بِرُغْمِي وَأَرْأَيْكَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ پڑھنا چاہتے تھے کہ زبان کو لکنت ہوئی تو پھر زور سے بار بار پڑھا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور شیطان سے خطاب کر کے کہا کہ مردود تو یہ بھلانا چاہتا ہے میں اس کو نہیں بھول سکتا یہ آیت مجھے حضرت میاں صاحب سلمہ نے بتلائی ہے اور مولوی محمد شفیع نے بتلائی ہے اور پھر بار بار بلند آواز سے اس جملہ: وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کو پڑھا کہ کمرہ گونج اٹھا، یہ باتیں میرے بچپن سے پہلے ہو چکی تھیں جن کو حاضرین نے اختلاف حواس سمجھا تھا مگر میرے بچپن پر اچھی طرح پہچان کر خوش ہوئے اور دعا کی

﴿ اللہ سے شکر کہنے ﴾ ﴿ ۲۳۹ ﴾

درخواست کی اور حضرت میاں صاحب مدظلہم کو سلام عرض کرنے کی وصیت وغیرہ سے صاف ظاہر ہوا کہ اس وقت بھی اختلاف حواس نہ تھا بلکہ عدو اللہ ابلیس لعین کو دیکھ کر اس سے مقابلہ کر رہے تھے چنانچہ میرے حاضر ہونے کے بعد مجھ سے کہا یہ مرد دو مجھے عصر کے وقت سے تنگ کر رہا ہے میں نے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کی تلقین کی تو بلند آواز سے اس کو پڑھا اور کہا غیث اب تجھے تلاءوں کا تو مجھے بہکانے آیا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میرے دل میں گڑا ہوا ہے۔ اللہ اللہ میری رگ میں بسا ہوا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھا تو اس کو پڑھ کر کہا کہ آگے کیوں نہیں کہتے مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ (ﷺ) منہ سے خون کی تے جاری تھی اور جب اس سے ذرا فرمت ملتی تو کبھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ (ﷺ) پورا پورا باوازی بلند پڑھتے تھے اور کبھی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور کبھی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ الایہ اور کبھی شیطان سے خطاب کر کے کہتے کہ غیث تو گیا نہیں مجھ سے خطاب کر کے کہتے کہ اس کو مارو، اس کو نکال دو۔

اس وقت اس چھ ماہ کے مدت کے مریض کی یہ حالت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آب کشتی لڑنے کو کھڑا ہو جاوے گا ایک مرتبہ کہا کہ تو نے سمجھا ہوگا کہ یہ نازک وقت ہے اس وقت بہکا دوں دیکھا اب میرے بدن میں حرارت آگئی ہے میں اب تجھے تلاءوں گا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ بہت سے آدی کھڑے ہیں (وہاں ہانسنے کھڑے ہونے والے صرف دو تھے) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نظر آرہے تھے (غالباً فرشتوں سے خطاب کر کے کہا) کہ بس اب تو اللہ میاں کے یہاں لے چلو۔

الغرض اس قسم کی گفتگو کا سلسلہ عشاء کے بعد تک جاری رہا جس میں بار بار پورا کلمہ طیبہ پڑھتے رہے بالآخر ساڑھے نو بجے شب کو اس مسافر آخرت نے اپنی منزل طے کر لی۔ إنا لله وانا اليه راجعون۔ (ملخص رسالہ "النعيم المقيم")



## تیسری فصل

### اللہ انجام بخیر کرے

آدی کو اپنے ظاہری اعمال پر کبھی اطمینان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ڈرتا رہے کہ نہ جانے آخر میں انجام کیا ہو؟ علماء نے لکھا ہے کہ انسان پر زندگی میں خوف خدا کا غلبہ رہنا چاہیے اور مرتے وقت رحمت خداوندی کی طرف توجہ ہو جانی چاہیے۔ اصل اعتبار آخری انجام کا ہے۔ اسی لئے جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ ثُمَّ يُعْتَمَدُ لَهُ عَمَلُهُ  
بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُعْتَمَدُ لَهُ  
بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ۔ (مسلم حریف ۳۳۳/۲)

آدی ایک طویل زمانہ تک اہل جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے مگر اس کی عملی زندگی کا اہتمام جہنمیوں والے اعمال پر ہوتا ہے۔ اور کبھی آدی طویل عرصہ تک جہنمیوں جیسے عمل میں مبتلا رہتا ہے مگر اس کا خاتمہ اہل جنت والے اعمال پر ہوتا ہے۔

اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ وَ إِنَّمَا الْآعْمَالُ بِالْمَعْوَاتِيهِمْ (بخاری حریف ۹۸۷/۲) یعنی اعمال کی قبولیت کا مدار انجام پر ہے۔ اس لئے ہمیشہ کوشش کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ اس کے فضل اور توفیق سے خاتمہ بخیر ہو اور ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے سب سے اچھے وقت میں بارگاہ ایزدی میں حاضری کی دولت نصیب ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے "اے دلوں کو پلٹنے والے رب! میرے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم فرمادے" تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کثرت سے یہ دعا کیوں مانگتے ہیں کیا آپ کو کسی بات کا خطرہ ہے؟ اس پر آنحضرت ﷺ نے جواب دیا کہ "عائشہ مجھے اپنے اوپر کیسے اطمینان ہو سکتا ہے جبکہ

تمام انسانوں کے دل اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جب چاہے اپنے جس بندے کے دل کو چاہے پھیر سکتے پر قادر ہے " (الذکر لى احوال المؤمنى والاخرة ۴۴)

## سوء خاتمہ سے ڈرتے رہیں

کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی حتمی طور پر یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ مرتے وقت اس کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا میں ایسے عبرت ناک واقعات بکثرت پائے گئے ہیں کہ آدمی پوری زندگی اچھے اعمال کرتا رہا مگر آخری وقت میں اسکے حالات بگڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بد انجامی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

ذیل میں ایسے ہی چند عبرت آموز واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔

## بد نظری کا انجام

(۱) مصر میں ایک شخص برابر مسجد میں رہتا تھا پابندی سے اذان دیتا اور جماعت میں شرکت کرتا، چہرے پر عبادت اور اطاعت کی رونق بھی تھی، اتفاق سے ایک دن جب اذان دینے کے لئے مسجد کے مینارے پر چڑھا تو قریب میں ایک عیسائی شخص کی خوبصورت لڑکی پر نظر پڑی جسے دیکھ کر وہ اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا اور اذان چھوڑ کر وہیں سے سیدھے اس مکان میں پہنچا، لڑکی نے اسے دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ میرے گھر میں کیوں آیا؟ اس نے جواب دیا میں تجھے اپنا بنانے آیا ہوں اس لئے کہ تیرے حسن و جمال نے میری عقل کو ماؤف کر دیا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ میں کوئی تہمت والا کام نہیں کرنا چاہتی ہوں تو اس نے پیشکش کی کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا۔ لڑکی نے جواب دیا تو مسلمان اور میں عیسائی ہوں، میرا باپ اس رشتے پر تیار نہ ہوگا اس شخص نے کہا میں خود عیسائی بن جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے شخص اس لڑکی سے نکاح کی خاطر عیسوی مذہب قبول کر لیا (نعوذ باللہ من ذلك) لیکن ابھی وہ دن بھی پورا نہ ہوا تھا کہ یہ شخص اس گھر میں رہتے ہوئے کسی کام کے لئے چھت پر چڑھا اور کسی طرح وہاں سے گر پڑا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی یعنی دین

بھی گیا اور لڑکی بھی ہاتھ نہ آئی۔ (الحمد کو ۳۳۰)

## حضرات شیخینؒ پر تبرا کرنے کی سزا

(۲) مشہور مصنف علامہ ابن ابی الدنیا نے اپنے معرکہ الآراء رسالہ "من عاش بعد الموت" میں کئی ایسے لوگوں کے واقعات لکھے ہیں کہ مرتے وقت انہوں نے آگ آگ چلانا شروع کر دیا اور جب ان کو کلمہ کی تلقین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کلمہ نہیں پڑھ سکتے اس لئے کہ ہم ایسی جماعت سے متاثر تھے جو حضرات شیخینؒ یا حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر سب و شتم کرتے تھے۔ (موسوعۃ الرسائل لابن مہدی ۲۳)

اس طرح عبرت ناک واقعات کتب تاریخ میں بکثرت موجود ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہؓ سے بغض و عداوت بد انجامی کا بڑا سبب ہے۔ بعض واقعات اس طرح کے بھی ہیں کہ صحابہؓ رضی اللہ عنہم کی صورتوں کی تصویریں ذلیل جانوروں میں تبدیل کر دی گئیں۔ (مجاہد الدعوات ۵۴/۳۸) بحمدہ

## شراب نوشی۔ بد انجامی کا سبب

(۳) معبد چینی کا بیان ہے کہ ملک شام میں ایک شرابی غص کو مرتے وقت کلمہ کی تلقین کی گئی تو اس نے جواب میں کلمہ پڑھنے کے بجائے یہ الفاظ کہنے شروع کئے "شراب داعی" (خود پی اور مجھے بھی پلا)۔ لیکن اس کے دماغ پر شراب نوشی ہی مسلط رہی (الحمد کو ۳۰) اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ شراب نوشی سے بھی آدمی بکثرت بد انجامی سے دوچار ہوتا ہے یہ گناہ تمام ترکناہوں کی جزا اور بنیاد ہے اور سوہ خاتمہ کا بڑا سبب ہے۔

## دنیا سے حد سے زیادہ لگاؤ کا انجام

(۴) شہراہواز میں ایک غص کو مرتے وقت کلمہ کی تلقین کی گئی تو وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے یہی کہتا رہا "گیارہ، بارہ، تیرہ" یہ غص حساب داں تھا اور پوزی زندگی اس کی حساب



﴿ اللہ سے علوم سمجھنے ﴾ ﴿ ۲۳۳ ﴾

و کتاب میں گذری تھی دین سے کچھ رغبت نہ تھی اس لئے مرتے وقت کلمہ پڑھنے کے بجائے حساب ہی لگا تا رہا۔ اسی طرح ایک شخص کو زرع کے وقت کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو وہ کہنے لگا کہ میرے فلاں گھر کے اندر فلاں چیز ٹھیک کر دو اور میرے فلاں باغ کے اندر اس طرح اصلاح کر دو یعنی مرتے وقت بھی اس کا ذل مکان اور باغ میں انکار ہا۔

(۵) ایک شخص نے دروگائے پال رکھی تھی اور وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا جب مرتے وقت اس کو کلمہ کی تلقین کی گئی تو اس کی زبان پر زرد گائے، زرد گائے کی گردان ہی رہی۔ (الطحاوی ۳، ۴، ۴۱)

ان واقعات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دنیا داری میں حد سے زیادہ مشغولیت اور دن رات کاروبار اور پیشہ کمانے کی دھن ایسی لعنت ہے جو انسان کو حسن خاتمہ کی دولت سے محروم کر سکتی ہے۔ اللہم احفظنا منہم۔ آمین۔

### اللہ والوں کو اذیت دینے کا انجام

(۶) مشہور عالم علامہ ابن حجر عسقلانی نے "فتاویٰ حدیثیہ" میں نقل کیا ہے کہ ابن السقاء نام کا ایک شخص جس نے علوم اسلامیہ میں زبردست مہارت حاصل کر کے فرق باطلہ سے بحث و مناظرے کا ملکہ حاصل کر لیا تھا اپنی علمی صلاحیت کی وجہ سے اس کو خلیفۃ المسلمین کا لقب حاصل ہوا اور خلیفہ نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے بادشاہ روم کے دربار میں اسے اپنی حکومت کا سفیر بنا کر بھیج دیا۔ رومی بادشاہ نے اس کے اعزاز میں بڑے بڑے امراء اور عیسائیوں کے مذہبی پیشواؤں اور پادریوں کی ایک عظیم مجلس منعقد کی جس میں عقائد پر بحث کے دوران ابن السقاء نے ایسی مدلل گفتگو کہ سارے حاضرین پر نانا چھا گیا اور کسی سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ عیسائی بادشاہ کو مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر سخت ناگواری ہوئی اور اس نے ابن السقاء کو شیشے میں اتارنے کے لئے خلوت میں اس کے سامنے اپنی حسین و جمیل بیٹی کو پیش کیا ابن السقاء نے اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر بادشاہ سے اس سے نکاح کی درخواست کی بادشاہ نے یہ شرط لگائی کہ اگر تو عیسوی مذہب قبول کر لے تو نکاح ممکن ہے۔ چنانچہ وہی ابن

﴿ اللہ سے شکر کہجئے ﴾

القاء جس نے بادشاہ کی مجلس میں عیسوی مذہب کے تارو پود بکھیر کر عیسائیوں کو لاجواب ہونے پر مجبور کر دیا تھا محض ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو کر عیسوی مذہب قبول کر کے مرتد ہو گیا اور اسی ارتدادی حالت میں جہنم رسید ہوا۔ (اعاذنا اللہ منہ) کہتے ہیں کہ ابن السقاء نے شروع طالب علمی کے زمانہ میں ایک بڑے بزرگ کی شان میں گستاخی کرنے اور انہیں ذلیل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور ان بزرگ نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں تجھ کو جہنم میں جلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ (قادی صدیہ ۴۵)

## سیدنا حضرت حسینؑ کو تیر مارنے والے کا بدترین انجام

(۷) ایک شخص جس کا نام زرع تھا اس نے میدان کربلا میں ریحانہ الرسول سیدنا حضرت حسینؑ کو تیر مار کر پانی کی طرف جانے سے روک دیا تھا اور اپنے تیر سے آپ کی گردن کو زخمی کر دیا تھا، اس کے اس عمل پر سیدنا حسینؑ کی زبان سے بدو عا نکلی کہ "اے اللہ اسے پیاسا کر دے، اے اللہ اسے پیاسا کر دے۔" راوی کہتا ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جو زرع کے مرض الموت میں اس کے پاس حاضر تھا کہ اس کا عبرت ناک حال یہ تھا کہ وہ بیک وقت پیٹ کی طرف سخت گرمی اور پیٹھ کی طرف سخت سردی محسوس کر کے چیخ رہا تھا۔ اس کے سامنے لوگ پٹکھا حمل رہے تھے جبکہ اس کی پیٹھ کی طرف انگلیٹھی رکھی ہوئی تھی۔ اور وہ کہہ جا رہا تھا "مجھے پانی پلاؤ پیر اس سے میں مر جا رہا ہوں" چنانچہ ایک بہت بڑا ٹپ لایا گیا جس میں ستویا دودھ تھا۔ وہ اتنا زیادہ تھا کہ پانچ آدمی ملکر بھی نہ پی پاتے، مگر وہ سب اکیلا ہی پی گیا، اور پھر بھی پیاس پیاس پکارتا رہا۔ اس کا پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح بڑا ہو گیا تھا۔ اللهم احفظنا منہ نعوذ باللہ من ذلک۔ (صحابی الدعوات ۵۱۸)

سیدنا حضرت سعید بن زیدؓ پر جھوٹا دعویٰ کرنے والی

## عورت کا انجام

حضرت سعید بن زیدؓ کا شمار ان دس خوش نصیب صحابہ میں ہوتا ہے جن کو جناب

رسول ﷺ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت مرحمت فرمائی ہے۔ ایک عورت اردوئی بنت اویس نے آپ پر دعویٰ کر دیا کہ آپ نے اس کے مکان کے کچھ حصے پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے۔ معاملہ مردان بن الحکم تک پہنچا جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھے۔ حضرت سعیدؓ کو عدالت میں بلایا گیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھلا میں کیسے کسی کی زمین دبا سکتا ہوں جبکہ میں نے خود آنحضرت ﷺ سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی ایک باشت زمین بھی غصب کر لے تو اس کے نیچے کی ساتوں زمین کی مٹی اس کے گلے میں قیامت کے دن طوق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ مردان نے یہ جواب سن کر کہا کہ اس کے بعد آپ سے مزید کسی ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت سعیدؓ نے عورت پر بددعا فرمائی کہ: "اے اللہ اگر یہ عورت اپنے دعوے میں جھوٹی ہے تو (۱) میرے دعویٰ کی سچائی لوگوں پر ظاہر فرما، (۲) اس عورت کی بیٹائی سلب فرما، (۳) اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے" راوی فرماتا ہے کہ اس واقعہ کے کچھ روز بعد ہی مدینے میں ایسا سیلاب آیا کہ اس سے مکان کی اصل بنیادیں ظاہر ہو گئیں اور حضرت سعیدؓ کی سچائی واضح ہو گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد مدعیہ عورت کی بیٹائی جاتی رہی۔ اور پھر ایک دن وہ ٹٹول ٹٹول کر اپنے گھر میں چل رہی تھی کہ گھر ہی کے ایک کنویں میں گر کر مر گئی۔ (مسلم شریف ۱۲/۳۳۱۲، الاماہ ۱۳/۸۸۱۳، اسد الغابہ ۲/۳۶۷)

**حضرت سعد بن ابی وقاصؓ پر بہتان لگانے والے کا انجام**

(۹) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ بڑے مستجاب الدعوات صحابہ میں ہیں۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں کوفہ کے گورنر تھے۔ اہل کوفہ میں سے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں شکایتیں حضرت عمرؓ تک پہنچائیں جنہیں میں یہ شکایت بھی تھی کہ وہ نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھاتے، حضرت عمرؓ نے انہیں مدینے بلا کر تحقیق فرمائی تو آپ نے جواب دیا کہ میں تو انہیں آنحضرت ﷺ کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں یعنی عشاء کی ابتدائی دو رکعتیں طویل پڑھاتا ہوں اور آخری دو رکعتیں ہلکی پڑھاتا ہوں، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ واقعی آپ سے یہی امید تھی، پھر حضرت عمرؓ نے کچھ لوگوں کو مزید تحقیق کے لئے کوفہ بھیجا کہ وہ مسجد مسجد جا

﴿ اللہ سے شکر کہجئے ﴾

کر معلوم کریں کہ کوفہ والوں کا حضرت سعدؓ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ چنانچہ ان لوگوں نے جس مسجد میں بھی تحقیق کی وہاں کے لوگوں نے حضرت سعدؓ کی تعریف کی۔ مگر جب یہ لوگ "بنی عس" کی مسجد میں پہنچے تو وہاں ایک شخص جس کا نام اسامہ اور کنیت ابو سعدهؓ تھی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ جب آپ اللہ کا واسطہ دے کر تحقیق کرتے ہیں تو سنئے! کہ سعدؓ نہ تو جہاد میں جاتے ہیں، اور نہ قیمت کو تقسیم کرنے میں برابری کرتے ہیں اور نہ فیصلوں میں انصاف سے کام لیتے ہیں۔ اس کے یہ الزامات سن کر حضرت سعدؓ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اب میں تین بد دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ اگر یہ تیر بندہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہو اور محض ریا کاری اور شہرت کے لئے اس نے یہ جھوٹے الزام لگائے ہوں تو (۱) اس کی عمر لمبی فرما (۲) اور اس کے فقر و فاقہ کو طویل کر دے (۳) اور اسے قتلوں میں مبتلا کر دے۔ اس روایت کے راوی عبدالملک کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس شخص کو اس حال میں دیکھا کہ انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے اس کی ہنسیوں تک اس کی آنکھوں پر لٹک آئی تھیں لیکن وہ راستہ چلتی لڑکیوں سے بھی چھیڑ چھاڑ کرنے سے بھض نہ آتا تھا۔ اور جب اس سے اس کا حال پوچھا جاتا تو جواب دیتا کہ شَيْخٌ مَفْتُونٌ اَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ لَعْنَتُهُ فِي جِلْدِي پوڑھا ہوں، مجھے سعدؓ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ۔ (مساری حریف ۱۰۴/۱۱۱ مجلی الدعوة ۳۵)

**صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے والے پر حضرت سعدؓ کی بد دعا**

عامر بن سعدؓ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ ایک ایسی جماعت پر گذرے جو سب کسی شخص کی گفتگو غور سے سر جھکا کر سننے میں مشغول تھے۔ آپ نے بھی تحقیق حال کے لئے سر اندر ڈال کر اس کی بات سنی تو دیکھا کہ وہ حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ پر لعن طعن کر رہا تھا، حضرت سعدؓ نے اسے اس حرکت سے منع کیا، مگر وہ باز نہیں آیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو! میں تجھ پر بد دعا کر دوں گا، اس نے کہا کہ آپ تو ایسے دمکی دے رہے ہیں گویا کہ آپ نبی ہوں؟ اس کے بعد حضرت سعدؓ گھر تشریف لے

﴿ اللہ سے شرم کھینچنے ﴾ ﴿ ۲۳۷ ﴾

گئے۔ وضو فرمایا، دو رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ میں بددعا کی کہ "اے اللہ! اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ ایسے لوگوں پر سب وستم کر رہا ہے جن کے اعمال تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں، اور اس نے انہیں برا بھلا کہہ کر تیرا غصہ مول لیا ہے۔ تو اسے تو آج ہی عبرت ناک نشانی بنا دے۔ اب عامر بن سعد کہتے ہیں کہ بددعا مانگتے ہی ایک بدکا ہوا سختی اونٹ سامنے سے نکل کر مجمع کو چیرتا پھاڑتا سیدھا اس شخص تک پہنچا لوگ ڈر کے مارے دو بھاگ گئے اور اس بد کے ہوئے اونٹ نے صحابہ کی شان میں زبان درازی کرنے والے شخص کو اپنے پیروں اور منہ سے اس کے اعضاء چبا چبا کر برسر عام ہلاک کر ڈالا، یہ عبرت ناک منظر دیکھ کر لوگ دوڑتے ہوئے حضرت سعد کے پاس پہنچے اور انہیں خبر سنائی کہ اے ابوالفتح (حضرت سعد کی کنیت ہے) اللہ تعالیٰ نے آپ کی بددعا کی قبولیت ظاہر کر دی ہے۔" (البدایعہ و النہایعہ ۱/۷۷۰۴)

یہ چند واقعات ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں، ورنہ تو تاریخ کے ہر دور میں ایسے واقعات پائے گئے ہیں کہ جن بد نصیبوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ستایا ہے انکا حشر برا ہوا ہے۔ سوہ خاتمہ کہ مجملہ اسباب میں سے ایک بڑا سبب اولیاء اللہ سے بغض اور ان کی شان میں ہرزہ سرائی بھی ہے۔ حدیث قدسی میں وارد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يَنْهَى عَادَى لِيْ وَ لِیَا فَقَدْ اَذْنَنْتُ بِالْحَرْبِ**۔ (بخاری شریف ۱۱۳۱۲) یعنی جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں، اس لئے ہر مسلمان کو کسی بھی اللہ والے کی شان میں گستاخی اور زبان درازی سے پوری طرح احتراز کرنا لازمی ہے۔ تاکہ وہ حسن خاتمہ کی دولت سے محروم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بد انجامی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔



## چوتھی فصل

### حسن خاتمہ! عظیم دولت

جس شخص کو ایمان کامل اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے رحلت نصیب ہو جائے تو یہ ایسی عظیم دولت ہے جس کے مقابلے میں کائنات کی ہر دولت بچ ہے۔ اس لئے ان تمام اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو حسن خاتمہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ نفع بخش اور مفید چیز علماء اور اولیاء اللہ سے تعلق اور محبت ہے۔ جو شخص اللہ کے نیک بندوں سے جتنا زیادہ تعلق رکھے گا انشاء اللہ آخرت میں وہ اتنا ہی کامیاب و کامراں ہوگا، جناب رسول ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: **السَّعْرَةُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ** (ترمذی شریف ۶۴۱۲) یعنی آدمی کا حشر اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا تو اگر ہماری محبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگی تو انشاء اللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت یزید ابن حجرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے وقت آدمی کے سامنے اس کے اہل مجلس پیش کئے جاتے ہیں اگر وہ لہو و لعل والی سوسائٹی میں پڑا رہا تو وہی لوگ پیش ہوتے ہیں اور اگر اہل خیر کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو انہی کو پیش کیا جاتا ہے۔ (شرح الصدور ۱۳)

بہر حال صلحاء اور اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت حسن خاتمہ کا بہترین اور موثر ذریعہ ہے اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے۔

### اللہ والوں کی رحلت کے بعض قابل رشک

#### اور بشارت آمیز حالات

حسن خاتمہ سے مرنے والے کی محض ظاہری حالت مراد نہیں ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا صالح اور بزرگ شخص خطرناک حادثہ سے دوچار ہو کر

﴿ اللہ سے شرم کھینچنے ﴾ ﴿ ۲۳۹ ﴾

اچانک وفات پا جاتا ہے اور کبھی کوئی بدل عمل شخص بڑی آسانی اور اچھی حالت میں رحلت کرتا ہے۔ بلکہ حسن خاتمہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کامل ایمان بہتر اعمال، اثابت الی اللہ، اور رحمت خداوندی کا امیدوار ہو کر بارگاہ ایزدی میں پہنچے، ان حالات کے ساتھ ظاہری طور پر اسے کتنی ہی تکلیفیں پہنچیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ کیفیات معدوم ہوں تو پھر محض آسانی کی موت سے آخرت میں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اسے مٹھاس عطا فرمادیتا ہے، حضرات صحابہؓ نے عرض کیا کہ مٹھاس عطا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اسے انتقال سے قبل ایسے اعمال خیر کی توفیق عطا کرتا ہے کہ اس کے پاس پڑوس میں رہنے والے اس سے خوش ہوتے ہیں اور بعد میں اس کی تعریف کرتے ہیں (الرواہر، عن ابن حبان ۳۹۵/۲) اسی طرح ایک روایت میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا مرتے وقت آخری کلام کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ ہو اور دل کے کامل یقین کے ساتھ وہ اسے پڑھے تو انشاء اللہ اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آئندہ صفحات میں حضور اکرم ﷺ اور چند صحابہؓ اور اولیاء اللہ کے حالات وفات پیش کئے جاتے ہیں تاکہ شوق و ذوق کے ساتھ ساتھ ان حضرات کی عظمت و محبت سے بھی ہمارے سینے معمور ہو جائیں۔

## آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حادثہ وفات

امت محمدیہ کے لئے سب سے بڑا سانحہ جس کے تصور سے آج بھی روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے آقا و سردار، سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ یہ ایسا المناک لمحہ تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ بھی اپنے حواس بجا نہ رکھ سکے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیر چھا گیا۔ نارت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور بہادر شخص بھی تلوار لے کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام پردہ فرما چکے ہیں تو اسی تلوار

﴿ اللہ سے شکر کہجئے ﴾ ﴿ ۲۵۰ ﴾

سے اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس وقت امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ اعلان فرمایا:

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَبْغِدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قُلَمَاتٌ.. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَبْغِدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الخ۔ (بخاری شریف ۶۳۰/۲)

تم میں سے جو شخص محمد (ﷺ) کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ محمد اب اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور جو شخص تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اس پر کبھی موت طاری نہ ہوگی، پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ الخ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہیں، جب مجھے آپ کی موت کا یقین ہو گیا تو میری حالت یہ ہو گئی کہ میرے قدم میرا بوجھ اٹھانے کے تحمل نہ رہ پائے اور میں بے اختیار زمین پر گر گیا۔ (بخاری شریف ۶۳۰/۲)

شدید مرض الوقات میں جب آپ جماعت سے نماز پڑھانے کے لئے مسجد تشریف نہ لاسکے تو آپ نے تاکید کر کے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی حیات میں ۷۱ نمازیں ادا کرائیں۔ اس دوران نبی اکرم ﷺ نے امت کو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے، غلام باندیوں اور عورتوں کے حقوق کی رعایت کرنے نیز نماز کا اہتمام رکھنے کی تاکید اور وصیت فرمائی، اسی شدت کے عالم میں آپ ﷺ نے اپنی قبر مبارک کو سجدہ گاہ بنانے سے سختی سے منع فرمایا، اور اس سلسلے میں یہودیوں کی بد عملی پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (بخاری شریف ۶۳۰/۲)

اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے یہودیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔



موت کی شدت اور تکلیف میں زیادتی اور بے چینی سے آپ کی زبان مبارک پر

یہ دعا جاری رہی:

اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى سَكْرَاتِ الْمَوْتِ - (مسائل ترمذی ۲۶۱)  
اے اللہ! موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اکثر آپ سے یہ بات سنا کرتی تھی کہ کس نبی کی وفات اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ خود اس سے دنیا یا آخرت میں رہنے کے بابت اس کی رائے معلوم نہ کر لی جائے۔ چنانچہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا جب کہ آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا تو آپ کا سانس تیز چلنے لگا اور آپ نے فرمایا: مَعَ الْيَمِينِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ (یعنی میں نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کر لیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے الخ) تو میں سمجھ گئی کہ اب آپ نے آخرت کو اختیار فرمایا ہے۔ (بخاری شریف ۶۳۸۷)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیوی زندگی میں سب سے آخری عمل جو انجام دیا وہ مسواک کے ذریعہ پاکیزگی حاصل کرنا تھا، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مرض الوفا میں آنحضرت ﷺ میری گود میں سر رکھ کر آرام فرماتے، اسی درمیان میرے بھائی عبدالرحمن ابن ابی بکر اس حال میں آئے کہ ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھی، جس سے وہ مسواک کر رہے تھے، آنحضرت ﷺ نے اس مسواک کو نظر جما کر دیکھا (جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں) لہذا میں نے وہ مسواک ان سے لے کر اچھی طرح چبا کر ملائم کر کے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے نہایت عمدہ طریقہ پر مسواک فرمائی۔ اور ابھی آپ اس سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ نے اپنا دست مبارک یا انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور تمنا مرتبہ یہ الفاظ ہر اے فی الرفیق الاعلیٰ پھر میری گود ہی میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ (بخاری شریف ۶۳۸۷)

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے وفات کے وقت یہ دعا فرمائی۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَالْحَفِظِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى۔ (بخاری شریف)

اے اللہ! مجھے معاف فرما اور مجھے پر رحم فرما، اور اعلیٰ درجے کے رفیق کے ساتھ

مجھے لاحق فرما۔

آنحضرت ﷺ کی وفات کی خبر سے مدینے میں کہرام مچ گیا۔ سچے جانثاروں کا آسرا چلا گیا، مہمان نبوت کا سب سے بڑا محبوب خود اپنے محبوب یعنی رب العالمین سے وصال کی سعادت سے بہرہ ور ہو گیا، مدینہ میں ہر طرف سسکیاں اور آہیں تھیں۔ جن کا اظہار زبان سے کم آنکھوں سے بہنے والے گرم گرم آنسوؤں کے سیل رواں سے زیادہ ہو رہا تھا۔ مسجد نبوی میں موجود حضرات صحابہ کی حالت عجیب تھی، کوئی بھی اس المناک حادثے پر اپنے ہوش میں معلوم نہ ہوتا تھا کسی کی زبان گنگ تھی، تو کوئی آنسوؤں کے سیلاب میں تصویر غم بنا ہوا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ اب کیا ہوگا؟ نظریں اس نازک موقع پر آپ ﷺ کے سب سے قریبی رفیق سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہی تھیں کچھ دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ٹڈ حال قدموں سے تشریف لائے، پہلے سیدھے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے جہاں آپ ﷺ کا جسد خاکی یعنی چادر میں ڈھکا ہوا رکھا تھا، حضرت ابوبکر نے چادر ہٹائی اور روتے ہوئے پیشانی کا بوسہ لیا، اور فرمایا: "میرے ماں باپ آپ پر قربان! اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ اور جو موت آپ کے لئے مقدر تھی، وہ آچکی" (یعنی اب آپ دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے کہ پھر موت آئے)

(بخاری شریف مع حاشیہ ۱۲/۱۳۰)

اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیشانی

مبارک کو چومنے کے بعد آپ کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔

"حضور! میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اور موت

بھی پاکیزہ ہوئی، اور آپ کی وفات حسرت آیات سے نبوت کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا جو آپ

سے پہلے کسی نبی کی وفات سے ختم نہ ہوا تھا، آپ کی شان ناقابل بیان ہے اور آپ کی ذات رونے سے بالاتر ہے، آپ نے امت سے وہ خصوصی برتاؤ کیا کہ آپ کی ذات سرپا تلسی گاہ بن گئی، اور آپ نے رحمت کو اس قدر عام کیا کہ ہم سب آپ کی نظر میں برابر قرار پائے، آپ کی موت اگر اختیاری ہوتی تو ہم آپ کی وفات کے بدلے کتنی ہی جانیں لٹا دیتے، اور اگر آپ نے رونے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو آپ کی یاد میں اپنی آنکھوں کے آنسو خشک کر ڈالتے، مگر ایک چیز ہمارے قابو سے باہر ہے وہ دل کی کڑھن اور آپ کی جدائی پر وحشی تکلیف ہے جو برابر باقی رہے گی کبھی ختم نہ ہوگی۔ اے اللہ! ہمارے یہ جذبات ہمارے حضور تک پہنچا دے۔ اور اے محمد (ﷺ) آپ اپنے پروردگار کے دربار میں ہمیں یاد رکھئے، اور اپنے دل میں ہمیں بسائے رکھئے، اور یقین جانئے کہ اگر آپ نے ہمیں صبر و سکون کی تعلیم نہ دی ہوتی تو ہم اس وحشت اثر حادثہ کو ہرگز برداشت نہ کر پاتے۔ اے اللہ! ہمارا یہ پیغام ہمارے نبی تک پہنچا دے، اور ہمارے بارے میں اسے محفوظ فرما۔

اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے اور تسلی آمیز خطبہ ارشاد فرمایا جس سے لوگوں کے ہوش بجا ہوئے اور خلافت، نماز جنازہ اور تدفین کے مراحل انجام دیئے گئے۔ (الروض الانف ۳/۵۱۳)

۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ ہجر کے دن چاشت کے وقت آپ کی وفات ہوئی۔ پیر کا بقیہ دن اور منگل کی رات خلافت کے قیام اور بیعت کی تکمیل میں صرف ہوئی، منگل کی صبح کو آپ کو غسل دیا گیا، پھر انفرادی طور پر نماز جنازہ پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا جو پورا دن گزار کر رات تک جاری رہا، پھر اس رات ہی میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

أَلْفَ أَلْفِ مَرَّةٍ۔ (الروض الانف ۳/۵۱۳، البهامة و النہامة ۸۳/۸۳، دلائل النبوة وغیرہ)

بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے شدت مرض کے زمانے میں آپ کی سب سے چہیتی صاحبزادی، اہل جنت عورتوں کی سردار، سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا (جن کو آپ نے پہلے ہی اپنی وفات کی اور پھر اہل بیت میں سے سب

﴿ اللہ سے علوم کھینچنے ﴾ ﴿ ۲۵۲ ﴾

سے پہلے انتقال کی خبر دے دی تھی) حاضر خدمت ہوئیں اور آپ کی شدید تکلیف دیکھ کر فرمایا: اَکْرَبُ اَبْنَاءِ (ہائے میرے والد کی تکلیف) تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بیٹی! آج کے بعد پھر کبھی تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ پھر جب آپ کی وفات ہوگئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آخری دیدار کے لئے تشریف لائیں اور آپ کے جسد مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا:

يَا اَبْتَاهُ، اَحْسَبُ رَبَّادَعَاؤُهُ مِثْلَ اَبْتَاهُ مِنْ حَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ مَا وَاهَبْنَا اَبْتَاهُ اِلَى جِبْرِيْلَ نَعَاؤُهُ۔ (بخاری شریف ۱۱/۲۳۱)

ہائے میرے پیارے ابا جان! جنہوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی۔ وائے میرے مشفق اور عزیز والد! جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ اے والد نامہ دار! جن کی وفات پر ہم حضرت جبرئیل علیہ السلام کے سامنے گریہ و گزاری کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شدت تاثر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

يَا اَنَسَ الْعَلِيَّتِ اَتَمَسُّكُمْ اِنْ تَحْتُوا عَلَيَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلْتَرَابِ۔ (بخاری شریف)

میاں انس! تم نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تم آنحضرت ﷺ کے جسد اقدس پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ زبان حال سے جواب دے رہے تھے کہ واقعی دل تو نہ چاہتا تھا مگر حکم نبوی کی تعمیل میں جبراً یہ عمل انجام دینا پڑا۔ (بخاری ۱۴۷۸)

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے قبر مبارک سے مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھی اور اسے سوگنا پھر یہ اشعار پڑھے۔

مَاذَا عَلَيَّ مِنْ شَمِّ تَرْبَةِ اَحْمَدَ ☆ اَنْ لَا يَشْمَ مَدَى الزَّمَانِ عَوَالِيَا  
صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَابُ لَوْ اَنْهَا ☆ صُبَّتْ عَلَيَّ الْاَلَامُ عُدُنْ لِيَا لِيَا

ترجمہ: محمد ﷺ کی قبر شریف کی مٹی سوگھنے والا اگر مدہوش ہو کر پھر عمر پھر کچھ سوگھنے

﴿ اللہ سے شرم کھینچے ﴾ ﴿ ۲۵۵ ﴾

کے قابل نہ رہے تو اس میں حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ اس حادثہ سے میرے اوپر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ ایسی مصیبت اگر دنوں پر نازل ہوتی تو وہ اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ (اشرف السائل ۵۸۷)

اللہ مدینہ کا یہ معمول تھا کہ جب کسی مصیبت زدہ کو تسلی دینی ہوتی تو نبی اکرم ﷺ کا حادثہ وفات اسے یاد دلایا جاتا، جس کے تصور کے بعد اپنی ہر مصیبت اور تکلیف آسان معلوم ہونے لگتی۔ اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور پوری امت کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین وصلى الله على سيد المرسلين سيدنا و مولانا محمد و على آله و اصحابه اجمعين۔

## امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی وفات

امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی افضل ترین شخصیت اور آنحضرت ﷺ کے محبت و محبوب رفیق، خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سبب وفات کے بارے میں متعدد حضرات نے لکھا ہے کہ دراصل آپ کو سرور کائنات، فخر موجودات، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ ﷺ کی وفات کا اس قدر صدمہ تھا کہ آپ اندر ہی اندر کھٹتے رہے۔ اور برابر لاغر و نحیف اور کمزور ہوتے چلے گئے، اور یہی اندرونی کڑھن اور تکلیف آپ کی وفات کا سبب بنی۔ آپ نے مرض الوفا میں اکابر اصحاب الرائے صحابہ کے مشورہ سے اپنے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ متعین فرمایا اور اس پر بیعت لی اور جب یہ کام بخیر و خوبی انجام پا گیا تو آپ نے بارگاہ ایزدی میں یہ دعا فرمائی:

”اے اللہ! میں نے جو کام کیا ہے اس سے میرا مقصود صرف مسلمانوں کی اصلاح ہے۔ میں نے فتنہ کے ڈر سے جو کچھ کیا اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے اس معاملے میں اپنی رائے سے اجتہاد کیا ہے اور اپنی دانست میں مسلمانوں میں سب سے بہتر، طاقتور، اور نیکی پر حریص شخص کو ان پر حاکم بنایا ہے۔ میں آپ کے حکم سے اس دنیائے فانی کو چھوڑ رہا ہوں، آپ ان میں میری طرح کے خیر خواہ لوگ پیدا فرمائیے، مسلمانوں کے حکام

کو صلاحیت سے نوازا دیجئے اور عمر بن الخطابؓ کو خلفاء راشدین میں داخل فرمائیے۔ اور ان کی رعایا کی اصلاح فرمائیے۔

آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اپنے مشفق والد ماجد کی مایوس کن بیماری سے سخت پریشان تھیں جب عیادت کے لئے تشریف لائیں تو آپ کی تکلیف دیکھ کر بے قراری والے اشعار پڑھا کرتیں، حضرت ابو بکرؓ یہ جواب دیتے، کہ بیٹی! یہ اشعار مت پڑھو بلکہ یہ آیت پڑھو:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ (سورہ قق ۱۹)

اور وہ آئی موت کی بے ہوشی، تحقیق یہ وہ ہے جس سے تو لٹا رہتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وفات سے قبل حضرت عائشہ سے فرمایا کہ بیٹی! مجھے میرے ان مستعمل کپڑوں ہی میں کفن دینا اور آج پیر کا دن ہے اگر میرا رات تک انتقال ہو جائے تو میرے دفن میں گل کا انتظار نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جتنی جلدی پہنچ جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ (تاریخ الخلفاء ۱۰۲، ۱۰۶)

اور یہ بھی مشہور ہے کہ وفات کے وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ دعا جاری تھی:

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ (یوسف آیت ۱۰۱)

موت دے مجھ کو اسلام پر، اور ملا مجھ کو نیک بخونوں میں۔

اس دعا کے بعد آپ رحلت فرما گئے۔ (مشاہیر کے آخری کلمات ۱۲)

رضی اللہ عنہ، ہوا رضاه۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة

حضرت سعید بن المسیبؓ سے مروی ہے کہ جب سیدنا حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی حالت دگرگوں ہے اس لئے ہمیں کسی فہمجت سے سرفراز فرمائیے تو حضرت نے فرمایا: کہ جو شخص درج ذیل دعائیں پڑھے گا اور پھر اسے موت آجائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو افاق مبین میں جگہ عطا کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ افاق مبین کیا ہے؟ تو آپ نے

فرمایا کہ وہ عرش خداوندی کے سامنے ایک میدان ہے جس میں باغیچے، ٹہریں اور درخت ہیں۔ وہ کلمات دعا یہ ہیں۔

اے اللہ! آپ ہی نے سب مخلوقات کو پیدا فرمایا جبکہ آپ کو ان کی پیدائش کی مطلق ضرورت نہ تھی، پھر آپ نے مخلوقات کے دو حصے فرمائے ایک حصہ جنتی اور ایک حصہ جہنمی ہے۔ لہذا مجھے جنتی بنائیے جہنمی نہ بنائیے!

اے اللہ! آپ نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی انہیں شقی یا سعید بنانے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ لہذا میری بد عملیوں کے سبب شقی مت بنائیے۔

اے اللہ! آپ پیدائش سے پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ کون کیا کرے گا۔ پس مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائیے جن کو آپ نے اپنی اطاعت میں لگے رہنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اے اللہ! کوئی شخص کچھ نہیں چاہ سکتا جب تک آپ نہ چاہیں، پس میری چاہت صرف یہ بنا دیجئے کہ میں وہی چاہوں جو مجھ کو آپ کا قرب عطا کر دے۔

اے اللہ! بندوں کی ہر حرکت آپ کی اجازت کی محتاج ہے پس میری نقل و حرکت اپنے تقویٰ کے مطابق کر دیجئے۔

اے اللہ! آپ نے خیر و شر کو پیدا کر کے ہر ایک کے عامل الگ الگ مقرر کئے ہیں۔ پس مجھے خیر کی توفیق والے لوگوں میں شامل کر دیجئے۔

اے اللہ! آپ نے جنت اور جہنم کو بنا کر ہر ایک کے الگ الگ بسانے والے افراد مقرر کئے ہیں۔ مجھے جنت کے مکینوں میں شامل فرما دیجئے۔

اے اللہ! آپ نے بعض لوگوں کے لئے ضلالت اور گمراہی مقرر کر رکھی ہے جن کو اسلام پر شرح صدر نصیب نہیں۔ پس مجھے اسلام اور ایمان پر شرح صدر عطا فرمائیے اور اس کو میرے دل میں مزین فرما دیجئے۔

اے اللہ! آپ ہی نظام کائنات کے مدبر ہیں۔ پس مجھے ایسی بہترین زندگی عطا فرمائیے جو آپ کے تقرب سے مالا مال ہو۔

اے اللہ! بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ صبح شام ان کو آپ کے علاوہ پر بھروسہ ہے۔ مگر میرا مکمل اعتماد، امید اور ہر طرح کی نصرت صرف اور صرف آپ ہی کی ذات سے وابستہ ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ یہ سب کتاب اللہ سے ماخوذ ہیں (اور جو یہ جذبات رکھے گا اس کو افاقِ بسین سے نوازا جائے گا) (کتاب المعاملات ج ۱ ص ۱۳)

## امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظمؓ کی

### وفات کے وقت ہوشمندی

آنحضرت ﷺ کے چہیتے اور منہ مانگے صحابی جلیل، اسلام کے عظیم ترین ستون، تاریخِ اسلامی کے درخشندہ ستارے امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظمؓ نے وفات سے قبل جس ہوشمندی، اور امت کے لئے فکر مندی کی تاریخ رقم فرمائی ہے وہ بجائے خود تاریخ کا ایک زریں باب ہے۔ آپ کو ایک مجوسی غلام "ابولولو" نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے نیزے سے شدید زخمی کر دیا تھا، آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا، مدینہ میں کھلی میچ گئی۔ لوگوں کی شدید خواہش تھی کہ آپ صحت یاب ہو جائیں لیکن جب آپ کو دودھ اور نیبذ پلائی گئی اور وہ پیٹ کے زخم سے باہر نکل گئی تو یہ یقین ہو گیا کہ اب آپ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ چنانچہ لوگ آپ کی عیادت کے لئے آتے اور آپ کی شاندار خدمات پر خراجِ تحسین پیش کرتے۔ اسی دوران ایک نوجوان نے بھی آ کے آپ سے یہ خطاب کیا:

"امیر المؤمنین خوشخبری قبول فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنحضرت ﷺ کا صحبت شرف عطا کیا۔ پھر اسلام میں سبقت سے نوازا، پھر جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھائی، اور اب آپ مرتبہ شہادت سے نوازے جا رہے ہیں۔"

یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا: "میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان سب نعمتوں کے ساتھ بھی حساب کتاب برابر برابر ہو جائے تو بسا غنیمت ہے۔" ابھی وہ نوجوان واپسی کے لئے



مڑا ہی تھا کہ حضرت عمرؓ کی نظر اس کے تہہ بند پر پڑی جو ٹخنے کے نیچے لٹک رہا تھا آپ نے فوراً اسے واپس بلایا، اور کہا: پیارے! اپنا کپڑا اوپر رکھا کرو یہ تمہارے کپڑے کے لئے صفائی کا باعث ہے اور تمہارے پروردگار سے تقویٰ کا ذریعہ ہے۔" یہ ہے ہوشمندی! کہ اس تکلیف اور اذیت کی حالت میں بھی نہیں عن المنکر کا کام جاری ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے فرمایا: "دیکھو میرے اوپر کتنا قرض ہے؟ چنانچہ حساب لگانے سے پتہ چلا کہ تقریباً ۸۶ ہزار درہم قرض ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اولاً میرے اہل خاندان سے لے کر یہ رقم ادا کی جائے، اگر پوری نہ ہو تو میرے قبیلے بنی عدی سے وصول کی جائے۔ اور اگر ان سے بھی پوری نہ ہو تو قریش سے سوال کیا جائے۔ اور ان کے علاوہ کسی سے نہ مانگا جائے۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے فرمایا کہ "ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر میرا سلام عرض کرو اور یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین نے سلام عرض کیا ہے بلکہ یہ کہنا کہ عمر نے سلام کہا ہے (تاکہ کوئی جبر نہ ہو) اور کہنا کہ عمر آپ سے اس بات کی اجازت طلب کرتا ہے کہ وہ آپ کے حجرہ میں اپنے ساتھیوں (آنحضرت ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ) کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حسب الحکم یہ پیغام ام المؤمنین رضی اللہ عنہا تک پہنچا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگرچہ میں خود یہاں دفن ہونا چاہتی تھی لیکن اب میں اپنے اوپر حضرت عمرؓ کو ترجیح دیتی ہوں، یعنی ان کو دفن کی اجازت ہے۔ حضرت عمرؓ جواب کے منتظر تھے۔ جب حضرت عبداللہؓ واپس آئے تو فرمایا کہ "کیا خبر لائے؟" حضرت عبداللہؓ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی مراد پوری ہوئی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اجازت مرحمت فرمادی۔ خوشخبری سن کر حضرت عمرؓ کی زبان سے بے ساختہ حمد و ثنا کے کلمات صادر ہوئے اور فرمایا کہ "اس سے زیادہ اہم اور کوئی چیز میرے لئے نہیں تھی" پھر فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو مجھے اٹھا کر حجرہ عائشہ تک لے جانا اور پھر میرا نام لے کر اجازت طلب کرنا، اگر اجازت دے دیں تو وہاں دفن کرنا ورنہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے

﴿ اللہ سے شکر کہنے ﴾

بعد خلافت کے انتخاب کے لئے سات اکابر صحابہؓ پر مشتمل ایک مجلس شوریٰ بنائی جس میں گو کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی شامل تھے مگر ان کے متعلق آپ نے صراحت کر دی تھی کہ انہیں امیر المؤمنین نہیں بنایا جاسکتا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جانشین کو درج ذیل وصیتیں فرمائیں۔

(۱) مہاجرین اولین کے حقوق کی ضمانت اور ان کی عزت و حرمت کا لحاظ رکھا جائے۔ (۲) انصار مدینہ کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کے نیک عمل لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو، اور بد عمل افراد سے درگزر کا معاملہ کیا جائے۔ (۳) دیگر شہری آبادیوں کے ساتھ بھی بھلائی کا برتاؤ کیا جائے۔ اس لئے کہ وہ اسلام کے معاونین، مال جمع کرنے والے اور دشمنوں کے لئے غیظ و غضب کا باعث ہیں (کہ ان کی تعداد سے دشمن خوف کھاتا ہے) ان لوگوں سے ان کی رضامندی سے صرف ضرورت سے زائد مال ہی لیا جائے۔ (۴) اور مملکت کے دیہات میں رہنے والوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے۔ اس لئے کہ وہ عرب کی اصل اور اسلام کی بنیاد ہیں، ان سے ان کا ضرورت سے زائد مال لے کر ان کے ہی فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ (۵) اور دشمنوں کے ساتھ بھی رعایت کا معاملہ کیا جائے۔ ان کے عہد کی پاسداری کی جائے ان کے دشمنوں سے جنگ کی جائے اور ان کی وسعت سے زیادہ کا انہیں مکلف نہ بنایا جائے۔ (یعنی طاقت سے زیادہ نہ وصول کیا جائے)

ان ہدایات کے بعد آپ نے جان جاں آفریں کے سپرد کر دی۔

(بخاری شریف ۱/۵۳۳، ۵۳۴)

اللہ اکبر! بیدار مغزی کی کیا شان ہے؟ کہ اخیر تک اُمت کی فکر ہے، اور ایک ایک جزئیہ پر نگاہ ہے۔ اور ایک ایک ہدایت پیش نظر ہے۔ بے شک آپ نے خلافت نبوت کا حق ادا کر دیا، بخاری شریف ہی کی ایک دوسری روایت ہے کہ جب زخم سے آپ کی تکلیف زیادہ بڑھی تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ خدمت میں حاضر ہوئے اور تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، کہ الحمد للہ آپ کو جناب رسول اللہ ﷺ کی حسن رفاقت نصیب ہوئی اور جب آپ

ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ آپ سے راضی تھے، اسی طرح خلیفہ اول حضرت صدیق اکبرؓ اور ان کے بعد دیگر صحابہؓ کی معیت بھی آپ کو نصیب رہی اور آپ نے سب کا حق ادا کر دیا اب اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو وہ سب صحابہؓ آپ سے راضی ہوں گے (یہ آپ کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے) یہ سن کر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، کہ "آپ نے آنحضرت ﷺ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جس رفاقت کا ذکر کیا ہے وہ محض فضل خداوندی ہے جو مجھ پر ہوا۔ آج جو آپ مجھے تکلیف میں دیکھ رہے ہیں وہ دراصل آپ اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے بارے میں ہے (کہ میری وفات سے فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا جیسا کہ دوسری حدیث میں وارد ہے) اور اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین کی وسعت کے برابر سونا ہوتا تو میں آج اسے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لئے فدیہ میں دے دیتا۔ (بخاری شریف ۵۸۱۱) یعنی اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت غالب ہے۔"

اور ایک روایت میں ہے کہ وفات کے وقت آپ کا سر مبارک آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنی گود میں رکھ لیا تو آپ نے باصرار اسے زمین پر رکھوایا اور اپنے رخساروں کو مٹی سے آلودہ کرتے ہوئے فرمایا: "عمرؓ اور اس کی ماں کی بڑی خرابی ہے اگر عمرؓ کی مغفرت نہ ہو" پھر صاحبزادے سے فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے تو کفن دفن میں جلدی کرنا۔ (مکتاب العاقبۃ ۶۳)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی نعش مبارک چارپائی پر رکھی تھی اور میں وہیں قریب میں کھڑا تھا کہ ایک شخص نے اپنی کہنی میرے کندھے پر رکھ کر حضرت عمرؓ کی طرف رخ کر کے یہ کہنا شروع کیا!

"اے عمر! اللہ تم پر مہربان ہو! مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر بھی تمہارے دونوں ساتھیوں (حضور اکرم ﷺ اور صدیق اکبرؓ) کے ساتھ فرمائے گا۔ اس لئے کہ میں بہت کثرت سے آنحضرت ﷺ کی زبان اقدس سے یہ کلمات سنا کرتا تھا کہ میں اور ابو بکر و عمر

ہاں تھے، اور میں نے اور ابو بکر و عمر نے فلاں کام کیا، اور میں اور ابو بکر و عمر فلاں جگہ گئے۔ اس لئے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اب بھی آپ کو انہی دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو یہ خراج عقیدت پیش کرنے والے شخص سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے " (بخاری شریف ۵۱۹۱) واقعی کتنا شاندار خراج عقیدت اور کیسا لطیف اور بجا شاست انگیز استدلال ہے۔ ایسی موت پر بلاشبہ ہزاروں ہزار زندگیاں قربان ہیں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة۔

## امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمانؓ کی مظلومانہ شہادت

پیکرِ حلم و حیا و النورین امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمانؓ کو جب شر پسند باغیوں نے اپنے مکان میں محصور کر دیا اور ان باغیوں کو ہٹانے کی ہر ممکن کوششیں ناکام ہو گئیں جس سے حوصلہ پا کر یہ شقی القلب باغی آپ کے مکان کا دروازہ جلا کر اندر داخل ہو گئے تو اس خطرناک منظر کو دیکھ کر سیدنا حضرت عثمانؓ نے نماز کی نیت باندھ لی اور سورہ ظہر پڑھنی شروع کر دی آپ کے گھر پر باغی حملہ آور ہوتے رہے اور آپ پورے صبر و سکون کے ساتھ نماز میں مشغول رہے اور نماز سے فارغ ہو کر قرآن کریم کھول کر تلاوت فرمانے لگے اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری تھی۔

الَّذِينَ قَالُوا لَهُمْ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ  
اِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (آل عمران آیت ۱۷۳)

جن کو کہا لوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلے کے لئے سو تم ان سے ڈرو تو اور زیادہ ہو ان کا ایمان اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کار ساز ہے۔

اس دوران ایک شخص آپ پر حملہ آور ہوا اور اس قدر شدت سے آپ کا گلہ گھونٹا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی اور سانس لینے میں تکلیف محسوس ہونے لگی ابھی اس نے چھوڑا ہی تھا کہ دوسرا اور تیسرا آدمی آگے بڑھا اور اس نے تلوار سے آپ پر وار کیا آپ نے اپنے

﴿ اللہ سے شکر کہجئے ﴾ ﴿ ۲۶۳ ﴾

ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کی جس سے ہاتھ کٹ گیا اور خون کا سب سے پہلا قطرہ قرآن کریم کی اس آیت پر پڑا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (البقرہ ۱۴) (سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، اور وہی ہے سننے والا اور جاننے والا) اپنے ہاتھ کو کٹنا دیکھ کر آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ یہی وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کریم کی مفصل سورتیں لکھیں۔ پھر ایک اور شخص جس کا نام سودان بن حمران تھا نگلی تلوار لہراتا ہوا سامنے آیا اور اس خبیث نے تلوار آپ کے پیٹ میں اتار دی اور آپ اس حال میں سرخرو ہو کر بارگاہ ایزدی میں حاضر ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔ (البدایہ و النہایہ ۲۰۱/۲)

جب آپ خون میں لہو لہان تھے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعِينُكَ عَلَىٰ أَمْرِي مَا أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ عَلَىٰ بَلَائِي۔

(تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں کو تباہی کرنے والوں میں ہوں۔ اے اللہ! میں اپنے معاملے میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں، اور اپنی مصیبت پر صبر کی درخواست کرتا ہوں) (کتاب العاقبہ ۶۳)

بعض سلف سے منقول ہے کہ جو لوگ بھی حضرت عثمانؓ کے قتل میں شریک تھے وہ سب بعد میں مقتول ہوئے اور بعض نے یہ فرمایا کہ قاتلین میں سے ہر شخص پاگل ہو کر مرا۔ نعوذ باللہ من ذلك (البدایہ و النہایہ ۲۰۲/۲)

## شہادت کے وقت امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم

### اللہ وجہہ کی بیدار مغزی

شیر خدا، فاتح خیبر، امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب خبیث ابن ملجم نے شدید زخمی کر دیا اور آپ کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا، پھر آپ کو قیام گاہ پر لایا گیا اور زخم کی شدت کی وجہ سے زندگی سے ناامیدی ہو گئی تو آپ نے اپنے صاحبزادگان

## ﴿ اللہ سے شکر کہجئے ﴾

جو انانِ اہل جنت کے سردار، سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر خاص طور پر وصیت فرمائی۔ وصیت کے بعض اہم اجزاء یہ تھے۔

(الف) میں اپنے تمام صاحبزادگان اور جن تک بھی میری تحریر پہنچے اللہ رب العزت سے ڈرنے اور ایمان و اسلام ہی کی حالت پر مرتے دم تک قائم رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔

(ب) تم سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑے رہنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا اس لئے کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دو جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرانا نماز روزہ جیسی عبادات سے بھی افضل ہے۔

(ج) اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو ان پر صلہ رحمی کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر حساب کتاب آسان فرمائے۔

(د) تیسوں کے بارے میں اللہ سے خوب ڈرتے رہنا تمہاری موجودگی میں ان کے چہروں پر پڑ مرگی نہ ہو اور تمہارے رہتے ہوئے وہ برباد نہ ہونے پائیں۔

(ہ) پڑوسیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کیوں کہ ان کے حقوق سے متعلق آنحضرت ﷺ ہمیں اس قدر تاکید فرماتے رہے، کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ آپ پڑوسیوں کو ہماری وراثت میں شریک قرار دے دیں گے۔

(و) اور قرآن کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ خبردار! اس پر عمل کرنے میں کوئی دوسرا تم سے سبقت نہ لے جائے۔

(ز) حج بیت اللہ، ماہ رمضان کے روزوں اور زکوٰۃ کا اہتمام رکھنا اور اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرتے رہنا۔

(ح) حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کا لحاظ کرنے کی وصیت فرمائی۔

(ط) فقراء اور مساکین کو دیتے دلاتے رہنا اور عورتوں اور باندیوں کا خیال رکھنا۔

(ی) دینی معاملے میں کسی کے طعنے کی پرواہ مت کرنا ان شاء اللہ تمہارے بدخواہوں کی

طرف سے اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے گا۔

(ک) لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مت چھوڑنا اور نہ تو بدترین لوگ تم پر حکمران ہو جائیں گے پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔

(ل) اچھی باتوں پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا اور ظلم و عدوان کے کاموں میں شریک نہ رہنا اور اللہ سے برابر ڈرتے رہنا۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس کے بعد آپ برابر کلمہ طیبہ کا ورد فرماتے رہے اور اسی حالت میں وفات پائی اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی زبان پر سب سے آخر میں یہ آیت جاری تھی۔

”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“ (سورہ زلزال آیت ۷: ۸)۔ (سو جس نے کی ذرہ بھر بھلائی وہ دیکھ لے گا اسے۔ اور جس نے کی ذرہ بھر برائی وہ دیکھ لے گا اسے۔) (البدایہ والنہایہ ۱/۳۵۰، ۳۰۱ رضی اللہ عنہ و کرم اللہ وجہہ۔

## سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ

۶:- ریحانہ الرسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب خطرناک قسم کا زہر پلایا گیا اور آپ کی حالت غیر ہونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے باہر محن کی طرف لے چلو، میں اللہ کی قدرت میں غور کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ حاضرین نے آپ کا بستر باہر بچھادیا، تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا۔ کہ اے اللہ! میں اپنی جان کو تیرے نزدیک مستحق ثواب سمجھتا ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہے (اللہ نے آخری وقت میں آپ کو اپنی پاکیزہ زندگی پر رحمت خداوندی کی بھرپور امید کی نعمت عطا کر دی تھی) اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ کی تکلیف شدید ہوئی اور آپ اس کا اظہار کرنے لگے تو آپ کے چھوٹے بھائی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تشریف لا کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ بھائی جان اس تکلیف کی کیا حیثیت ہے؟ بس آپ کے بدن سے روح نکلنے کی دیر ہے کہ ابھی آپ اپنے والدین ماجدین حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اور اپنے نانا

جان حضور اکرم ﷺ اور اپنی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور اپنے چچا حضرت حمزہ اور حضرت جعفر اور اپنے ماموں حضرت قاسم، حضرت طیب، مطہر اور ابراہیم اور اپنی خالائیں حضرت رقیہ، ام کلثوم، اور زینب سے ملاقات کرنے والے ہیں، تسلی کے یہ الفاظ سن کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا احساس تکلیف کم ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ پیارے بھائی بات یہ ہے کہ میں اس وقت اس مرحلہ میں داخل ہو رہا ہوں جس کا پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا اور میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جن کو آج تک کبھی نہیں دیکھا یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر گریہ طاری ہو گیا۔ (رضی اللہ عنہ وارضاه۔) (البدایہ والنہایہ ۷/۳۳۳)

## سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت

۷۔ نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے ظالم حملہ آوروں کی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا "کیا تم میرے قتل کے درپے ہو؟ اللہ کی قسم تم میرے بعد اللہ کے کسی ایسے بندے کو قتل نہ کر سکو گے جس کا قتل میرے مقابلے میں اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ موجب عذاب ہے، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر کے مجھے عزت عطا کرے گا پھر میری طرف سے تم سے اس طرح انتقام لے گا کہ تمہیں احساس بھی نہ ہونے پائے گا، قسم بخدا اگر تم نے مجھے مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ اس کا سخت عذاب تمہارے اوپر نازل کرے گا اور اس کے بدلے میں خوزیری عام ہوگی پھر اس وقت تک تم سے راضی نہ ہوگا جب تک کہ تمہیں بدترین دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔"

آپ کی اس پراثر تقریر کے بعد گو کہ آپ کے خاندان کے تیئیس افراد غازیہ شہادت سے جج سنور کر بارگاہ ایزدی میں حاضر ہو چکے تھے لیکن کوئی مخالف فوجی آپ پر حملہ کی جسارت نہ کر پاتا تھا، تا آنکہ بد بخت کمانڈر شمر بن ذی الجوشن کے لاکار نے پر زرعہ بن شریک اور سان بن انس نام کے دو شقی القلب ظالموں نے انتہائی مظلومانہ حالت میں آپ کو شہید کر کے اپنی ذلت پر مہر لگالی۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ (البدایہ والنہایہ ۷/۵۸۵)



## حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی وفات

۸۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے صاحبزادے مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ جب میرے والد محترم (حضرت سعدؓ) کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، میں بے اختیار رونے لگا تو آپ نے فرمایا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے میرا رب کبھی عذاب نہ دے گا، میں جنتی لوگوں میں ہوں (اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی اور عشرہ مبشرہ میں آپ سب سے اخیر میں وفات پانے والے ہیں) بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا خود بدلہ عطا فرمائے گا جب کہ کفار کی نیکیوں کے عوض ان کا عذاب کچھ ہلکا کر دے گا اور جب نیکیاں باقی نہ بچیں گی تو ان سے کہا جائے گا اب اپنے اعمال کے ثواب کا مطالبہ ان مجبوران باطلہ سے کرو جن کے لئے تم عبادتیں کیا کرتے تھے۔ (المہذب واللمہذب ۱/۴۷۱)

## وفات کے وقت حضرت ابو ہریرہؓ کا حال

۹۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ رونے لگے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ تو شے کی کمی اور طویل سز کی شدت سے، اور میں ایک گھائی میں اترنے کے قریب ہوں جو یا تو جنت جائے گی یا جہنم تک اور مجھے ابھی یہ معلوم نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ (کتاب المہذب ۱/۲۵۲) اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ مدینہ کے گورنر مروان بن الحکم مرض الموت میں آپ کی عیادت کو گئے اور کہا کہ ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء عطا کرے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ دعاء مانگی: اللہم انی احب لقاءک فاحب لقاءى۔ (اے اللہ میں تیری ملاقات پسند کرتا ہوں لہذا تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما۔) راوی کہتا ہے کہ ابھی مروان مڑ کر بازار بھی نہ پہنچے تھے کہ اطلاع ملی کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی رحلت ہو گئی ہے رضی اللہ عنہ وارضاه

(المہذب واللمہذب ۱/۲۵۰-۲۵۱)

## فقہ امت خادم رسول حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ

۱۰۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے مدینہ منورہ میں ملاقات کی اور کہا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ آنحضرت ﷺ ایک سفید منبر پر تشریف فرما ہیں، اور آپ ان کے نیچے ہیں، اور حضور اکرم ﷺ آپ سے فرما رہے ہیں کہ ابن مسعود! میرے پاس آ جاؤ کیونکہ میرے بعد تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، حضرت ابن مسعودؓ نے اس شخص سے خواب کی تصدیق کی اور فرمایا کہ تم سے وعدہ ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھے بغیر مدینہ منورہ سے مت جانا۔ چنانچہ چند ہی دن کے بعد آپ کے وصال کا حادثہ پیش آ گیا۔

مرض الوفات میں امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنیؓ آپ کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ کو کیا مرض ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے گناہوں کا۔ پھر پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے رب کی شفقت اور رحمت کی۔ پھر حضرت عثمانؓ نے فرمایا کیا ہم آپ کے لئے وظیفہ جاری کر دیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیوں کے لئے کافی ہوگا، آپ نے جواب دیا کہ آپ کو میری بیٹیوں کے فقر و فاقہ کا کیا خطرہ ہے، میں نے اپنی بیٹیوں سے تاکید کر رکھی ہے کہ وہ روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ اس لئے کہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنالے تو کبھی بھی وہ فقر و فاقہ کا شکار نہ ہوگا۔ (مسند اللہ ۳/۲۵۵، ۲۸۶)

## سپہ سالار اعظم حضرت خالد بن الولیدؓ

۱۱۔ مشہور اسلامی سپہ سالار حضرت خالد بن الولید سیف اللہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو بڑی حسرت سے فرمایا کہ میں میدان جنگ میں بارہا شہادت تلاش کرتا رہا مگر میری یہ آرزو پوری نہ ہو سکی، اب میں اپنے بستر پر سفر آخرت کو جانے کے لئے تیار ہوں اور میرے پاس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے مقبول اور پر امید عمل خیر جنگ کی وہ

﴿ اللہ سے شکر کہجئے ﴾ ﴿ ۲۶۹ ﴾

اندھیری رات ہے جب میں ہتھیار باندھ کر تیز بارش کے اندر صبح تک کھڑا رہا اور صبح کے وقت اچانک کفار پر حملہ کر دیا پھر فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے تو میرے ہتھیار اور میرا گھوڑا سب اللہ کے راستے میں وقف کر دینا۔ رضی اللہ عنہ وارضاهم الباری والہدیہ (۱۲۳/۷)

## حضرت معاذ بن جبلؓ کو وفات کے وقت جنت کی بشارت

۱۲۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے کا طاعون عمواس کے میں انتقال ہو گیا جس پر آپ نے مکمل صبر کیا پھر آپ خود طاعون میں مبتلا ہو گئے جس پر آپ نے فرمایا کہ دوست فقرو وفاقہ کے زمانے میں آیا ہے جو نام ہے وہی کامیاب ہے، (یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کیا) راوی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے رب نے میری بہترین تعزیت کا انتظام کیا ہے، میرے پاس میرے بیٹے کی روح آئی ہے اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ آنحضرت ﷺ ملائکہ مقررین، شہداء و صالحین کی سو صفوں کے ساتھ میری روح کے لئے دعاء رحمت کر رہے ہیں اور مجھے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو سب نے دیکھا گویا کہ آپ لوگوں سے مصافحہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو میں ابھی تمہارے پاس آیا ہوں، پھر آپ رحلت فرما گئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه (شرح الصلوة ۱۲۰)

## مؤذن رسول حضرت بلال حبشیؓ کا وفات کے وقت ذوق و شوق

۱۳۔ مؤذن رسول سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ان کی اہلیہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا: وَاحْزَنَانَا (ہائے افسوس آپ جا رہے ہیں) تو آپ نے جواب دیا: وَاطْرَبْنَا غَدًا نَلْقَى الْأَجِيَّةَ مُحَمَّدًا وَحَزْبَهُ (کتنے روز کی بات ہے کل ہم اپنے دوستوں یعنی حضرت محمد ﷺ اور آپ کے ساتھیوں سے ملنے والے ہیں)۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔ (کتاب العاقبة، مشاہیر کے آخری کلمات ۳۳)

## حضرت ابو طلحہ حسنیؓ کی سجدہ کی حالت میں وفات

۱۳۔ حضرت ابو طلحہ حسنیؓ بڑے مشہور صحابی ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ مجھے مرتے وقت اس طرح کی شدت پیش نہ آئے گی جیسے عام لوگوں کو پیش آتی ہے چنانچہ ان کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ وہ ایک دن درمیانی رات میں تہجد کی نماز پڑھنے میں مشغول تھے نماز کے دوران ہی سجدے کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، اسی وقت آپ کی ایک صاحبزادی نے خواب دیکھا کہ آپ وفات پا چکے ہیں وہ گھبرا کر اٹھی اور دوڑی ہوئی آپ کے محلے تک آئی اس نے آپ کو آواز دی لیکن جواب نہ دارو، جا کر دیکھا تو سجدے کی حالت میں ہی آپ کی روح قبض ہو چکی تھی۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔

(الاصحابہ ۱/۵۱)

## حضرت ابوشیبہ خدریؓ کا آخری کلام

۱۵۔ صحابی رسول حضرت ابوشیبہ خدری رضی اللہ عنہ اس فوج میں شامل تھے جس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر رکھا تھا ایک دن آپ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے آواز دی تو بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اس وقت آپ نے اپنے چہرہ مبارک پر پردہ ڈال رکھا تھا اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ جو مجھے جانتا ہو وہ جان لے کہ ابوشیبہ خدری حضور اکرم ﷺ کا صحابی ہوں اور میں نے خود جناب رسول اللہ ﷺ سے یہ ارشاد سنا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے ایک ہونے کے اخلاص کے ساتھ گواہی دے وہ جنت میں داخل ہوگا لہذا اعمال صالحہ کرتے رہو اور بھروسہ کر کے نہ بیٹھو یہ حدیث سنا کر آپ وہیں وفات پا گئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه (الاصحابہ ۱/۷۱)

## حضرت عمرو بن العاصؓ رب واحد کے حضور میں

۱۶۔ مشہور اسلامی سپہ سالار صحابی طویل حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

وفات کے وقت بارگاہ ایزدی میں دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ یہ کلمات ارشاد فرمائے، "بارالہا! تو نے حکم دیا اور ہم نے حکم عدولی کی، اے اللہ! تو نے منع کیا اور ہم نے نافرمانی کی، رب کریم! میں بے تصور نہیں ہوں کہ معذرت کروں اور طاقت ورنہیں ہوں کہ غالب آجاؤں، اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوگی تو ہلاک ہو جاؤں گا"۔ اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور جان جاں آفریں کے سپرد کر دی۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔ (مشاہیر کے آخری کلمات)

اور ایک روایت میں ہے کہ انتقال کے وقت آپ نے اپنے لشکر کے کمانڈروں اور محافظوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ کیا تم سب مل کے مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ سب نے کہا نہیں "نہیں" تو آپ نے فرمایا سب واپس چلے جاؤ۔ پھر آپ نے پانی منگا کر وضو فرمایا اور قبلہ رخ ہو کر مذکورہ دعا مانگی، اور آخر میں آیت کریمہ: لا الہ الا انتْ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ مُنْتَظِرٌ پڑھتے ہوئے وفات پائی۔ (مخاب العالیہ ۶۳)

## بوقت وفات حضرت امیر معاویہ کی اثر انگیز دعا

۱۷۔ آنحضرت ﷺ کے برادر نسیبی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے سگے بھائی کا تب وحی، اسلام کے نامور فاتح اور عظیم المرتبت امیر، سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کے وقت حال یہ تھا کہ روتے ہوئے اپنے رخساروں کو زمین پر لٹتے پلٹتے تھے اور زبان پر عاجزی کے ساتھ یہ کلمات جاری تھے کہ "اے اللہ! آپ نے اپنی کتاب میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرتا لیکن بقیہ گناہوں کو اگر چاہے تو معاف کر دیتا ہے لہذا اے رب کریم مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن کی مغفرت کا تو نے ارادہ کیا ہے۔"

پھر یوں ارشاد فرمائے ہوئے کہ "اے اللہ! غلطی سے درگزر فرما، کوتاہی سے صرف نظر فرما اور اپنی صفت حلم کی بدولت اس شخص کی جہالت کو معاف فرما جو تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا، بے شک تو وسیع الشان مغفرت والا ہے، کسی بھی غلط کار کے لئے

تیرے علاوہ کوئی جائے عاقبت نہیں ہے۔"

پھر آپ وفات پاگئے۔ رضی اللہ عنہ وأرضاه (البدایہ والنہایہ ۴/۵۳۸)

## سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی المناک شہادت

۱۸۔ صحابی جلیل خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کو جب حجاج کی ظالم فوج نے مکہ معظمہ میں ہر چہار جانب سے محصور کر دیا اور مکہ میں رہنے والے اکثر لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر عاجز آ کر حجاج کے دامن میں پناہ گزین ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے دو صاحبزادوں نے بھی حجاج کی امان میں جانا قبول کر لیا تو یہ یاس انگیز حالات دیکھ کر حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اپنی والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے جو اس وقت بڑھاپے کے باعث نابینا ہو چکی تھیں، آپ نے والدہ محترمہ سے عرض کیا کہ لوگ انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں حتیٰ کہ اپنی کی سگی اولاد بھی اس نازک وقت میں داغ مفارقت دے چکی ہے اور بہت ہی تھوڑے سے لوگ اس وقت ان کے ساتھ بچے ہیں جن کو شدید محاصرہ کی وجہ سے کچھ دیر بھر کرنا بھی دو بھر ہے۔ دوسری طرف حجاج کے لوگ مجھے دنیا کا لالچ دلا کر مقابلہ سے دستبردار ہونے کو کہہ رہے ہیں تو اماں جان! اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی اور ماں ہوتی تو بیٹے کو جان بخشی کی راہ اپنانے کا مشورہ دیتی لیکن اس بوڑھی ماں کی قوت ایمانی کی داد دیجئے کہ انہوں نے اپنے مجاہد بیٹے کو اس طرح خطاب کیا "بیٹے تم اپنے بارے میں زیادہ واقف ہو اگر تمہیں یقین ہے کہ تم حق پر ہو اور حق ہی کی دعوت دینے آئے ہو تو اپنے اس موقف پر ثابت قدم رہو جس پر تمہارے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ اور تم اپنے آپ کو حجاج کے امان میں دے کر اپنے کو بنی امیہ کے بچوں کے ہاتھ کا کھلونا مت بناؤ۔ اور اگر تم یہ جانتے ہو کہ تم نے محض دنیا کے لئے یہ سب کچھ محنت کی ہے تو تم سے برا آدمی کوئی نہیں تم نے نہ صرف اپنے کو ہلاکت میں ڈالا بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ بہر حال اگر تم حق پر ہو تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے تمہیں دنیا میں رہنا ہی کتنے دن ہے؟ شہید ہو جانا بہتر ہے۔"

بوڑھی ماں کی اس حوصلہ افزاء گفتگو پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس قدر مسرت ہوئی کہ بڑھ کر والدہ کی پیشانی چوم لی اور فرمایا کہ اماں جان اہم بخدا ہی میری بھی رائے ہے میں نہ دنیا کی طرف مائل ہوں نہ مجھے دنیا کی زندگی محبوب ہے میں نے تو صرف احکام خداوندی کی بقاء کے لئے اور دین کی پامالی پر اظہار غضب کے مقصد سے مقابلہ کا ارادہ کیا تھا اور میں آپ کے پاس صرف آپ کی رائے جاننے آیا تھا چنانچہ آپ نے میری بصیرت میں مزید اضافہ کیا اس لئے اماں جان سن لیجئے میں آج ہی شائد شہید ہو جاؤں گا اس لئے آپ زیادہ غم مت کیجئے گا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیجئے گا اس لئے کہ آپ کے بیٹے نے کبھی قصداً گناہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کوئی بے حیائی کا کام کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں جسارت کا ارادہ کیا تھا اور نہ کسی کو امان دے کر بے وفائی کی اور نہ اس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان یا ذمی کے ساتھ نا انصافی کا معاملہ کیا اور نہ ہی میں اپنے کسی مقرر کردہ گورنر کے کسی ظلم پر راضی ہوا بلکہ میں نے اس پر نکیر کی اور میرے نزدیک کوئی چیز رضائے خداوندی سے زیادہ قابل ترجیح نہیں رہی۔ اے اللہ میں یہ بات اپنے تزکیہ کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اے اللہ تجھے میری اور میرے علاوہ کی ہر حالت کا علم ہے میں نے یہ تفصیل صرف اپنی والدہ کی تعزیت اور ان کی تسلی کے لئے بیان کی ہے پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے کمال صبر کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کو دعائیں دیں اور چلتے ہوئے جب سینے سے چپٹا کر الوداع کہنے لگیں تو انہیں محسوس ہوا کہ عبداللہ بن زبیر لوہے کی زرہ پہنے ہوئے ہیں تو فرمایا بیٹے شہادت کے طلب گاروں کا یہ لباس نہیں ہوا کرتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اماں جان یہ میں نے صرف آپ کی خاطر داری اور تسکین قلب کے لئے پہنی تھی والدہ نے فرمایا اچھا اب اسے اتار دو چنانچہ آپ نے زرہ اتار دی اور والدہ سے آخری سلام لے کر مسجد حرام میں تشریف لائے پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ مسجد حرام پر بھیڑ لگائے ہوئے دشمن کے فوجیوں کو بار بار تتر بتر کرتے رہے۔ حجاج کی طرف سے لگائی گئی توپوں کے گولے برابر آپ کے ارد گرد گرتے رہے لیکن آپ اپنے بچے کھچے

﴿اللہ سے شرم کھینچنے﴾ ﴿۲۷۲﴾

ساتھیوں کو لے کر پوری استقامت کے ساتھ محاذ پر ڈٹے رہے۔ جمادی الاولیٰ ۷۳ھ کی سترہ تاریخ کی پوری رات آپ نے نماز میں گزار دی۔ پھر کچھ دیر آرام کر کے فجر کے لئے بیدار ہوئے اور فجر میں مکمل ترحیل کے ساتھ سورہ بن کی تلاوت فرمائی پھر آپ نے مختصر نبی خطبہ دیا اور آخری مقابلے کے لئے نکل پڑے اور اس زور سے محاصرین پر حملہ کیا کہ وہ مقام حقون تک واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے اس دوران ایک اینٹ آپ کے چہرے پر آ کر لگی جس سے پورا چہرہ خون میں تر ہو گیا اور آپ زخم کی تاب نہ لا کر زمین پر گر پڑے یہ دیکھ کر محاصر فوجی جلدی سے آپ کی طرف لپکے اور آپ کو شہید کر ڈالا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔  
رضی اللہ عنہ وأرضاه (البیہ والنہایہ ۸/۴۳۳، ۴۳۶)

شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے آپ کا سر مبارک کاٹ کر عبدالملک بن مروان کے پاس دارالخلافہ دمشق روانہ کر دیا اور بقیہ حصہ بدن سولی کے طور پر مقام حقون میں لٹکا دیا، والدہ ماجدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بڑے حال قدموں سے اپنے شہید بیٹے کی لاش دیکھنے آئیں۔ مگر اس حال میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا کافی دیر تک بیٹے کے لئے دعائیں کرتی رہیں، اور ان آنکھوں سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہ نکلا، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو اپنے دربار میں بلانے کی بہت کوشش کی مگر آپ نے صاف منع کر دیا، پھر مجبور ہو کر حجاج خود ہی آپ کے پاس آیا، اور کہنے لگا، دیکھا میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے پوری حاضر دماغی سے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ تو نے اگرچہ میرے بیٹے کی دنیا خراب کر دی مگر اس نے تو تیری آخرت تباہ و برباد کر دی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے کہ بنو ثقیف میں دو شخص پیدا ہوں گے ان میں سے ایک بڑا جھوٹا ہوگا اور دوسرا سخت خونریزی کرنے والا ہوگا، تو جھوٹے (مختار بن عبید) کو ہم نے دیکھ لیا اور خونریزی کرنے والا میرے خیال میں تو ہی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی یہ گفتگو سن کر حجاج سے کچھ جواب نہ بن پڑا اور واپس لوٹ آیا۔ (ملخص مسلم شریف ۳۱۲/۲، البیہ والنہایہ ۸/۴۳۵)



## سیدنا حضرت سلمان فارسیؓ کا وفات کے وقت حال

سیرنا حضرت سلمان فارسیؓ وفات کے وقت رونے لگے، پوچھا گیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: قسم بخدا میں موت کے ڈر یا دنیا کی رغبت کی وجہ سے نہیں رو رہا، بات یہ ہے کہ ہم سے آنحضرت ﷺ نے یہ عہد لیا تھا کہ "دنیا سے تمہارے تعلق بس اتنا ہونا چاہئے جتنا ایک مسافر کو توشہ سے ہوتا ہے" (اب یہ ڈر ہے کہ کہیں اس عہد کی پاسداری میں کوئی کوتاہی نہ ہوگئی ہو) مگر جب آپ کا ترکہ دیکھا گیا تو کل ۱۳۰ درہم نکلے جبکہ آپ اس وقت شہر مدائن کے گورنر تھے۔ (کتاب العاقبة ۶۴۱)

## حضرت عبادہ رضی اللہ عنہما کا آخری دم تک

### حدیث نبوی میں اشتعال

حضرت عبادہ بن صامتؓ کی وفات کے وقت ان کے قریب بیٹھا ہوا ایک شاگرد رونے لگا۔ تو آپ نے رونے سے منع فرمایا اور کہا کہ: "میں اللہ کے فیصلے پر دل و جان سے راضی ہوں" پھر فرمایا کہ "جنتی حدیثیں مجھے معلوم تھیں سب بیان کر دیں بس ایک رہ گئی" چنانچہ وہ حدیث بھی بیان فرمادی، (جس کا مضمون یہ ہے کہ ہر کلمہ جو جنت میں جائے گا) اس کے بعد روح نفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انالہ وانالہ راجعون۔ (مشاہیر کے آخری کلمات)

### حضرت انسؓ پر حالت رجا کا غلبہ

صحابی جلیل، خادم رسول سیدنا حضرت انسؓ نے وفات کے وقت حاضرین سے

ارشاد فرمایا:

"کل میدان محشر میں لوگ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کے ایسے نظارے دیکھیں

کے جو کسی انسان کے خواب و خیال میں بھی نہ آئے ہوں گے۔

یعنی آپ دنیا سے جاتے وقت اللہ کی رحمت سے ایسے پر امید تھے گویا آپ اپنی آنکھوں سے رحمت کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ (کتاب العاقبہ ۶۱)

## حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کو وفات کے وقت بشارت

مفسر قرآن سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کو بعد وفات کے بعد دفن کیا جانے لگا تو ایک نہایت حسین و جمیل اور بے مثال سفید پرندہ نما کوئی شئی آ کر آپ کے کفن کے اندر چلی گئی، اور پھر واپس نہ نکلی، عفان کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ پرندہ آپ کے علم و عمل (کی صورت مثالیہ) تھی، اور جب آپ کو قبر میں رکھا گیا تو کسی انجان شخص نے بلند آواز سے یہ آیت پڑھی، اور ایک روایت میں ہے کہ قبر سے یہ آواز آئی: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي مَوَدَّةً مُّحَلِّيَةً حَتَّىٰ۔

(الفجر آیت ۳۰-۳۲)

(اے اطمینان والی روح! تو اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی طرف چل، اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر ادھر چل کر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، اور میری جنت میں داخل ہو جا)۔ (البیہاق والنہایہ ۷۸)

## خليفة راشد سيدنا حضرت عمر بن عبدالعزيزؓ بارگاہ ذوالجلال میں

خليفة راشد سيدنا حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمۃ اللہ کو آپ ہی کے ایک آزاد کردہ غلام نے ایک ہزار دینار کی لالچ میں آ کر زہر دے دیا۔ آپ کو جب احساس ہوا تو اس غلام کو بلایا اور اس سے وہ دینار لے کر بیت المال میں داخل فرما دیئے، اور پھر کہا کہ بس اب تو جہاں چاہے بھاگ جا، اس لئے کہ اگر پکڑا گیا تو لوگ تجھے نہ چھوڑیں گے۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ اپنی اولاد (جن کی تعداد بارہ تھی) کے لئے کچھ وصیت فرما دیجئے (کہ ان کی زندگی وسعت و عافیت میں گزرے) تو آپ نے فرمایا: کہ "میرا گمراہ وہ خدا ہے جس

﴿ اللہ سے شروع کیجئے ﴾ ﴿ ۲۷۷ ﴾

نے کتاب نازل فرمائی اور وہی نیک لوگوں کا نگہبان ہے اور میں ان بچوں کو کسی دوسرے کا حق ہرگز نہ دوں گا، کیونکہ وہ دو حال سے خالی نہیں۔ اگر نیک صالح ہیں تو اللہ ان کا کارساز ہے اور اگر برے ہیں تو میں انہیں مال دے کر اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خود شریک نہیں ہونا چاہتا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سب اولاد کو بلا کر ان سے بھی براہ راست یہی بات کہی اور ان سے تسلی کے کلمات فرمائے۔ مرض الموت میں بعض حضرات نے آپ کو رائے دی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں تاکہ وفات کے بعد آپ کی تدفین آنحضرت ﷺ کے روضہ اقدس میں خالی جگہ میں ہو، تو آپ نے صاف فرمادیا کہ میں اپنے کو ہرگز اس جگہ کا اہل نہیں سمجھتا۔

پھر جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ مجھے بٹھا دو، لوگوں نے بٹھا دیا تو آپ نے تین مرتبہ یہ دعا فرمائی: "اے اللہ! میں ہی وہ ہوں جس کو تو نے حکم دیا اور میں نے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کی، اور تو نے مجھے (بہت سی باتوں سے) منع فرمایا مگر میں ان کا مرتکب ہو گیا، لیکن لا الہ الا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔"

پھر سر اٹھا کر ایک طرف تیز نظروں سے گھور کر دیکھا، لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں جو نہ تو جنات ہیں اور نہ انسان، پھر کچھ ہی دیر میں آپ کی وفات ہو گئی، انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ (البدایہ والنہایہ ملخصاً ۱/۲۳۶)

**امام اعظم حضرت امام ابوحنیفہؒ کی سجدہ کی حالت میں وفات**  
 خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے امام اعظم، عارف باللہ، حضرت امام ابوحنیفہؒ کو کوفہ سے بغداد بلایا اور قاضی بننے کی پیش کش کی۔ آپ کے انکار کرنے پر اس نے قید خانہ میں ڈلوادیا، اور ہر دن آپ کو باہر نکال کر نہایت بے دردی سے کوڑے لگائے جاتے جس سے آپ لہولہان ہو جاتے۔ دس دن تک برابر یہی عمل ہوتا رہا، پھر آپ کو زبردستی زہر پینے پر مجبور کیا گیا، چنانچہ ابھی قید خانہ میں رہتے ہوئے کل پندرہ دن ہی ہوئے تھے کہ آپ سختیوں کی تاب نہ لا کر اور زہر کے اثر سے سخت متاثر ہو کر ۷۰ سال کی عمر میں مظلومانہ حالت میں

بارگاہ ایزدی میں حاضر ہو گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون، ابو حسان زیادتی کہتے ہیں کہ جب حضرت الامام نے اپنا آخری وقت محسوس فرمایا تو سجدہ میں چلے گئے اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز ہوئی، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعہ۔

جنازہ قید خانہ سے باہر لایا گیا، بغداد کے قاضی حسن بن عمارہ نے غسل دیا، ابو جہاء جو غسل دینے میں شریک تھے کہتے ہیں کہ غسل کے وقت میں نے آپ کا بدن دیکھا جو نہایت نحیف تھا، عبادت نے اسے پگھلا کر رکھ دیا تھا، ابھی لوگ غسل سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ہزاروں ہزار لوگ آپ کی زیارت کے لئے جمع ہو گئے، اندازاً پچاس ہزار افراد نے نماز جنازہ پڑھی، جمع کی کثرت کی وجہ سے چھ مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی اور عصر سے قبل آپ کی تدفین ممکن نہ ہو سکی۔ (مفرد العمام ۳۶۰، ۳۶۱)

## حضرت امام مالکؒ کی وفات

امام دارالہجرۃ مالک بن انسؒ جو مدینہ منورہ میں وفات کے اس قدر مشتاق تھے کہ عمر کے آخری حصہ میں مدینہ کے باہر اسفار کو قطعاً ترک فرما دیا تھا، کہ کہیں اور وفات نہ ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آرزو پوری فرمائی، اور مدینہ منورہ میں وصال ہوا اور جنت البقیع میں دفن کی سعادت ملی، انتقال سے قبل شہادت کا کلمہ پڑھا، پھر یہ آیت پڑھتے رہے **لِلّٰہِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَ مِنْ بَعْدِ۔** (حکم اللہ ہی کا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی) پھر اسی رات وفات پا گئے، اس وقت آپ کی عمر ۸۵ سال تھی۔ (الہدایۃ والہدایۃ ۲۰۳/۱۹)

## وفات کے وقت حضرت امام شافعیؒ کا حال

امام حرنی کہتے ہیں کہ میں مرض الموت میں حضرت امام شافعیؒ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پوچھا کہ: آپ نے صبح کیسے کی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری صبح اس حال میں ہوئی کہ "میں دنیا سے رحلت کو تیار ہوں، دوستوں اور احباب سے فرقت کا وقت ہے، اپنے برے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے، موت کا پیالہ پینے کے قریب

ہوں، اور اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہوں، اب مجھے معلوم نہیں کہ میری روح جنت کی طرف جائے گی کہ میں اسے مبارک باد دوں، یا جہنم کی طرف جائے گی کہ میں اس کی تعزیت کروں" (کتاب العاقبہ ۹۰)

پھر آپ نے چند اشعار پڑھے: ایک شعر یہ تھا:

تَعَاظَمَنِي ذُنُوبِي فَلَمَّا قَرَّبْتَهُ بِعَفْوِكَ رَبِّ كَانَتْ عَفْوُكَ اعْظَمًا

میں اپنے گناہوں کو بہت عظیم سمجھتا ہوں، مگر جب اے پروردگار! اس کا مقابلہ تیری معافی سے کرتا ہوں تو تیری معافی یقیناً میرے گناہوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ (مشاہیر کے آخری کلمات ۶۲)

## حضرت امام احمد بن حنبلؒ کی سرخ روئی

"فتنہ خلق قرآن" کے موقع پر ایمانی جرات اور اسلامی حمیت کی تائید کا مثال قائم کرنے والی اسلامی تاریخ کی عظیم شخصیت حضرت امام بن حنبلؒ نے وفات سے قبل ایک وصیت لکھی جس میں اپنے وارثین کو گراں قدر نصیحتیں فرمائیں، پھر بچوں کو بلا کر پیار کیا پھر برابر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں مشغول رہے، مرض کی شدت کے دوران ایک مرتبہ آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے لا بعد، لا بعد (ابھی نہیں، ابھی نہیں) تو صاحبزادے نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کس سے فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا گھر کے ایک کونے میں ابلیس اٹھلیاں دانتوں میں دبائے کھڑا ہے۔ اور کہہ رہا ہے: مَنْتَنِي يَا أَحْمَدُ یعنی اے احمد! تم میرے ہاتھ سے نکل گئے، تو میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ ابھی نہیں نکلا جب تک کہ اسلام پر وفات نہ ہو جائے۔

وفات سے کچھ پہلے آپ نے گھر والوں سے کہا وضو کرائیں، چنانچہ آپ کو وضو کرایا گیا، آپ ذکر و دعا میں مشغول رہے اور وضو کی ہر ہر سنت کا خیال فرماتے رہے حتیٰ کہ اٹھلیوں میں غلال بھی کروائی پھر جیسے ہی وضو پورا ہوا آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، جمعہ کے دن صبح کے وقت آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات کی خبر جنگل کی آگ کی

طرح پھیل گئی، لوگ غم سے بڑھ حال ہو کر سڑکوں پر نکل آئے، جب جنازہ باہر آیا تو بغداد کے گلی کوچوں میں تاحد نظر آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے، لاکھوں افراد نے نماز جنازہ پڑھی، اور زبردست مجمع کی وجہ سے عصر کے بعد آپ کی تدفین عمل میں آسکی۔ (الہدایۃ والنہایۃ ۱۰/۷۳۱)

## تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ

حضرت امام احمد بن حنبلؒ فرمایا کرتے تھے ہمارے اور اہل بدعت (قاتلین غلظت قرآن) کے درمیان فیصلہ ہمارے جنازے کو دیکھ کر ہوگا، چنانچہ یہ فیصلہ اس طرح ہوا کہ آپ کے مخالفین کے جنازوں میں تو بس گنتی کے لوگ شریک ہوئے، کسی نے ان کا کوئی زیادہ غم نہ منایا، جبکہ حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے جنازے کو دیکھ کر مورخین دنگ رہ گئے، خلیفہ متوکل نے جب اس جگہ کو ناپنے کا حکم دیا جہاں امام احمد بن حنبلؒ کے جنازے کی نماز پڑھی گئی تو اندازہ لگایا گیا کہ ۲۵ لاکھ افراد نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی، عبدالوہاب وراق کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت یا تاریخ اسلام میں اس سے بڑے کسی جنازے کا ثبوت نہیں ملتا، اس دن اس عظیم مجمع کو دیکھ کر ۲۰ ہزار کے قریب غیر مسلم دولت اسلام سے شرف ہوئے۔ (الہدایۃ والنہایۃ ۱۰/۷۳۱)

اللہ اکبر! یہ ہے اللہ والوں کا حال کہ جب وہ دنیا سے اٹھتے ہیں تو نہ جانے کتنے دلوں کی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ان کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اکثر دنیا دار جب دنیا سے جاتے ہیں تو محدود افراد ہی پر ان کی جدائی شاق ہوتی ہے، اور بس!

## بعض صالحین کے حالات وفات

(۱) عظیم محدث اور استاد ائمہ امام محمد بن سیرینؒ پر دکات کے وقت گریہ طاری تھا، اور فرما رہے تھے کہ "مجھے گزشتہ زندگی کی کوتاہیوں اور جنت میں جانے والے اعمال میں کمی اور جہنم سے بچانے والے اعمال کی قلت پر رونا آرہا ہے"۔ (کتاب المعاد)

﴿ اللہ سے علوم کہنے ﴾ ﴿ ۱۸۱ ﴾

(۲) مشہور فقہ اور محدث ابراہیم نخعی وفات کے وقت روتے ہوئے فرما رہے تھے۔ میں اپنے رب کے قاصد کا منتظر ہوں، پتہ نہیں وہ مجھے جنت کی خوشخبری سنائے گا یا جہنم کی؟ (کتاب المعادہ ۷۰)

(۳) حضرت ابو حنیفہ امروہ بن مویز کے وقت گھبرانے لگے، لوگوں نے کہا کیا موت سے گھبراتے ہیں؟ فرمایا: میں کیوں نہ گھبراؤں، یہ تو ایسا وقت ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ مجھے کہاں لے جایا جائے (جنت میں یا جہنم میں)۔ (کتاب المعادہ ۷۰)

(۴) حضرت فضیل بن عیاضؒ پر وفات کے قریب غشی طاری ہوئی، پھر جب اتفاقاً ہوا تو فرمایا: "ہائے افسوس! سفر دور کا ہے اور توشہ بہت کم ہے"۔ (کتاب المعادہ ۷۰)

(۵) حضرت جنید بغدادیؒ نے انتقال سے کچھ پہلے ہی قرآن پاک تلاوت کر کے ختم فرمایا۔ حاضرین نے کہا کہ ایسی شدت کے وقت میں بھی آپ نے تلاوت موقوف نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا: "اس وقت سے زیادہ میرے لئے پڑھنے کا اور کون سا وقت ہوگا، اس وقت میرے اعمال نائے لپیٹے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے تکبیر پڑھی اور جان جاں آفریں کے سپرد کر دی۔"

نیز آپ کو وفات سے پہلے جب کلمہ طیبہ کی تلقین کی گئی تو فرمایا کہ: "یہ کلمہ میں بھولا ہی کب ہوں جو مجھے یاد دلایا جائے" یعنی آپ کو ذکر خداوندی کا کلمہ یادداشت حاصل تھا جو تصوف و سلوک کا منجھائے مقصود ہے۔ (کتاب المعادہ ۸۸)

(۶) حضرت عبداللہ بن المبارکؒ نے وفات کے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھائی پھر مسکرائے اور فرمایا: لِيَمِثِلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ (ایسے ہی وقت کے لئے عاملین عمل کرتے ہیں)۔ (کتاب المعادہ ۸۹)



## پانچویں فصل

### نزع کے عالم میں تیار دار کیا پڑھیں؟

جب آدمی پر نزع کا عالم طاری ہو، اور موت کی شدت شروع ہو جائے، تو اس وقت حاضرین کو سورہ یٰسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سے روح نکلنے میں سہولت ہوتی ہے۔ بعض ضعیف روایتوں میں یہ مضمون وارد ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَلَيْنُ مَيِّتٍ يُقْرَأُ عِنْدَ رَأْسِهِ يَسْمَعُ إِلَّا هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ - (شرح الصدور ۶۹)

جس مرنے والے کے سر کے قریب سورہ یٰسین شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ملاحظہ آسان فرمادیتا ہے۔

اور حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ سورہ رعد پڑھنے سے بھی مرنے والے کو سہولت اور آسانی نصیب ہوتی ہے۔ (ابن ابی حبہ ۳۴۵۳)

اور مستحب ہے کہ نزع کے وقت میت کا رخ قبلہ کی جانب کر دیا جائے۔ اور اس کے سامنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بلند آواز سے پڑھا جائے۔ مگر اسے باقاعدہ پڑھنے کا حکم نہ دیا جائے کہ کہیں وہ جھنجھلا کر انکار نہ کر دے۔ اور جب وہ ایک مرتبہ پڑھ دے تو بار بار پڑھنے پر بھی زور نہ ڈالیں۔ (مشکوٰۃ ۸۷۰-۸۷۱) اور جب روح پرواز کر جائے تو اس کے جہازوں کو کسی پٹی وغیرہ سے باعدہ دیں، اور اس کی آنکھیں بند کر دیں، اور آنکھیں بند کرنے والا یہ دعا پڑھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ - (شرح الصدور ۷۴) پھر میت کے پاس خوشبو کا کلمہ کر دیا جائے اور ناپاک لوگ جنبی اور حائضہ عورتیں وغیرہ اس کے پاس سے ہٹ جائیں۔ اور اعزاء و اقرباء کو اس کی موت کی اطلاع دے دی جائے۔ اور جہنم و تدفین میں حتی الامکان جلدی کی جائے۔ (مشکوٰۃ ۸۳۱۲) اور میت کو جب تک غسل نہ دے دیا جائے اس وقت تک اس کے قریب بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں۔ غسل کے بعد کر سکتے ہیں، اسی طرح گھر کے دوسرے کمرے میں بھی کر سکتے ہیں۔ (شامی ۸۵۱۳)



## تدفین میں جلدی کریں

جہاں تک ممکن ہو تدفین میں جلدی کرنی چاہیے۔ خواہ انتظار میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

أَسْرِعُوا بِالْحَنَازَةِ فَإِنَّ تَكَّ صَلَاحَةً فَغَيْرًا تَقَلِّمُوهَا إِلَيْهِ وَإِنَّ تَكَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ۔ (مسلم شریف ۱/۳۰۶)

جنازہ کو لے جانے میں جلدی کرو۔ اس لئے کہ وہ اچھا آدمی ہے تو تم اس کو بہتر ٹھکانے تک جلدی پہنچاؤ گے، اور اگر وہ اچھا نہیں ہے تو تم اپنے کاندھوں سے برائی کا بوجھ دور کرو گے۔ (یعنی بہر صورت تعجیل بہتر ہے)

اور ایک روایت میں آپ ﷺ نے میت کی جمجمہ و عین میں جلدی کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا:

وَعَجِّلُوا بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْنِي أَهْلِهِ (ابوداؤد شریف ۱۲/۳۵۰، حلی ۸۳۳)

اور اس کی تیاری میں جلدی کرو کیونکہ کسی مسلمان کی لاش کا اس کے گھر والوں کے درمیان پڑے رہنا مناسب نہیں ہے۔

اس تعجیل کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا جمعہ کی صبح کو انتقال ہو جائے تو محض اس وجہ سے جمعہ کی نماز تک جنازہ میں تاخیر کرنا مکروہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں بڑا مجمع شریک ہو جائے گا، بلکہ جیسے ہی تیاری مکمل ہو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دینا چاہیے۔ (رد ۱۳/۱۳۶)

## نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کا ثواب

مسلمان کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کا بڑا عظیم ثواب احادیث طیبہ میں وارد ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے

ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شریک ہو پھر تدفین تک شامل رہے تو اس کو دو قیراط کے برابر ثواب ملتا ہے اور ہر قیراط کی مقدار احد پہاڑ کے برابر ہوتی ہے۔ یہ عظیم اجر و ثواب سن کر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو یقین نہیں آیا اور انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس کی تصدیق کرائی، جب انہوں نے اس کی تصدیق فرمادی تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے قیراط مفت میں ضائع کر دیئے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اکثر نماز جنازہ میں شرکت کر کے واپس آجاتے تھے۔ دن میں شریک نہ ہوتے تھے۔ (مسلم شریف ۳۷۷۱)

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مؤمن کو سب سے پہلا بدلہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (نور الاصول ۳۸۲۱)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ کثرت کے ساتھ جنازہ کی نمازوں اور تدفین میں شرکت کر کے اپنے کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ عمل بالخصوص اپنی موت کو یاد دلانے کا بہترین اور موثر ذریعہ ہے۔ دوسرے کا جنازہ دیکھ کر اپنا جنازہ اور اپنی موت بے اختیار یاد آ جاتی ہے۔ اور دل بے اختیار بول اٹھتا ہے کہ آج اس کی باری ہے کل ہماری باری ہوگی۔

## جنازہ قبرستان میں

جب جنازہ قبرستان پہنچے تو ساتھ چلنے والوں میں سے کوئی شخص اس وقت تک بیٹھنے کی کوشش نہ کرے جب تک کہ جنازہ کی چار پائی کندھوں سے اتار کر نیچے زمین پر نہ رکھ دی جائے (مسلم شریف ۳۱۰۱) اس کے بعد میت کو قبر میں اتارنے کی تیاری کی جائے۔ اور قبر میں اتارنے والے حضرات میت کو رکھتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (اللہ کے نام سے تجھے رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے دین پر تجھے اللہ کے حوالے کرتے ہیں) کا ورد کریں، اور پھر میت کو کروٹ سے دائیں طرف قبلہ رو کر کے لٹادیں۔ (درم ۱۳۱۳)

اس کے بعد قبر برابر کر کے اس پر مٹی ڈالی جائے۔ ہر شخص کا تین مٹھی ڈالنا سنوں

﴿ اللہ سے شرم کھینچنے ﴾ ﴿ ۲۸۵ ﴾

ہے۔ اور بہتر ہے کہ پہلی مٹی ڈالتے وقت مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ؟ (اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے) دوسری مٹی ڈالتے وقت وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ (اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹا رہے ہیں) اور تیسری مٹی ڈالتے وقت وَمِنْهَا نُعْرِضُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (اور اسی میں سے ہم قیامت میں) تمہیں دوبارہ نکالیں گے) پڑھیں۔ (شای ۱۳۳/۳)

اور دفن کے فوراً بعد حاضرین کو لوٹنا نہیں چاہئے بلکہ کچھ دیر قبرستان میں رہ کر دعا اور ایصالِ ثواب میں مشغول رہنا مسنون ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کے قبرستان میں موجود رہنے سے مرنے والے کو انیسیت اور ڈھارس نصیب ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَّ عَلَى قَبْرِهِ وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا اللَّهَ لَهُ الشَّيْءَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ۔ (ابو داؤد شریف ۴۵۹/۲، حلی ۱۳۳/۲)

آنحضرت ﷺ جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر وقوف فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کیلئے استغفار کرو، اور اس کے لئے ثابت قدمی کی درخواست کرو کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جانے والا ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عمر ؓ فرمائے تھے کہ دفن کے بعد قبر پر سورۃ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھنا مستحب ہے۔ (شای ۱۳۳/۳) اور حضرت عمرو بن العاص ؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے انتقال کے وقت گھر والوں کو وصیت فرماتے ہوئے کہا کہ: جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ کے ساتھ نہ تو کوئی رونے والی عورت جائے اور نہ آگ ساتھ لیجائی جائے۔ (کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کی علامات تھیں) پھر جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر کچھ پانی کا چھڑکاؤ کر دینا، پھر جتنے وقت میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے اتنے وقت تک تم لوگ میری قبر کے پاس ہی رہنا تاکہ میں تم سے انیسیت حاصل کر سکوں اور یہ دیکھوں کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ (مسلم شریف ۷۱/۱)

## قبروں کو پختہ بنانا یا ان کی بے حرمتی کرنا ممنوع ہے

قبروں کے متعلق شریعت اسلامیہ نے انتہائی اعتدال کا راستہ اپنایا ہے۔ شریعت نہ تو اس کی اجازت دیتی ہے کہ قبروں کو پختہ بنا کر ان کی حد سے زیادہ تعظیم کی جائے۔ اور نہ ہی اس کی اجازت دیتی ہے کہ قبروں کی کسی طرح بے حرمتی کی جائے یا اس پر پھر رکھا جائے اور اس کو بیٹھنے کی جگہ قرار دیا جائے۔ حضرت جابرؓ ارشاد فرماتے ہیں:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْصَصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقَعَّدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُسْنَى عَلَيْهِ.

(مسلم حریف ۳۱۲۸، ترمذی حریف ۲۰۳/۱)

آنحضرت ﷺ نے قبروں کو پختہ بنانے، اور اس پر بیٹھنے اور اس پر تعمیر کرنے سے

منع فرمایا ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں:

لَا يَحْلِسُ أَحَدُكُمْ عَلَى حَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ نَبَاهَهُ فَتَعْلُصَ إِلَيْهِ جِلْدَةٌ خَيْرٌ لَهُ

مِنْ أَنْ يَحْلِسَ عَلَى قَبْرِ - (مسلم حریف ۳۱۲۱)

تم میں سے کوئی شخص انکارے پر بیٹھے جو اس کے کپڑے جلا کر کھال تک پہنچ جائے یہ اس بات سے بدرجہا بہتر ہے کہ وہ قبر کے اوپر بیٹھے۔ (یعنی قبر پر بیٹھنے کے مقابلہ میں جل جانا بہتر ہے)

اس لئے مسلمانوں کو ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا لازم ہے۔ نہ تو قبروں کو پختہ بنا کر شرک و بدعت کی آماجگاہ بنائیں جیسا کہ آجکل بزرگان دین کے حرارات کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور نہ ہی قبروں کی بے حرمتی کی جائے جیسا کہ اکثر شہری قبرستانوں میں یہ بے احتیاطی عام ہے۔

## عورتوں کا قبروں پر جانا

قبرستان میں حاضری کا مقصد دراصل موت کی یاد ہے، لیکن اب جہالت اور

بدعت نے قبرستانوں کو اچھی خاصی تفریح گاہوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہاں جا کر آج کوئی موت کو یاد نہیں کرتا بلکہ یا تو سیر و تفریح کے لئے لوگ وہاں جاتے ہیں یا پھر اپنی دنیوی اغراض لے کر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ "بیر صاحب" سے جو مانگ لیا وہ تو بس ملتا ہی ملتا ہے۔ خاص طور پر خواتین کا بد عقیدگی کے ساتھ قبرستانوں اور بزرگوں کے حرار پر جانا کسی طرح بھی درست نہیں۔

ذرا غور فرمائیے! جن عورتوں کو فتنہ کی وجہ سے مسجد میں باجماعت نماز تک سے رخصت دے دی گئی ہے انہیں حرارات پر جا کر تھیں مانگنے کی کیسے اجازت دی جاسکتی ہے؟ یہ جگہیں فتنہ ہی نہیں بلکہ فتنہ کی آماجگاہ بنی ہوئی ہیں۔ (ستہ ماہی ۱۳۷۳)

بہر حال ہمیں اعتدال کی راہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت اور ان کا احترام بھی ضروری ہے اور ساتھ میں شریعت کی حدود کی رعایت بھی لازم ہے۔ ایمانہ ہو کہ اہم اکابر امت کی محبت میں شریعت کو چھوڑ بیٹھیں اور آخرت میں وبال اور عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ ہمیں اللہ سے شرم کرتے ہوئے ہر معاملہ میں اطاعت اور فرمانبرداری کا طریقہ اپنانا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو رائج خرافات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔



## قبر کے حالات

- ☆ قبر میں سوال و جواب
- ☆ یہ بدن گل سڑ جائے گا
- ☆ قبر میں راحت و عذاب



## قبر میں سوال و جواب

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس ﷺ کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں قبرستان میں حاضر تھے۔ ابھی قبر کی تیاری میں دیر تھی۔ اس لئے آنحضرت ﷺ ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے۔ ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے (جیسا کہ کوئی غمزہ شخص کرتا ہے) پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور مخاطب ہو کر ہم سے ارشاد فرمایا: "اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ چاہو۔ دو تین مرتبہ یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ کا دنیا سے رحلت اور آخرت میں حاضری کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، یہ فرشتے اس کے سامنے تاحد نظر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں۔ اے مطمئن روح! چل اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف۔ پھر اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزہ کا بند کھولنے سے اس کا پانی باسانی نکل آتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس کی روح کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور فوراً ہی ساتھ میں آئے ہوئے فرشتے اس لے کر جنت کے کفن اور حنوط (خوشبو) میں لپیٹ دیتے ہیں تو اس سے اعلیٰ ترین مشک کی طرح خوشبو پھیل اُٹتی ہے، پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر چلتے ہیں۔ تو جب بھی فرشتوں کی کسی جماعت پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی پاکیزہ روح ہے؟ تو وہ فرشتے نام بنام اس کا بہترین انداز میں تعارف کراتے ہیں۔ یہاں تک کہ آسمان کے مقرب فرشتے اوپر والے آسمان تک اس کی روح کی مشابعت کرتے ہیں تا آنکہ اس کو ساتویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس

﴿ اللہ سے شہوم کہنے ﴾ ﴿ ۲۹۰ ﴾

بندے کا نام "علین" میں لکھ دو، او سے دوبارہ زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے زمین ہی سے پیدا کیا ہے۔ اور اہل میں اسے لوٹا رہا ہوں اور اسی سے قیامت کے روز دوبارہ اسے اٹھاؤں گا۔ پھر اس کی روح اس کے بدن کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اسے بشما کر اس سے سوال کرتے ہیں من ربك؟ (تیرا رب کون ہے) وہ جواب دیتا ہے سی اللہ (میرا رب اللہ ہے) پھر پوچھتے ہیں مادہنك؟ (تیرا دین کیا ہے؟) وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام (میرا مذہب اسلام ہے) پھر آنحضرت ﷺ کی طرف اشارہ کر کے (اس کی صورت و کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے) پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ تو وہ مؤمن جواب دیتا ہے کہ: رسول اللہ ﷺ (یہ اللہ کے سچے رسول ہیں) پھر فرشتے پوچھتے ہیں تمہارا علم کیا ہے؟ تو مؤمن جواب دیتا ہے میں نے قرآن کریم پڑھا ہے اور اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اس سوال و جواب پر آسمان سے ندا آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، لہذا اس کے لئے جنت کا فرش بچھا دو، اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو تا کہ جنت کی ہوا اور خوشبو اسے حاصل ہو سکے۔ اور اس کے لئے اس کی قبر تاحد نظر وسیع کر دو، پھر اس مؤمن کے پاس ایک خوبصورت شخص اچھے لباس اور عمدہ خوشبو کے ساتھ حاضر ہو کر عرض کرتا ہے۔ کہ بشاشت انگیز خوشخبری قبول کرو یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ مؤمن اسے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو خیر لانے والے چہرے کی طرح ہے تو وہ شخص جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں (قبر کا یہ آرام دیکھ کر) مؤمن کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما، تا کہ میں جلدی اپنے مال و دولت اور گھروالوں سے ملاقات کر سکوں۔

الع (مسند احمد ۲۸۷/۴ رقم: ۱۸۴۴۴ مصنف ابن ابی شیبہ ۵۷۳، شرح الصلور ۹۳)

اور ترمذی شریف وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جب مؤمن بندہ منکر نکیر کے سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے تو اس کے لئے اس کی قبر ستر ہاتھ لمبی چوڑی کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر کے اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا! وہ شخص مارے خوشی کے جواب دیتا ہے کہ مجھے



﴿ اللہ سے شکر کہنے ﴾ ﴿ ۲۹۱ ﴾

میرے گھر والوں کے پاس تو جانے دو کہ میں انہیں بتاؤں (کہ میں کتنے مزے میں ہوں) تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ:

نَمَّ كَسْنَوْمَةَ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَمِئْتَهُ اللَّهُ

مَضْمَعَةً ذَلِكَ۔ (الترمذی شریف ۲/۲۰۵، پہلی فی شعب الایمان شرح الصلوة ۱۸۷)

تو اس دلہن کی طرح سو جا۔ جس کو صرف وہی شخص بیدار کرتا ہے جو اس کے نزدیک اس کے گھر والوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (یعنی شوہر) اور (اس وقت تک سوتا رہے گا) جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی قیام گاہ سے دوبارہ نہ اٹھائے۔

اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میت کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو واپس ہوتے ہوئے لوگوں کے جوتوں کی آواز وہ خود سنتا ہے پس اگر وہ مؤمن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ دائیں جانب اور روزہ بائیں جانب اور اچھے کام اور لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اگر عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ دائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے راستہ بند ہے، پھر بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ اسی طرح کا جواب دیتا ہے اس کے بعد سامنے سے آتا ہے تو لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک اس کے آڑے آ جاتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سامنے سورج اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ غروب ہونے والا ہو تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب دو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا پہلے ہماری بات کا جواب دو تو وہ کہتا ہے کیا ہے؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یعنی حضور اکرم ﷺ سے متعلق؟ وہ مؤمن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں جو ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے واضح

﴿ اللہ سے علوم کھینچنے ﴾ ﴿ ۲۹۲ ﴾

دلائل لے کر تشریف لائے پس ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کی پیروی کی۔ اس جواب پر فرشتے خوشخبری سناتے ہیں کہ تو نے سچ کہا تیری زندگی اسی عقیدے پر گذری اور اسی پر تیری موت آئی اور انشاء اللہ تعالیٰ اسی پر قیامت کے دن تجھے اٹھایا جائے گا اس کے بعد اس کے لئے قبر کو تاحد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا:

بُنِيَتْ لِلَّهِ الدِّينَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ۔

(سورۃ ابراہیم آیت: ۲۴)

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت پر ثبات قدمی عطا فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔

اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولو چنانچہ اس کے لئے جہنم کا دروازہ کھول کر اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ اگر تو نافرمان ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا جس کی بناء پر اس کی خوشی اور مسرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دو چنانچہ جنت کا دروازہ کھول کر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ اور وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہارے لئے پہلے سے تیار کر رکھی ہیں۔ انہیں دیکھ کر بھی اس کا دل بشاشت اور مسرت سے معمور ہو جاتا ہے پھر اس کا بدن تو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو پاکیزہ روحوں میں جن کا مقام جنت کے درختوں میں بسیرا کرنے والے ہرے پرندوں کے اندر ہے، شامل کر دیا جاتا ہے۔ ابی آخرہ (رواہ الحاکم وقال صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذہبی) (ماشیہ شرح الصدور: ۱۸۹)

## مبشّر، بشیر

عام طور پر روایت میں قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کا نام منکر، نکیر آیا ہے۔ لیکن بعض شافعی علماء سے منقول ہے کہ کافر سے سوال کرنے والے فرشتوں کا نام منکر نکیر ہے، جبکہ ایمان والے سے سوال کرنے والے فرشتوں کا نام مبشّر، بشیر ہے (یعنی خوشخبری سنانے والے واللہ تعالیٰ اعلم)۔ (شرح الصدور: ۳۰۰)

## قبر میں کافر منافق کا بدترین حال

اس کے برخلاف جو کافر اور منافق شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں (بدبودار) ٹاٹ کے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ اس کے سامنے تاحد نظر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت تشریف لاکر اس کے سر ہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں: اے خبیث جان! اللہ کے عذاب اور غصہ کی طرف چل، یہ سن کر اس کی روح بدن میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے۔ لہذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح سختی سے نکالتے ہیں جیسے بیگاہوا اور ان کباب بھوننے والی سب سے پھینکا ہوا اور پھر وہ سب سے نکالنے کی گئی ہے۔ پھر ملک الموت اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور فوراً ہی ساتھ آئے ہوئے فرشتے اسے لے کر ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں اور ان ٹاٹوں میں ایسی بدبو ہوتی ہے جو روئے زمین پر پائی جانے والی متعفن مردار لاش سے پھوٹی ہے۔ پھر وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت پر سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون خبیث جان ہے؟ تو ساتھ والے فرشتے برے سے برے القاب اور ناموں سے اس کا تعارف کراتے ہیں۔ تا آنکہ یہ فرشتے اسے لے کر آسمان کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر وہ دروازہ ان کے لئے نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاحِظَ فِي سَمِّ

الْبِغْيَاتِ۔ (الاحزاب ۰ نم ۸)

نہ کھولے جائیں گے ان کے لئے دروازے آسمان کے، اور نہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ نہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔

پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا نام "کتاب تحمین" میں لکھ دیا جائے جو سب سے چلی زمین میں ہے۔ چنانچہ اس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے اس کے بعد حضور اقدس ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿ اللہ سے شرم کھینچنے ﴾

و تُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ  
الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (العج ۳۱، ۳۲)

اور جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا آسمان سے۔ پھر اچکتے ہیں اس کو  
اڑنے والے مردار خور یا جاڈالا اس کو ہوانے کسی دور مکان میں۔

اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اور دفرشتے اس  
کے پاس آکر اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے، ہائے مجھے پتہ  
نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر یہی کہتا  
ہے۔ ہائے، ہائے مجھے خبر نہیں پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ جو تیرے پاس بھیجا  
گیا تھا (یعنی حضور اکرم ﷺ) تو وہ جواب دیتا ہے ہائے، ہائے مجھے علم نہیں۔ اس پر آسمان  
سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا بندہ جموٹا ہے (اسے سب پتہ ہے مگر لاعلمی ظاہر کر رہا ہے) لہذا  
اس کے نیچے آگ کے انگارے بچھا دو اور اس کے لئے دوزخ کا دروازہ کھول دو، چنانچہ  
دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور اس کی سخت تپش اور لو آنے لگتی ہے۔ اور اس پر قبر اس  
قدر ٹھک کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں تک پہنچ کر ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے  
پاس ایک شخص آتا ہے جو انتہائی بد صورت، بد بودار اور گندے کپڑوں میں ہوتا ہے، وہ شخص  
اس منافق سے کہتا ہے کہ بری خبر سن لے یہی وہ دن ہے جس سے تجھے ڈرایا جاتا تھا۔ وہ کہتا  
ہے کون ہے تو؟ تیری صورت واقعی بری خبر سنانے والے کے مانند ہے، وہ جواب دیتا ہے  
کہ تیرا برا عمل ہوں، یہ سن کر (اس ڈر سے کہ قیامت میں مزید عذاب ہوگا) وہ کافر یہ کہتا ہے  
اے رب! قیامت قائم نہ فرما۔ (مسند احمد ۱۳۷۷، ابن ابی شیبہ ۵۸۱۳، شرح الحدود ۹۳)

اور ایک روایت میں ہے کہ کافر منافق کے ارد گرد خطرناک زہریلے سانپ چھوڑ  
دیئے جاتے ہیں جو برابر اسے کاٹتے اور ڈستے رہتے ہیں، اور جب وہ چنچتا ہے تو لوہے یا  
آگ کے تھوڑے سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے۔ اعاد نالہ منہ (ابن ابی شیبہ ۵۶۱۳)  
اور اس پر مسلط ہونے والے سانپ چھوٹے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر ان میں  
سے کوئی روئے زمین پر ایک پھوک بھی مار دے تو قیامت تک زمین میں کوئی سبزہ نہ پیدا  
ہو سکے۔ (مجمع الزوائد ۵۳۱۳) بعض روایات میں ان اڑدھوں کی تعداد ۹۹ وارد ہے۔ اور ان  
میں ہر اڑدھاسات سروں والا ہے۔ (مجمع الزوائد ۵۵۱۳) اللھم احفظنا منہ۔

## قبر میں کیا ساتھ جائے گا؟

قبر میں صرف انسان کا عمل ساتھ جائے گا۔ دنیوی راحت و آرام قبر کی زندگی میں کام نہیں آسکتا، جس طرح آدمی جب دوسرے ملک کے سفر پر جاتا ہے تو وہاں کی کرنسی اور وہاں چلنے والے نوٹ اور روپیوں کا انتظام ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم برزخ اور عالم آخرت میں جانے سے قبل وہاں چلنے والی کرنسی کو حاصل کرنا لازم ہے، اور وہاں کی کرنسی ایمان کامل اور عمل صالح ہے۔ اگر یہ دولت میسر ہے تو سفر آخرت کے ہر موڑ پر قبر کا مرحلہ ہو یا بعد کا آرام ہی آرام نصیب ہوگا۔ اور اگر ایمان اور عمل صالح کا سرمایہ پاس نہیں ہے تو پھر محرومی ہی محرومی ہے اسی لئے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے عقلمند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لئے عمل کرتا رہے۔ واقعی دانشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا کی محدود اور عارضی زندگی میں جی لگانے کے بجائے آخرت کی دائمی زندگی کو بنانے پر کھل محنت کی جائے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تَبِعُ الْعَمِيَّتَ ثَلَاثَ فَيَرِجُ اِنْتَانَ وَيَتَمَىٰ وَاِحِلَّتْ بَيْتُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرِجُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَتَمَىٰ عَمَلُهُ۔ (بخاری شریف ۹۶۳/۲ مسلم شریف ۴۰۷۱۲ ترمذی شریف ۶۰۱۲)

میت کے ساتھ تین طرح کی چیزیں جاتی ہیں جن میں سے دولت آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ میت کے ساتھ اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے، اس کے گھر والے اور مال تو لوٹ آتے ہیں، اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔

کتنا ہی قریبی عزیز ہو، اسے قبرستان میں چارونا چار چھوڑ کر آنا پڑتا ہے۔ اور مال بھی قبر میں نہیں رکھا جاتا اور نہ اس سے کوئی نفع ملتا ہے بلکہ آنکھیں بند ہوتے ہی مال خود بخود وارث کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن عمل ایسا پکا اور ڈھکا دار دوست ہے جو دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے اور میدانِ محشر میں بھی ساتھ رہے گا، اور اپنے عامل کو اصل ٹھکانے (جنت یا جہنم) تک پہنچا کر دم لے گا، لہذا ابھی سے اچھے عمل سے دوستی کرنی چاہیے تاکہ وہ اچھے مقام تک ہمیں پہنچا دے۔

## دوسری فصل

### یہ بدن گل سرٹ جائے گا

انسان کا یہ بدن مٹی سے بنا ہے اور مٹی ہی میں مل جائے گا، قبر میں جا کر خوبصورت آنکھیں جنہیں سرمہ اور کاجل سے سنوارا جاتا ہے اور یہ بال اور رخسار جنہیں حسین و جمیل بنانے کی ٹیک و دوکی جاتی ہے اور یہ پیٹ جس کی بھوک مٹانے کے لئے ہر طرح کے جتن کئے جاتے ہیں، یہی آنکھیں پھوٹیں گی اور ان کا پانی چہرے کے رخساروں پر بہہ پڑے گا، بال خود بخود گل کر ٹوٹ جائیں گے، پیٹ بدبودار ہو کر پھٹ پڑے گا، قبر کے کپڑے اس مٹی کے بدن کو اپنی غذا بنالیں گے، اس حالت کو انسان دنیا میں بھولے رہتا ہے مگر یہ حالت پیش آ کر رہے گی، اسی جانب متوجہ کرنے کے لئے ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے حضرات صحابہؓ سے ارشاد فرمایا:

”روزانہ قبر فصیح و بلیغ زبان میں بر ملا یہ اعلان کرتی ہے کہ اے آدم کی اولاد! تو مجھے کیسے بھول گیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں تمہاری کا گھر ہوں، میں مسافرت کی جگہ ہوں، میرا مقام وحشت ناک ہے؟ اور میں کیڑوں کا گھر ہوں اور میں تنگ جگہ ہوں سوائے اس شخص کے لئے جس پر اللہ تعالیٰ مجھے وسیع فرمادے! پھر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یا جنت کی پھلواریوں میں سے ایک پھلواری ہے۔“ (مجمع الزوائد ۳/۶۱۳ شرح الصدور ۱۶۵)

لہذا اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا تقاضا بیان کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اپنی موت اور بدن کی بوسیدگی کو یاد رکھیں“ اس سے فکر آخرت پیدا ہوگی اور گناہوں سے بچنے کا داعیہ ابھر کر سامنے آئے گا۔

### وہ خوش نصیب جن کا بدن محفوظ رہے گا؟

اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کے اعزاز میں اپنی بے مثال قدرت کا اس

﴿ اللہ سے علوم کہنے ﴾ ﴿ ۲۹۷ ﴾

طرح بھی اظہار فرماتے ہیں کہ ان نیک بندوں کے جسموں کو سالہا سال گزرنے کے باوجود زمین میں جوں کا توں محفوظ فرمادیتے ہیں۔ اور زمین ان پاکیزہ ابدان کو خفا کرنے سے عاجز رہتی ہے۔ ان خوش نصیب اشخاص میں سب سے پہلا درجہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ چنانچہ خود آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَحْرَمُ عَلَى الْأَرْضِ أَحْسَامَ الْأَنْبِيَاءِ (مہرودود شریف ۱۵۰/۱)

بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے ابدان طیبہ کو حرام کر دیا ہے۔ اسی بنا پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارکہ اپنی اپنی قبروں میں بلا کسی تغیر کے ہمچہ موجود ہیں۔ اور ان کو ایک خاص قسم کی حیات برزخی حاصل ہے۔

اور بعض شہداء اسلام کے بارے میں مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے اجسام بھی دفن کے سالہا سال بعد صحیح سالم پائے گئے (اگرچہ شہید کے ساتھ ایسا ہونا لازم نہیں، کیونکہ شہید کو جو خاص حیات برزخی حاصل ہے اس کے لئے یہی بدن ہمچہ موجود ہونا لازم نہیں)۔ (مستاد روح السانی ۲۷۲)

### عبداللہ بن تامرؓ کا واقعہ

امم سابقہ میں حضرت عبداللہ بن تامرؓ جنہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے اظہار حق کیا اور پھر انہیں بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا گیا جس سے وہ شہید ہو گئے، اور ان کے ماننے والوں کو بادشاہ نے آگ کی خندقیں کھدوا کر ان میں جلا ڈالا۔ جس کا ذکر سورۃ بروج میں ہے ان کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ کے دور خلافت میں عبداللہ بن تامر کی قبر کسی طرح کھل گئی تو دیکھا گیا کہ ان کی لاش صحیح سالم ہے اور ان کا ہاتھ بدستور کپٹی پر اس طرح رکھا ہوا ہے جیسے شہادت کے وقت ہوگا۔ (ترمذی شریف ۱۷۲۳)

### غزوۂ احد کے بعض شہداء کا حال

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت عبداللہؓ (جو غزوۂ

احد میں شہید ہو گئے تھے) کی قبر مبارک کسی ضرورت سے چھ مہینہ کے بعد کھول کر آپ کی نعش وہاں سے منتقل کی تو اس میں بالکل کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی، بس چند بال مٹی آلود ہو گئے تھے۔ (اسد الغابہ ۳/۲۳۳)

احد میں شہید ہونے والے دو انصاری صحابہ حضرت عمرو بن الجموح اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام کو ایک ہی قبرستان میں دفن کیا گیا تھا ایک دفعہ ۳۹ سال کے بعد مدینہ منورہ میں سیلاب آیا جس سے ان حضرات کی قبر مبارک کھل گئی، چنانچہ لوگوں نے ان دونوں کی نعش وہاں سے منتقل کرنے کی کارروائی کی تو لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی تغیر نہ ہوا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا گویا وہ کل ہی شہید ہوئے ہوں، اور ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ زخم کی جگہ پر رکھا ہوا تھا، جب اسے ہٹانے کی کوشش کی گئی، تو وہ دوبارہ اپنی جگہ چلا گیا جیسا کہ پہلے تھا۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔

(اسد الغابہ ۳/۲۳۳، ۱۸۵، شرح الصدور ۳۱۲)

دیگر شہداء کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ثابت ہیں، علامہ سیوطی ابن الجوزی کی تاریخ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بصرہ میں ایک ٹیلے سے ۷ قبریں ظاہر ہو گئیں، ان میں ۷ لاشیں تھیں، سب کے جسم صحیح سالم تھے، اور ان کے کفنوں سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی تھی ان میں سے ایک شخص جوان تھا جس کے بالوں میں زلفیں تھیں، اور اس کے ہونٹوں پر ایسی تازگی تھی گویا ابھی پانی پیا ہو، اور اس کی آنکھیں سرمہ آلود تھیں اور اس کی کوکھ میں زخم کا نشان تھا، بعض لوگوں نے اس کے بال اکھیرنے چاہے مگر وہ ایسے ہی مضبوط تھے جیسے زندہ شخص کے ہوتے ہیں۔ (شرح الصدور ۲۹۸)

## قبر پر خوشبو اور روشنی

عبداللہ بن غالبؓ بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ان کی قبر پر جا کر جو مٹی اٹھا کر سونگھی تو وہ بالکل مشک کی طرح تھی۔ (کتاب المغنی ۱۳۰)



ابو محمد عبداللہ الکبریٰ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں صحابی رسول حضرت زبیر بن العوامؓ کی قبر پر حاضر ہوا، تو اچانک میرے بدن پر گلاب کے عرق کا چھڑکاؤ ہوا جس سے میرے کپڑے تر ہو گئے۔ (کتاب المعالہ ۱۳۰/۱)

یہ ان حضرات کی کرامت ہے جو اللہ کی قدرت سے مستجب نہیں۔

اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جب صالح بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا تو لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کی قبر پر روشنی نظر آتی ہے۔ (کتاب المعالہ ۱۳۰/۱)

## مؤذن محتسب کو بشارت

عام طور پر لوگ مسجد کے مؤذن کو بے حیثیت خیال کرتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے بے توفیق لوگ تو اس کام ہی کو حقارت سے دیکھتے ہیں حالانکہ یہ کام اتنا بلند اور پر عظمت ہے کہ جو شخص محض رضا خداوندی کے لئے پابندی سے اذان کہتا ہے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کا سر اور گردن سب سے بلند فرمادے گا اور اس کا بدن دفن ہونے کے بعد کیڑوں کی غذا نہیں بنے گا۔ حضرت مجاہد اپنے والد کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں:

الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنَوُّ دُونَ فِي قُبُورِهِمْ۔

(مصنف عبدالرزاق ۳۸۳/۱)

مؤذن حضرات قیامت کے دن سب سے لمبی گردنوں والے ہوں گے، اور قبروں میں ان کے جسموں میں کیڑے نہیں پڑیں گے

الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّهِيدِ الْمُتَشَجِّطِ فِي دَمِهِ وَإِذَا أَمَاتَ لَمْ يُنَوِّدْ

فِي قَبْرِهِ۔ (مجمع الزوائد ۳/۲ شرح الصدور ۳۱۳)

بائٹل مؤذن اس شہید کے مانند ہے جو اپنے خون میں تھڑا ہوا ہو، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑتے۔

بعض ضعیف روایات میں اسی طرح کی بشارت قرآن کریم میں کثرت استعمال رکھنے والوں اور گناہوں سے بالکل احتراز کرنے والے کے متعلق بھی وارد ہیں۔ (شرح المصدر ۳۳)

## تیسری فصل

### قبر میں راحت و عذاب برحق ہے

احادیث مشہورہ سے یہ بات پوری طرح ثابت ہوتی ہے کہ قبر کی راحت و عذاب برحق ہے۔ اور یہ ایسا غیبی اور ماورائے عقل عقیدہ ہے جس پر یقین کرنے کے لئے عقل کا سہارا لینا بے سود ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیوی زندگی سے ہے ہی نہیں، یہ برزخی زندگی کا معاملہ ہے جس کی اصل حقیقت تک ہماری ناقص عقل رسائی حاصل نہیں کر سکتی، لہذا جس طرح ہم قرآن و سنت کے بتانے سے قیامت، آخرت، جنت اور جہنم پر یقین رکھتے ہیں اسی طرح قبر کے حالات کے متعلق بھی ہمیں وحی مقدس کی معلومات پر کامل یقین رکھنا چاہئے۔ جب صحیح سندوں اور معتبر راویوں کے حوالہ سے ہم تک یقینی علم پہنچ گیا تو اسے ماننے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، محض عقلی موٹو کافوں اور اپنی ناقص عقل میں نہ آنے کی دہائی دے کر کسی ثابت شدہ نقلی عقیدہ کو جھٹلانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ علماء نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ قبر کے راحت و عذاب سے محض خاص قبر کی جگہ مراد نہیں بلکہ برزخی زندگی (موت) سے قیامت قائم ہونے تک کا فاصلہ (مراد ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص سولی پر چڑھا کر چھوڑ دیا جائے، یا سمندر میں غرق ہو جائے، یا اسے پرندے اور درندے کھا جائیں، یا اسے جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے عذاب یا راحت عطا کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ سارے حالات صرف روح پر ہی نہیں بلکہ بدن سمیت روح پر طاری ہوتے ہیں۔ تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے۔ (مستاد شرح الصدور للسیوطی ۱۳۷)

بعض بددین قسم کے لوگ قبر کے حالات پر طرح طرح کے اشکالات کرتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں کہ اگر ہم قبر کھول کر دیکھیں تو ہمیں تو فرشتے نظر نہیں آتے۔ اور نہ مومن کی قبر وسیع معلوم ہوتی ہے بلکہ اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی دفن کے وقت تھی وغیرہ وغیرہ، لہذا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ان پر عذاب اور راحت کا اثر ظاہر ہو؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ سے ہرگز بچیں نہیں ہے کہ وہ ہماری نظروں سے چھپا کر میت کے بدن کو اور روح کو راحت یا عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو سونے والے شخص سونے کی حالت میں ان میں سے ایک تکلیف محسوس کرے، اور دوسرا سرت آمیز خواب دیکھے، تو جاگنے والے کو کچھ پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ سونے والے کن حالات سے گزر رہے ہیں، اسی طرح میت پر جو حالات طاری ہوتے ہیں زندہ انسانوں کو عام طور پر اس کا کچھ پتہ نہیں چل پاتا۔ (الذکرۃ فی احوال المؤمنین والاعترۃ ۱۲۰)

اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت پر مبنی ہے کیونکہ اگر اس طرح زندگی میں لوگوں کو قبر کا عذاب دکھا دیا جاتا تو لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے، اسی بنا پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے حالات پر مطلع فرما دے۔ (مسلم شریف ۲۸۶۱۲)

اسی طرح جن مردوں کے بدن بظاہر متفرق ہو چکے مثلاً جلا کر راکھ کر دیئے گئے، یا انہیں پرندوں اور درندوں نے کھا لیا ان پر بھی عذاب و راحت جاری ہونے میں کوئی استبعاد نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جو ان اجسام کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح اسے اس پر بھی پوری قدرت ہے کہ وہ ان جسموں کے تمام اجزاء یا بعض اجزاء کو زندگی دے کر ان کو عذاب یا راحت میں مبتلا کر دے۔ (نوری علی مسلم ۲۸۶۱۲)

الغرض اہل قبر کے حالات کا تعلق برزخ کی زندگی سے ہے، اسے دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، اور اگر اس بارے میں قرآن و سنت کی واضح ہدایات ہمارے سامنے نہ ہوتیں تو ہمیں ان حالات کا کچھ بھی علم نہ ہو پاتا، اس لئے عافیت اور انصاف کا راستہ یہی ہے کہ صادق و امین پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات عالیہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے برزخی حالات پر ایمان لایا جائے اور اس کے متعلق کسی قسم کا شک یا شبہ ذہن میں نہ رکھا جائے۔

## عذاب قبر سے پناہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت نے ان کے پاس آ کر یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ جب آنحضرت ﷺ گھر تشریف لائے تو میں نے آپ سے عذاب قبر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

نَعْمُ: عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ

جی ہاں قبر کا عذاب برحق ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ ﷺ جب بھی نماز پڑھتے تو اس کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ (بخاری شریف ۱۸۳۸)

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے:

اَللّٰهُمَّ لِيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَعْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ۔ (بخاری شریف ۱۸۳۱)

اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اور جہنم کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنہ سے اور دجال کے فتنہ سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔

ایک مرتبہ آپ ﷺ سواری پر تشریف لے جا رہے تھے راستے میں آپ کا گزر مشرکین کی چند قبروں پر ہوا، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اِنَّ هٰذِهِ الْاٰمَّةُ تَبْتَلِيْ فِيْ قُبُوْرِهَا فَاغْلُوْا اَنْ لَا تُدْفِنُوْا اِلَّا دَعْوَتُ اللّٰهِ اَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِيْ اُسْمِعُ مِنْهُ۔ (مسلم شریف ۳۸۶۱۲)

یہ لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں، پس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم لوگ دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی اسی طرح عذاب قبر کی آواز سنادے جسے میں سن رہا ہوں۔

پھر آپ حضرات صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو عذاب قبر، عذاب جہنم، شرور و فتن اور دجال کے فتنہ سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی۔

## جانور بھی قبر کا عذاب سنتے ہیں

احادیث و آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے حالات اور عذاب وغیرہ کی آوازیں اگرچہ انسان اور جنات سے پوشیدہ رہتی ہیں لیکن دیگر جانور ان آوازوں کو سنتے ہیں، اور ان حالات پر مطلع ہوتے ہیں چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب منافق اور کافر سے قبر میں سوال ہوتا ہے اور وہ صحیح جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے اتنی زور سے مارتے ہیں کہ وہ بے اختیار چیخا مچا ہوتا ہے اور اس کی چیخ کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ جو جاندار بھی اس کے قریب ہوتے ہیں سب سنتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے:

إِنَّ أَعْلَى الْقُبُورِ يُعَلِّمُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَذَابَهَا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ (بخاری، ۹۳۲۱۲)

بچک قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے جس کو جانور سنتے ہیں۔

ابوالحکم ابن برفخان، اشبیلہ (اسپین) کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے وہاں کے قبرستان میں ایک مردہ کو دفن کیا پھر وہیں قریب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، ایک جانور قریب ہی گھاس چر رہا تھا، وہ قبر کے قریب آیا اور کان کھڑے کر کے کچھ سننے لگا اور پھر دور چلا گیا کچھ دیر بعد پھر قبر کے قریب آ کر سننے لگا، کئی مرتبہ اس نے یہ حرکت کی، ابوالحکم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سن کر مجھے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد یاد آ گیا کہ قبر کے عذاب کو جانور تک بھی سنتے ہیں۔ (کتاب الردح لابن القیم اردو، ۱۱۰)

## کن لوگوں سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتا

صحیح احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بعض صورتوں میں مرنے والا انسان قبر کے سوال و جواب اور قنوں سے خود بخود محفوظ رہتا ہے، یہ سہولت اور رخصت تین طرح کے اسباب سے متعلق ہوتی ہے۔

- ۱۔ بعض اعمال صالحہ ۲۔ کسی آفت سماوی کے ساتھ موت
- ۳۔ بعض خاص اوقات میں موت کا واقع ہونا۔ ہر ایک کی تفصیل ذیل

میں درج کی جاتی ہے۔

## (۱) پہلا سبب

پہلے سبب یعنی اعمالِ صالحہ کے ضمن میں درج ذیل اعمالِ خاص طور پر قابلِ ذکر

ہیں:

(الف) شہادت فی سبیل اللہ: جو شخص اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے پوری بہادری کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ بارگاہِ ایزدی میں پیش کر دے اس کو قبر کے فتوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ عداوت میں وارد ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم ﷺ سے سوال کیا، کہ کیا بات ہے کہ شہید کو چھوڑ کر بقیعہ ایمان والوں کو قبر کے فتنہ میں مبتلا کیا جاتا ہے؟ سوال کا مقصد یہ تھا کہ شہید کو اس عوم سے مستثنیٰ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے جواب دیا:

كَفَى بِنَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً۔ (سہمی حریف ۱/۲۸۹)

شہید کے سر پر تلوار کی چمک دمک ہی فتنہ کے لئے کافی ہے (یعنی اس قربانی کی بدولت اسے قبر کے فتنے سے حفاظت نصیب ہوگئی ہے)۔

(ب) اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا: اسلامی سرحدوں کی حفاظت جس کی وجہ سے دارالاسلام میں رہنے والوں کو امن و عافیت نصیب ہوتا ہے اللہ کی نظر میں نہایت عظیم الشان عمل ہے، لہذا جو شخص اسی حال میں حفاظت کرتے ہوئے وفات پا جائے اس کو قبر کے فتوں سے اور سوال و جواب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

رِمَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ حَرِيٌّ عَلَيْهِ عَمَلُهُ لَدَيْ كَمَا يَعْمَلُهُ وَأُخْرَى عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفِتْنَانَ۔ (مسلم حریف ۲/۱۳۲)

ایک دن رات سرحد کی حفاظت کرنا پورے مہینے کے روزے اور رات بھر عبادت کرنے کے برابر ہے اور اگر اس حال میں اس کی موت آجائے تو جو عمل وہ کر رہا تھا اس کا ثواب برابر جاری رہے گا اور اس کے لئے برابر رزق کا انتظام کیا جائے گا، اور اسے قبر کے

سوال کرنے والے فرشتوں سے اور وہاں کے فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔

(ج) سورۃ ملک اور سورۃ المجدہ کا پابندی سے پڑھنا: بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے سورۃ ملک اور المجدہ پابندی سے پڑھے، تو اسے بھی قبر کے سوال و جواب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ (شرح المدور ۱/۲۰۷)

## دوسرا سبب

اور سوال سے بچنے کا دوسرا سبب یعنی موت کی علت کے سلسلہ میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جو شخص پیٹ کی کسی بیماری میں انتقال کر جائے تو وہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا، مگر اس کے متعلق محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس کے راوی کو غلط فہمی ہو گئی ہے حدیث اصل میں مرابط (سرحد پر حفاظت کرنے والا) کے بارے میں ہے جسے راوی نے مریض کے متعلق کر دیا۔ (شرح المدور ۱/۲۰۷)

اور حافظ ابن حجرؒ نے مرض طاعون میں وفات پانے والے کے متعلق بھی یہ بات لکھی ہے کہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا اور وہ مرابط فی سبیل اللہ کے درجے میں ہے، کہ جس طرح سرحد پر حفاظت کرنے والا صبر و استقامت کے ساتھ اپنی جگہ ڈٹا رہتا ہے اسی طرح طاعون میں مبتلا شخص بھی توکل علی اللہ کرتا ہے، اس مشابہت کی وجہ سے وہ بھی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ (شرح المدور ۱/۲۰۸)

## جمعہ کے دن اور رمضان کے مہینے میں وفات

### پانے والوں کو بشارت

تیسرے سبب کے طور پر احادیث شریفہ سے تین طرح کے اوقات ثابت ہیں۔  
(۱) جو شخص جمعہ کے دن یا رات میں رحلت کر جائے اس کو بھی قبر کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی بشارت دی گئی ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْحُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ

الْقَبْرِ۔ (ترمذی شریف ۲۰۵/۱)

جو مسلمان شخص جمعہ کے دن یا اس کی رات میں انتقال کر جائے تو اللہ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔

(۲) بعض ضعیف روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں مرنے والوں

سے قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ (شرح الصدور عن البہقی ۲۵۳) (واللہ تعالیٰ اعلم)

(۳) اور علامہ قرطبی نے ایک روایت اس مضمون کی نقل فرمائی ہے کہ جس شخص کی موت

رمضان کے ختم پر یا عرفہ کے دنوں کے بعد یا اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد آئے وہ

جنت میں داخل ہوگا۔ (التذکرہ ۱۷۳) واللہ تعالیٰ اعلم۔

## عذاب قبر سے نجات کیسے؟

خاص اوقات میں وفات تو انسان کے اختیار میں نہیں لیکن وہ اختیاری اعمال

صالحہ جن کو احادیث میں عذاب قبر سے وقایہ قرار دیا گیا ہے ان کو اختیار کرنے کی کوشش ہر

مسلمان کو کرنی لازم ہے، درحقیقت تمام ہی اعمال صالحہ اپنی اپنی جگہ عذاب قبر سے بچانے کا

ذریعہ ہیں، بہت سی روایات اس پر دال ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال صالحہ اسے

چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور جدھر سے بھی عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ

عذاب سے رکاوٹ بن جاتے ہیں، نیز خصوصی طور پر ہر رات سورہ ملک کا پڑھنا عذاب

قبر سے بچانے میں انتہائی مؤثر ترین عمل ہے اسی لئے اس سورت کا نام ہی "مانعہ

" اور "منجیہ" پڑ گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کیلئے عذاب سے

بچانے کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کی فضیلت سورہ المجدہ کے بارے میں

بھی وارد ہے، نیز سورہ زلزال جمعہ کی رات میں مغرب کے بعد دو رکعت نماز میں اس طرح

پڑھنا کہ ہر رکعت میں پندرہ مرتبہ یہ سورت پڑھی جائے، اس عمل کو بھی عذاب قبر سے بچنے

کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ (شرح الصدور ۲۵۲:۲۵۳)



علاوہ ازیں عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لئے ان تمام اعمال سیدہ اور گناہ کے کاموں سے بچنا بھی لازم ہے، جن کو احادیث طیبہ میں عذاب قبر کے اسباب میں شمار کرایا گیا ہے۔

## عذاب قبر کے عمومی اسباب

احادیث شریفہ میں نبی کریم ﷺ نے ان اسباب اور معاصی کی نشاندہی فرمادی ہے جن سے اکثر انسان عذاب قبر کا مستحق بن جاتا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کا گزر دو قبروں پر ہوا جنہیں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا ہے (یعنی جسے تم بڑا سمجھتے ہو) ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا فحش پیشاب سے محفوظ نہیں رہتا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے ایک تروتازہ شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا ہر قبر پر گاڑ دیا، اور ارشاد فرمایا کہ امید ہے کہ ان کے خشک ہونے تک ان دونوں سے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔

(بخاری شریف ۱۸۳۱، مسلم شریف ۱۳۱۱)

اس حدیث میں جو عذاب قبر کے اسباب بیان کئے گئے ہیں ان کے متعلق سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، افسوس کی بات ہے کہ یہ دونوں ہی اسباب آج کثرت سے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، غیبت، چغلی حتیٰ کہ بہتان تراشی کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح نئی تہذیب کے متوالے پیشاب کے قطرات سے طہارت کو فضول سمجھتے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کر دینا اور پاکی اور استنجا کے بغیر زندگی گزارنا محبوب ہی نہیں رہا، اس معاملے میں نئی تہذیب نے انسان کو بے عقل جانوروں کی صف میں لاکر آیا ہے۔ (اللهم احفظنا منه)

## آنحضرت ﷺ کا ایک عبرت ناک خواب

حضرت سمرہ بن جندبؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ صبح کی نماز پڑھ کر ہماری

طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا اور آپ اس کی مناسب تعبیر ارشاد فرماتے، ایک دن آپ نے اسی طرح سوال فرمایا تو ہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، تو اس پر آپ نے اپنا طویل خواب حضرات صحابہؓ کو سنایا کہ آپ کو دو شخص ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور امت کے گنہگاروں پر برزخی زندگی میں جو عذاب ہو رہے ہیں ان کا تفصیل سے مشاہدہ کرایا جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

(۱) آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک دوسرا شخص لوہے کا زنبور لئے کھڑا ہے اور وہ اس زنبور سے بیٹھے ہوئے شخص کے ایک کلمے کو گدی تک چیر دیتا ہے، پھر دوسرے کلمے کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، اتنے میں پہلا کلام صحیح ہو جاتا ہے، برابر اس کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ بعد میں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ جس کا کلام چیرا جا رہا ہے وہ جھوٹا شخص ہے، جس پر اعتماد کرتے ہوئے لوگ اس کی بات دنیا جہاں میں پھیلا دیتے ہیں۔

(۲) ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا شخص اس کے سر کے پاس بڑا سا پتھر لئے ہوئے کھڑا ہے جس سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا ہے۔ پتھر ٹھک کر کچھ دور چلا جاتا ہے، تو اتنے میں کہ وہ اسے اٹھا کر لائے اس کا سر پھر ویسا ہی صحیح سالم ہو جاتا ہے پھر اس کو مارتا ہے اور یہی سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ اس کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ وہ عالم دین تھا جو نہ تو رات میں علمی مشغولیت میں رہتا تھا اور نہ دن میں اس پر عمل کرتا تھا۔

(۳) اسی خواب میں آپ نے ایک بڑا گڈھا دیکھا جو آگ کے تنور کے مانند تھا، جس کا اوپری حصہ تنگ تھا اور نچلا حصہ بہت کشادہ تھا جس میں آگ دہک رہی تھی، اس میں نئے مرد و عورت تھے جو جل جھن رہے تھے، جب آگ کی لپٹیں بلند ہوتیں تو وہ اوپر آ کر نکلنے کے قریب ہو جاتے پھر نیچے تہ میں چلے جاتے۔ ان کے متعلق

پوچھنے سے پتہ چلا کہ یہ حرام کار اور زنا کار لوگ ہیں قیامت تک ان کے ساتھ یہی معاملہ جاری رہے گا۔

(۳) اسی طرح آپ نے دیکھا کہ خون کی نہر کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے کنارے پر دوسرا شخص ہاتھ میں پتھر لئے ہوئے موجود ہے، جب نہر والا شخص باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شخص پتھر مار کر اسے اپنی جگہ لوٹا دیتا ہے۔ اس کے متعلق جب آپ نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ یہ سود خور شخص ہے، قیامت تک اسے خون کی نہر میں رہنا پڑے گا۔ اعاذنا اللہ منها۔ (بخاری شریف ۱۸۵/۱، ص ۱۸۵)

نبی کا خواب بھی چونکہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے لہذا خواب میں جو حالتیں دکھائی گئی ہیں ان کے واقعی ہونے میں کسی شک یا شبہ کا امکان نہیں ہے، یہ برزخ کے حالات ہیں۔ جو مذکورہ جرائم میں مبتلا لوگوں کے ساتھ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان اسباب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

## نا جائز مقاصد سے زیب و زینت کرنے والوں کو عذاب

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے کچھ مردوں کو دیکھا جن کی کھالیں تپنچی سے کاٹی جا رہی تھیں، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ وہ مردہ لوگ ہیں جو حرام (اجنبی عورتوں) کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے زیب و زینت کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا! کہ میں نے ایک بد بودار کتواں دیکھا جس میں چیخ و پکار کی آواز آرہی تھی، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ اس میں وہ عورتیں ہیں جو ایسے مردوں کو رجمانے کے لئے زیب و زینت کرتی تھیں جو انکے لئے حلال نہیں ہیں۔ (شرح المصنوعین، ص ۱۳۱)

غور کیجئے کیا آج یہ برائی معاشرہ میں عام نہیں ہے؟ نئی تہذیب کے متوالے مادر پدر آزادوں جو ان لڑکے اور لڑکیاں حرام کاری کے لئے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کو تیار ہیں، عورتیں گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لئے زیب و زینت شاذ و نادر کرتی ہیں

اور تقریبات یا بازاروں کے سیر و تفریح کے لئے پورا میک اپ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب آخرت کے عذاب سے بے فکری کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کے تقاضوں کے قطعاً خلاف ہیں۔

## نماز بے وقت پڑھنے والے کی سزا

اسی خواب سے متعلق بعض روایتوں میں یہ تفصیل ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جس کی کھوپڑی کو ایک بڑے پتھر سے اس زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کا مغز نکل کر باہر آ جاتا ہے اور پتھر دور جا گرتا ہے۔ جب آپ نے اس بد نصیب شخص کے بارے میں سوال کیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں تھا اور دیگر نمازیں بھی وقت سے بے وقت پڑھتا تھا لہذا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ العیاذ باللہ (شرح الصدور/۳۳۲)

## چغلی خور کی سزا

پھر آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک بڑے قینچے سے اس کے کلمے چیرے جارہے ہیں، اس کے متعلق معلوم کیا تو بتایا گیا یہ شخص لوگوں کی چغلیاں کھاتا تھا جس سے لوگوں میں فتنہ و فساد برپا ہو جاتا تھا۔ (شرح الصدور/۳۳۲)

## سود خور کی بدترین سزا

پھر آپ نے دیکھا ہے کہ خون کی ایک نہر ہے جو اس طرح گرمی سے کھول رہی ہے جیسے آگ پر رکھی ہوئی دیکھی کھولتی ہے۔ اس نہر میں کچھ ننگے لوگ ہیں، اور نہر کے کناروں پر فرشتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے ہیں، نہر کے لوگوں میں جب بھی کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پر اس زور سے ڈھیلا کھینچ مارتے ہیں کہ وہ شخص پھر نہر کی تہ میں گر جاتا ہے۔ ان لوگوں کے متعلق آپ کو بتایا گیا کہ یہ لوگ امت

کے سو ذخور ہیں، ان کو قیامت کے دن تک یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اعاذنا اللہ من ذلك (شرح الصدور ۲۳۲)

سفر معراج سے متعلق بعض روایتوں میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے (انسان کے رہنے کے) گھر ہوتے ہیں، اور ان میں سانپ تھے، جو باہر سے نظر آ رہے تھے، میں نے کہا: جبرمیل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سو دکھانے والے بدنصیب لوگ ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ۳۲۶)

یہ ہے حرام کمانی کا بدترین وبال! اس لئے ہر مسلمان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی آمدنی خالص حلال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

## زنا کاروں کا انجام

اور امت کے زنا کاروں کو آپؐ نے اس حال میں دیکھا کہ وہ ننگے ہونے کی حالت میں آگ کے بڑے کمرے میں بند ہیں اور وہاں سے اتنی سخت بدبو اور تعفن اٹھ رہا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی ناک شدید بدبو کی وجہ سے بند کرنی پڑی۔ آپؐ کو بتایا گیا کہ یہ لوگ زنا کار مرد و عورت ہیں اور یہ شدید ناقابل برداشت بدبو ان کی شرمگاہوں سے آ رہی ہے۔ اعاذنا اللہ منہ (شرح الصدور ۲۳۳)

اور سفر معراج میں آپؐ نے دیکھا کہ ایک طرف ایک خوان میں تازہ حلال گوشت رکھا ہے اور دوسری طرف دوسری طشت میں سڑا ہوا گوشت موجود ہے مگر لوگ حلال گوشت چھوڑ کر حرام سڑا ہوا بدبو دار گوشت کھا رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال راستہ چھوڑ کر حرام طریقہ اختیار کرتے ہیں (مثلاً مرد کے پاس حلال اور طیب بیوی موجود ہے مگر وہ اسے چھوڑ کر ایک زانیہ بدکار فاحشہ کے ساتھ شب باشی کرتا ہے، یا عورت کے پاس حلال شوہر موجود ہے مگر وہ اس کے پاس نہ رہ کر غیروں کے ساتھ رات گزارتی ہے)

اور آپؐ نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پستانوں کے ذریعے لٹکادی گئی ہیں

اور وہ چیخ و پکار کر کے اللہ سے فریاد کرتی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی زنا کار عورتیں ہیں۔ اللہم احفظنا منہ۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۳۹۲/۲، ۳۹۳)

## لواطت کرنے والوں کی بدترین سزا

اسی طرح آپؐ نے دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلہ ہے جس پر کچھ مخلوط الحواس لوگ موجود ہیں، ان کے پیچھے کے راستے سے دکتی آگ ڈالی جا رہی ہے جو ان کے جسموں سے ہو کر منہ، ناک، کان، اور آنکھوں کے راستے سے خارج ہو رہی ہے۔ اس ہولناک عذاب میں مبتلا لوگوں کے بارے میں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ لواطت کرنے والے (یعنی مرد ہو کر مرد ہی سے جنسی خواہش پوری کرنے والے غلیظ) لوگ ہیں، اس کام کو کرنے والے اور کرانے والے دونوں عذاب میں گرفتار ہیں۔ العیاذ باللہ۔ (شرح الصدور ۳۳۲)

## بے عمل واعظوں کا انجام

معراج کے سفر میں آپؐ کا گزرا ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، کاٹنے کے بعد فوراً وہ اپنی اصلی حالت میں آجاتے تھے اور پھر انہیں کاٹا جا رہا تھا، برابر یہی سلسلہ جاری تھا، آپؐ نے حضرت جبریلؑ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ امت کے بے عمل، فتنہ میں مبتلا واعظ ہیں (جو دوسروں کو نصیحت تو کرتے تھے مگر خراس پر عامل نہیں تھے) (دلائل النبوة ۳۹۸/۲، مشکوٰۃ شریف ۳۳۸)

## قومی مال میں خیانت کرنے والوں کو عذاب قبر

حضرت رافعؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ قہج کے قبرستان سے گزرا تو آنحضرت ﷺ نے "اُف، اُف" فرمایا، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپؐ مجھ سے یہ ناگواری کا کلمہ فرما رہے ہیں چنانچہ میں نے فوراً عرض کیا کہ حضرت! مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ حضرت نے فرمایا: کہ کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا حضرت نے مجھے دیکھ کر

﴿ اللہ سے شرم کھینچنے ﴾ ﴿ ۳۱۳ ﴾

"اُف" فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں دیکھ کر میں نے یہ کلمہ نہیں کہا بلکہ اس قبر والے فلاں شخص کو میں نے فلاں قبیلہ کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے عامل بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے وہاں ایک کرتہ خیانت کر کے چھپا لیا تھا، اب اسی جیسا آگ کا کرتہ اسے قبر میں پہنا دیا گیا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ (مسند احمد ۳۹۲/۱، شرح الصدور ۲۳۸)

یہ روایت قومی و ملی کام کرنے والوں کے لئے سخت خطرہ کا پتہ دیتی ہے۔ اگر مالی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی برتی جائے تو قبر میں ہولناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف و خشیت عطا فرمائے۔ (آمین)

## قبر کے عذاب کا عام لوگوں کو مشاہدہ

اگرچہ اللہ تعالیٰ کا عام دستور یہی ہے کہ عذاب قبر کا مشاہدہ عام جناتوں اور انسانوں کو نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لئے بعض احوال ظاہر کر دیتے ہیں، چنانچہ مواظظ و عبر کی کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جن میں قبر کے حالات کے مشاہدہ کا ذکر ہے، اور قدرت خداوندی سے یہ امر بعید بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بعض لوگوں پر حالات منکشف کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ ذیل میں ہم اس طرح کے چند واقعات نقل کرتے ہیں تاکہ ان کے مطالعہ سے عبرت حاصل ہو سکے۔

## دھوکے باز کو عذاب قبر

(۱) عبد الحمید ابن محمود مغولی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ کی مجلس میں حاضر تھا، کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم ذات الصفاح (ایک مقام کا نام) پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، چنانچہ ہم نے اس کی تجھنڈ و تکفین کی، پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا، جب ہم کھود چکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کالے ناگ نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی سانپ موجود تھا، اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں

﴿ اللہ سے علوم کہنے ﴾ ﴿ ۳۱۲ ﴾

آئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ سانپ اس کا وہ بد عمل ہے جس کا وہ عادی تھا، جاؤ اسے اسی قبر میں دفن کر دو، اللہ کی قسم اگر تم اس کے لئے پوری زمین کھوڈ لو گے پھر بھی وہ سانپ اس کی قبر میں پاؤ گے، بہر حال اسے اسی طرح دفن کر دیا گیا، سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس کی بیوی سے اس شخص کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ غلہ بیچتا تھا اور روزانہ بوری میں سے گھر کا خرچ نکال کر اس میں اسی مقدار کا بھس ملا دیتا تھا۔ (گویا کہ دھوکہ سے بھس کو اصل غلہ کی قیمت پر فروخت کرتا تھا)۔ (بیہقی فی شعب الامان بحوالہ شرح الصدور ۲۳۹)

## غسل جنابت نہ کرنے کی سزا

(۲) ابان ابن عبداللہ السجلی کہتے ہیں کہ ہمارے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا، چنانچہ ہم اس کے غسل اور تجہیز و تکفین میں شریک رہے، مگر جب ہم اسے قبرستان لے کر پہنچے تو اس کے لئے جو قبر کھودی گئی تھی اس میں مٹی جیسا ایک جانور نظر آیا، لوگوں نے اسے وہاں سے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ وہاں سے نہیں ہٹا، مجبور ہو کر دوسری قبر کھودی گئی تو اس میں بھی وہی جانور موجود ملا، تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، عاجز آ کر لوگوں نے اسی کے ساتھ اس شخص کو دفن کر دیا۔ ابھی قبر برابر ہی کی گئی تھی کہ قبر سے ایک زبردست دھماکہ کی آواز سنی گئی، لوگوں نے اس کی بیوی کے پاس آ کر اس شخص کے حالات معلوم کئے تو پتہ چلا کہ وہ جنابت سے غسل نہیں کرتا تھا۔ (شرح الصدور ۲۳۳)

## نماز چھوڑنے اور جاسوسی کی سزا

(۳) عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والے ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا، بھائی نے کفن دفن کا انتظام کیا پھر اسے یاد آیا کہ دفن کرتے وقت اس کی ایک تھیلی قبر میں رہ گئی ہے چنانچہ وہ اپنے ایک ساتھی کو لے کر قبرستان گیا اور قبر کھود کر اپنی تھیلی نکالی پھر اپنے ساتھی سے کہا کہ تم ذرا ہٹ جاؤ میں بظنی قبر کی اینٹ ہٹا کر اپنی بہن کو دیکھنا



﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ﴾ ﴿٢١٥﴾

چاہتا ہوں، اس نے جیسے ہی اینٹ ہٹائی تو دیکھا کہ پوری قبر آگ کے شعلوں میں گھری ہوئی ہے، اس نے جلدی سے قبر بند کی اور اپنی والدہ کے پاس آ کر بہن کا حال معلوم کیا تو والدہ نے بتایا کہ وہ نماز دیر کر کے پڑھتی تھی، اور بلا وضو بھی ٹرخالتی تھی، اور جب پڑوسی سو جاتے تو وہ کمروں کے دروازے پر کان لگا کر ان کے چہرے ہونے واز حاصل کیا کرتی تھی۔ (شرح الصدور ۳۳)

## ابو جہل کو عذاب قبر

(۴) حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بدر کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص زمین سے لکلا جس کی گردن میں ایک زنجیر ہے اور اس کے ایک سرے کو ایک کالے شخص نے تمام رکھا ہے، وہ نکلنے والا آدمی مجھ سے خطاب کر کے پانی مانگنے لگا، مگر کالے شخص نے فوراً کہا اسے پانی مت پلانا یہ کافر ہے پھر اسے کھینچ کر زمین میں داخل کر دیا، میں نے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں آ کر پورا قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی تم نے اسے دیکھا ہے! یہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا قیامت تک اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ (۱۵۳، شرح الصدور)

## قبر میں جاری نفع بخش امور

قبر کے زمانہ میں نفع پہنچانے والے امور دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ خاص اعمال صالحہ ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارٍ يَتْلُو عَلَيْهَا يَتَّبِعُ بِه

أَوْ وَكَيْدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ۔ (مسلم حریف ۳۱۱۲)

جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین اعمال کا ثواب بعد میں بھی جاری رہتا ہے (۱) صدقہ جاریہ (۲) نفع بخش علم (۳) نیک بولاد و والدہ

کے لئے دعائے خیر کرے۔

اس حدیث میں صدقہ جاریہ مثلاً مساجد و مدارس کی تعمیر، اور علم نافع جس میں علمی تقنیفات اور شاگردوں کے ذریعہ علمی فیضان کی تمام صورتیں داخل ہیں، اور صالح اولاد کو مسلسل ثواب کا سبب قرار دیا گیا ہے جو نہایت اہم بشارت ہے، ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان اعمال کو اختیار کرے تاکہ قیامت تک اس کے لئے ثواب جاری رہنے کا انتظام ہو سکے ماسی طرح ایک اور روایت میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ

أَجْرِهِمْ شَيْءٌ۔ (مسلم شریف ۴۱/۳۲۷)

جو شخص کوئی اچھا طریقہ اختیار کرے تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا اور جو لوگ اس دینی طریقہ پر عمل کریں گے ان کے ثواب میں کسی کٹوتی کے بغیر اس موجد خیر کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔

اسی بنا پر آنحضرت ﷺ نے امت کے ہر فرد کو تلقین فرمائی ہے کہ وہ خیر کے دروازے کو کھولنے والا اور شر کے دروازے کو بند کرنے والا بن جائے۔

## ایصال ثواب

دوسری چیز جو میت کو قبر میں نفع دیتی ہے وہ میت کو غیروں کی طرف سے پہنچنے والا ثواب ہے۔ جس طرح زندگی میں کسی تحفے تحائف سے آدمی کو مسرت اور بشارت حاصل ہوتی ہے اور وہ ان سے دنیا میں نفع اندوز ہوتا ہے اسی طرح قبر میں جب میت کے پاس روحانی تحفے بصورت اجر و ثواب پہنچتے ہیں تو اسے مسرت حاصل ہوتی ہے اور وہ ان تحائف سے لطف اندوز ہوتا ہے، دعائے خیر صدقہ خیرات اور حج کا ثواب میت کو پہنچنے پر امت کا اتفاق ہے۔ (نوری علی سلمہ مقدمہ ۱۳۱)

اور اس بارے میں صحیح احادیث بھی وارد ہیں، اس پر قیاس کرتے ہوئے علماء حنفیہ اور جمہور اہل سنت و الجماعت کا موقف یہ ہے کہ دیگر عبادات نماز، روزہ اور قرآن کریم کی

تلاوت وغیرہ کا ثواب بھی میت کو پہنچایا جاسکتا ہے۔ (شرح فقہ اکبر للملا علی قاری ۲۲۶، ۲۲۵)  
علامہ شامیؒ نے البحر الرائق اور بدائع الصنائع سے نقل کیا ہے کہ:

مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَحَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءِ  
حَازَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْحَمَاعَةِ۔ (شامی ۱۴۲۳)

جو شخص روزہ رکھے، نماز پڑھے، یا صدقہ دے اور اس کا ثواب دوسرے مردہ یا زندہ شخص کو پہنچادے تو یہ جائز ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان اعمال کا ثواب مذکورہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔

بہر حال میت کو ثواب پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے، تاہم اس میں کسی عمل یا وقت کی تخصیص نہ ہو، بلکہ جب موقع ہو اور جیسی ضرورت ہو ثواب کی نیت کر لی جائے مثلاً روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہؓ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے آنحضرت ﷺ سے آکر عرض کیا کہ حضرت میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لئے کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا پانی (یعنی ان کی طرف سے عام مسلمانوں کے لئے پانی کا نظم کر دیا جائے) چنانچہ حضرت سعد بن عبادہؓ نے ایک کواں کھدوایا اور پھر اعلان کر دیا کہ اس کا ثواب ان کی والدہ ام سعدؓ کے لئے ہے۔ (مسند احمد ۷، سنن ابی داؤد، شرح الممدود ۳۹۸)

اسی طرح جیسی ضرورت ہو ایصالِ ثواب کر دیا جائے، آج کل جو جاہلوں نے ایصالِ ثواب اور نیاز کے خاص طریقوں کی تعیین کر رکھی ہے ان کا شرعاً ثبوت نہیں ہے، مروجہ تیج، دسویں، اور چالیسویں وغیرہ کی رسمیں یقیناً بدعت ہیں، ان کا ترک لازم ہے، ایصالِ ثواب بلا التزام اور بغیر کسی تعیین و تخصیص کے ہونا چاہیے۔

بعض مشائخ اور علماء نے قبر پر حاضری کے وقت بعض سورتیں مثلاً سورہٴ یس، سورہٴ فاتحہ، سورہٴ اخلاص، سورہٴ نکات وغیرہ پڑھ کر پہنچانے کی تلقین فرمائی ہے۔ لیکن ان سورتوں کی تعیین بھی لازم نہیں بلکہ کچھ بھی پڑھ کر ایصالِ ثواب کیا جاسکتا ہے۔



## باب ششم

# قیامت کے احوال

- قیامت ضرور آئے گی
- دوبارہ زندگی اور میدان محشر میں اجتماع
- حوض کوثر
- شفاعت کبریٰ
- حساب کتاب کا آغاز
- میزان عمل
- رحمت خداوندی

## پہلی فصل

### قیامت ضرور آئے گی

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خاص وقت تک کے لئے آباد کیا ہے، ایک دن وہ ضرور آنے والا ہے جب دنیا کی ساری رونق سینکڑوں میں کانور ہو جائے گی، اور سارا نظام کائنات لپیٹ دیا جائے گا، ذرات کا تو کیا کہنا ناقابلِ تسخیر بڑے بڑے پہاڑ، روٹی کے گالوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے، سورج اور چاند اور ہزاروں سال سے روشنی دینے والے ستارے بے نور ہو جائیں گے، اس وقت کے تصور ہی سے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن پر کچھی چڑھ جاتی ہے، قرآن وحدیث میں قیامت کا تعارف اور اس پر یقین رکھنے پر بہت زور صرف کیا گیا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قیامت کا استحضار اور تصور ہی انسان کو برائیوں سے محفوظ رکھنے پر مجبور کر سکتا ہے، جبکہ قیامت سے غفلت شعاری انسان کو بے راہ روی کا شکار بنا دیتی ہے۔ بہت سے اہل مذاہب اسی لئے گمراہ ہوئے کہ ان کے یہاں قیامت کا تصور ہی نہیں وہ دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے رہے اور جب اگلی زندگی کا انہوں نے تصور قائم نہ کیا تو اس کے لئے تیاری کے بھی کوئی بھی معنی باقی نہ رہے۔ اسی لیے اسلام کے بنیادی اور اہم ترین عقائد میں سے قیامت اور آخرت پر ایمان لانا بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ اس سلسلے کی تفصیلات سے بھری پڑی ہیں۔

### قیامت کب آئے گی؟

قیامت کا یقینی وقت تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ۔ (لقمان)

بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔

اور حدیث جبرئیل میں ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جب آنحضرت ﷺ

سے سوال کیا "کہ قیامت کب آئے گی؟" تو آپ نے فرمایا "اس بارے میں میرا علم سائل سے زیادہ نہیں ہے" (یعنی جس طرح پوچھنے والے کو اس کی خبر نہیں اسی طرح مجھے بھی اس کا حقیقی وقت معلوم نہیں) (مسلم شریف ۲۹۱۱) تو ظاہر ہے کہ جب حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم نہیں تو دنیا میں اور کس کو یہ علم ہو سکتا ہے؟۔

## قیامت کی دس قریبی علامتیں

البتہ احادیث شریفہ میں قیامت سے پہلے کی بہت سی علامتیں بتلائی گئی ہیں، ان میں دو طرح کی علامتیں ہیں ایک تو مطلق علامتیں مثلاً معاشرہ میں پھیل جانے والے منکرات، بے حیائیاں، فحاشیاں، بددیانتی، اور نا اہلوں کا حکومتوں پر قبضہ وغیرہ، اور دوسرے قریبی علامتیں، جن کے وجود کے بعد بس دنیا کی زندگی اب اور تب کی رہ جائے گی، اور ان سب کے تحقق کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

حضرت حدیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اسی دوران نبی اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور سوال فرمایا کہ کیا گفتگو چل رہی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت! ہم قیامت کے متعلق تذکرہ میں مشغول تھے۔ تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے دس علامات نہ دیکھ لو وہ علامتیں یہ ہیں:

### (۱) دحان

(یہ ایک خاص قسم کا دھواں ہوگا جو مشرق و مغرب میں ۴۰ دن تک برابر پھیلا رہے گا، جس کے اثر سے کافروں پر مدھوشی طاری ہو جائے گی اور اہل ایمان کو صرف زلزلہ زکام جیسی تکلیف ہوگی)۔ (مرقاۃ ۱۵/۱۸۷)

### (۲) دجال

(ایک آنکھ سے کانٹا، کر یہ صورت دجال ظاہر ہوگا جس کی پیشانی پر، ہ، ف، ہ،

لکھا ہوگا جسے ہر شخص پڑھ لے گا چاہے پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو، یہ عجیب و غریب شعبہ دے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا اور مکہ، مدینہ کے علاوہ پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ سارے شیاطین، یہودی اور اسلام دشمن طاقتیں اس کے ساتھ ہوں گی، وہ ۴۰ دن دنیا میں رہے گا، جن میں پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا ایک ماہ کے برابر تیسرا ایک ہفتہ کے برابر اور بقیہ ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پچھا کریں گے اور ان کو دیکھ کر وہ ایسا کھینچنے لگے گا جیسے نمک پانی میں کھلتا ہے۔ تا آنکہ "باب لد" پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر ڈالیں گے۔ (ابن ماجہ، کتاب الجن حدیث: ۴۰۷۷)

### (۳) دابۃ الارض

یہ ایک محیر العقول جانور ہوگا (جس کی اصل صورت و کیفیت اللہ کو ہی معلوم ہے) جو صفا پہاڑی سے نکل کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا، اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، وہ انگوٹھی سے ہر مؤمن کے چہرے پر ایمان کی مہر لگا دے گا اور عصا سے کافر پر کفر کا نشان لگا دے گا، اس کے بعد کافر الگ اور مؤمن بالکل الگ ہو جائیں گے، کسی کا ایمان و کفر چھپا ہوا نہ رہے گا۔

(روح المعانی، ۲۳/۲۲/۲۰، المفہم ۲۳۳/۷)

### (۴) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا

(قیامت کے دن بالکل قریبی زمانے میں ایک دن سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر لوٹ کر مغرب ہی میں غروب ہو جائے گا۔ اس علامت کے ظہور کے بعد توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا۔ کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا)۔ (مسلم شریف مع المفہم للقرطبی ۲۳۲/۷، مطبع الباری ۳۳۲/۱۴)

### (۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول

(حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، متواتر نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ

آپ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور وہاں زندہ موجود ہیں اور مقررہ وقت پر دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ اور شریعت محمدیہ کے مطابق امت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اور آپ کے ہاتھوں کا نادجال جہنم رسید ہوگا۔ (مسلم شریف ۳۰۱۲)

## (۶) یا جوج ماجوج کا خروج

یہ بھی اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے، دجال کے قتل ہو جانے کے بعد اور پوری دنیا میں اسلام کا پھر رالہ رانے کے بعد حضرت عیسیٰؑ کی حیات میں کروڑوں کی تعداد میں یا جوج ماجوج پوری دنیا کے چپہ چپہ پر اتر آئیں گے، یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ تمام بیٹھے پانی کے چشمے پی پی کر بالکل صاف کر دیں گے، اور تمام دنیا کے جانوروں کو کھا جائیں گے اور جب انہیں کوئی نظر نہیں آئے گا تو اپنے تیر آسمان کی جانب چلا کر یوں کہیں گے کہ ہم نے سب دنیا والوں کو ختم کر دیا اب آسمان والوں کا نمبر ہے اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون کے رنگ میں رنگ کر واپس لوٹا دے گا جس سے وہ اس غلط فہمی میں پڑ جائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر ڈالا ہے پھر حضرت عیسیٰؑ ان کے حق میں بددعا کریں گے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کر کے مار ڈالے گا اور پوری زمین ان کی نعشوں سے ہٹ جائے گی اور سخت بدبو اٹھ پڑے گی پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے پھر اللہ تعالیٰ تیز ترین بارش سے روئے زمین کو دھو ڈالے گا اور زمین اپنے تمام خزانوں کو اگل دے گی حتیٰ کہ ایک ایک اتار ایک بڑی جماعت کے لئے اور ایک اونٹنی کا دودھ تمام گھر والوں کے لئے کافی ہو جائے گا لیکن یہ رونق چند سالہ ہوگی پھر ایک ایسی عمدہ ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی اور روئے زمین پر سوائے کفار کے کوئی باقی نہ رہے گا۔

(کتاب المعن ۳۵۶-۳۶۸، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰)

## (۷، ۸، ۹) زمین میں دھنسنے کے تین واقعات

جن میں سے ایک واقعہ مشرق دوسرا مغرب اور تیسرا جزیرۃ العرب میں پیش



## (۱۰) یمن میں آگ

اور سب سے اخیر میں یمن کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو سمیٹ کر محشر کی جانب لے جائے گی (بعض روایتوں میں اس آگ کے جواز سے نکلنے کا ذکر ہے تو ممکن ہے کہ دونوں جگہ سے آگ نکل کر لوگوں کو سمیٹ دے اور یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہ رہے گا۔ (مسلم شریف مع اکمال المعلم لقاضی عیاض ۴۳۲/۸)

## علامات کی ترتیب

حدیث بالا میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ بالترتیب نہیں ہیں بعض دیگر احادیث میں بالترتیب علامات بیان ہوئی ہیں مگر ان میں بھی اختلاف ہے، اس لئے اس موضوع کی تمام روایات کو سامنے رکھ کر محققین علماء نے یہ رائے قائم فرمائی کہ یہ علامات دو طرح کی ہیں:

اول تمہیدی علامات ہیں جن کی ابتداء زمین میں دھنسنے کے واقعات سے ہوگی اس کے بعد دجال کا ظہور حضرت عیسیٰ کا نزول، دخان اور یاجوج ماجوج کی آمد کے واقعات پیش آئیں گے۔

دوسرے وہ علامتیں ہیں جن کا تعلق نظام کائنات کی تبدیلی سے ہے اس سلسلے کی ابتداء سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے ہوگی اس علامت کو دیکھ کر چونکہ ہر آدمی کو اللہ کی قدرت پر یقین آجائے گا اس لئے اب توبہ اور ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اسی دن شام کو "دلبۃ الارض" نکلے گا جو کافر اور مؤمن کے درمیان حتمی طور پر امتیاز کر دے گا، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک خاص ہوا چلے گی جسے محسوس کر کے ہر مؤمن وفات پا جائے گا اور روئے زمین پر کوئی مؤمن باقی نہ رہے گا، اس کے بعد سب سے آخری علامت کے طور پر ایک آگ کا ظہور ہوگا جو تمام باقی ماندہ انسانوں کو سمیٹ کر سر زمین شام میں جمع کر دے

گی۔ یہیں میدان حشر پھا ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسلم شریف کی روایتوں میں ہے:

وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ۔

اور ان دس علامتوں میں سے آخری علامت ایک آگ ہوگی جو یمن سے نمودار

ہوگی اور لوگوں کو ان کے محشر (ملک شام) کی طرف کھدیڑ دے گی۔

مذکورہ بالا ترتیب سے کافی حد تک روایات کا تعارض ختم ہو جاتا ہے۔

(مسند فتح الباری ۲۳۹/۱۳، المفہم شرح مختصر مسلم للقرطبی ۲۳۹/۲۳۳)

## قیامت سے پہلے لوگوں کا شام میں اجتماع

قیامت کے بالکل قریب پرفتن زمانہ میں لوگوں کو جبری طور پر سرزمین شام میں

سمیٹ دیا جائے گا اور مختلف انداز میں لوگ سمٹ کر یہاں جمع ہو جائیں گے۔ بخاری

شریف کی روایت ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ وَرَاهِبِينَ  
وَأَسْنَانَ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةَ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةَ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشْرَةَ عَلَى بَعِيرٍ وَيَحْشَرُ  
بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبَيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ  
أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا۔ (بخاری شریف ۹۶۰/۲، حدیث: ۶۰۲۲)

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو تین

طریقوں پر جمع کیا جائے گا، کچھ لوگ تو (عافیت) رغبت کرنے والے اور (بدامنی) سے

ڈرنے والے ہوں گے، اور کچھ دو ایک اونٹ اور تین ایک اونٹ پر، اور چار ایک اونٹ پر اور

دس ایک اونٹ پر ہوں گے، اور بقیہ لوگوں کو آگ سمیٹ کر لے چلے گی، اگر وہ لوگ دو پہر

میں کہیں آرام کریں گے تو آگ بھی وہیں ٹھہری رہے گی، اور رات جو جہاں سوئیں گے تو

آگ ان کے ساتھ ہوگی، اور صبح شام ہر وقت آگ ان کے ساتھ ساتھ رہے گی۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں علامہ خطابی اور علامہ طبری کے حوالے سے مذکورہ

حدیث کو قیامت سے پہلے کے واقعہ پر محمول فرمایا ہے اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ جب حقیقی یا فتنہ کی آگ بھڑکے گی تو ایک جماعت (یعنی راغبین و راہبین کہا گیا ہے) تو آرام سے سواریوں پر سوار ہو کر سابقہ خطرات سے ڈرتے ہوئے اور آگے کی عافیت کی امید رکھ کر ملک شام پہنچے گی۔ اور دوسرے (جن کی طرف ایک سواری پر کئی کئی کے سوار ہونے کے عنوان سے اشارہ کیا گیا ہے) وہ لوگ ہوں گے جو پہلے سے سستی کرنے کی وجہ سے بروقت الگ الگ سواری نہ پاسکیں گے اور ایک اونٹنی پر کئی کئی لوگ نسر وار یا ایک ساتھ بیٹھ کر محشر کی زمین کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس وقت سواریوں کی ایسی قلت ہو جائے گی کہ آدمی ایک اونٹنی خریدنے کے لئے اپنا شاندار باغ تک دینے کو تیار ہو جائے گا (جیسا کہ حضرت ابو ذرؓ کی حدیث میں ہے) اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس سواری ہی نہ ہوگی تو انہیں آگ ہنکا کر پیدل یا گھسیٹ کر محشر کے مقام پر جمع کر دے گی۔

اس کے برخلاف جن روایات میں مذکورہ حشر کی صورت کے ساتھ قیامت کے دن کا قصہ آیا ہے تو وہ اس وقت پر محمول کرنا اولیٰ ہوگا جب حساب وغیرہ کے بعد جنت یا جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تو اس وقت اہل ایمان سوار ہوں گے اور کفار کو چروں کے بل گھسیٹ کر نہایت ذلت سے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ واللہ اعلم

(فتح الباری ملخصاً ۳۶۲/۱۳-۳۶۵)

## قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟

قیامت کے قیام کے وقت روئے زمین پر کوئی اللہ، اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا۔ پوری دنیا میں کفر و شرک کا دور دورہ ہوگا، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کی طرح عرب میں بھی بت پرستی عام ہو جائے گی، اور لوگ جانوروں کی طرح بے حیائیوں اور بدکاریوں میں برسر عام جہلا ہو جائیں گے۔ علامہ مروزیؒ نے اپنی کتاب الفتن میں اس کی تفصیل اس طرح نقل فرمائی ہے:

فَيَكُونُ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ إِلَى الشَّامِ لَا يَعْرِفُونَ حَقَّوْا وَلَا فَرِيضَةً وَلَا يَعْلَمُونَ بِكِتَابِ

﴿ اللہ سے شرم کیجئے ﴾ ﴿ ۳۲۶ ﴾

اللَّهُ تَعَالَى وَلَا مَسْئَةَ نَبِيِّ يُرْفَعُ عَنْهُمْ الْعِقَابُ وَالْوَقَارُ وَيُظْهِرُ فِيهِمُ الْفُحْشَ وَلَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَا الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا يَتَهَارَجُونَ هُمْ وَالْحِجْنُ مِائَةَ سَنَةٍ تَهَارَجُ الْحَمِيرُ وَالْكِلَابُ يَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْحِجْنِ وَالْإِنْسِ وَتَتَهَارَجُ الرِّجَالُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُعْبَلُونَ الْأَوْثَانَ وَيَنْسُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَلَا يَعْرِفُونَهُ حَتَّىٰ أَنْ الْقَائِلَ لَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ مَا فِي السَّمَاءِ مِنْ إِلَهٍ شِرَارُ الْأَوْلِيَيْنِ۔ (کتاب الفتن/۳۸۰)

پس جو لوگ شام کی طرف سیٹے جائیں گے وہ کسی حق اور فرض کو نہ پہچانیں گے، اور کتاب و سنت پر عامل نہ ہونگے، حیا اور وقار و مروت سے محروم ہونگے، ان میں عریانیت پھیل جائے گی، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہ پہچانے گی، انسان و جنات و جنات و جنات و جنات و جنات و جنات کی طرح برسر عام زنا کاری کریں گے، آدمی جنات و انسان عورتوں سے جماعت کریں گے اور مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کریں گے، اور جنات و جنات کی پوجا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جائیں گے، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے کہے گا کہ آسمان میں کوئی خدا نہیں ہے، یہ لوگ اولین و آخرین میں سب سے بدترین لوگ ہونگے۔

اس کے بعد اچانک قیامت آجائے گی اور پھر کسی بھی کام کے لیے ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہ ملے گی، ارشاد خداوندی ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَاتَّسِقِلُونَ۔ (السباہۃ-۳۹۹-۴۰۰)

اور کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا نہ دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی نہ جلدی۔

اور بخاری شریف کی روایت میں ہے:

وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ بَيْنَهُمَا ثَوْبَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْلُبُونِيَّ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَيْنٍ لِقَحْتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيْطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ

أَحَدُكُمْ أُمَّتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا۔ (بخاری شریف ۲/۶۲۳، حدیث: ۶۵۰۶)

اور ضرور قیامت قائم ہوگی، جبکہ دو شخص آپس میں اپنے کپڑے پھیلانے کو تیار ہوئے مگر ناسے بیچ پائیں گے اور نہ لپیٹ پائیں گے، اور قیامت آجائے گی جبکہ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر لائے گا مگر اسے پی نہ پائے گا، اور قیامت قائم ہو جائے گی جبکہ ایک شخص اپنے خوض کی لپائی کر رہا ہوگا مگر اس میں جانوروں کو پانی نہ پلا پائے گا۔ اور ضرور قیامت آجائے گی کہ ایک شخص لقمہ منہ میں لینا چاہتا ہوگا مگر منہ تک نہ لیجا سکے گا (کہ قیامت آجائے گی)۔

### جب صور پھونکا جائے گا!

اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کا صور (ایک سینگ جس میں پھونک مارنے سے آواز نکلے گی) پھونکنے پر مامور فرما رکھا ہے اور یہ فرشتہ صور پھونکنے کے لیے بس اشارہ خداوندی کا منتظر ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَيْفَ آتَعَمُّ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدْ التَّقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْأُذُنَ مَتَى يُؤْمَرُ

بِالنَّفْحِ۔ (زواہ العرملی ۲/۶۹، تصحیح البخاری ۱۳/۴۳۸)

میں کیسے مطمئن رہ سکتا ہوں جبکہ صور کا ذمہ دار (فرشتہ) صور منہ میں ڈال کر کان اللہ کی طرف لگائے ہے کہ کب صور پھونکے جانے کا حکم جاری ہو جائے۔

چنانچہ جب مقررہ وقت آئے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام رب العالمین کے حکم سے پہلا صور پھونکیں گے۔ تو اس کی دہشت ناک آواز سنتے ہی ہر شخص بے ہوش ہو جائے گا۔ حاملہ عورتیں مارے ڈر کے اپنے حمل گرا دیں گی، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، آسمان پھٹ پڑیں گے، پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے۔ الغرض سارا نظام عالم تہہ وبالا ہو جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْثَةٌ وَاحِدَةٌ، وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكِّرَتَا

ذِكَّةً وَاحِدَةً، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.

(الحالہ ۱۳-۱۶)

پھر جب پھونکا جاوے سور میں ایک بار پھونکنا، اور اٹھائی جاوے زمین اور پہاڑ پھر کوٹ دیئے جائیں ایک بار پھر، اس دن ہو پڑے وہ ہو پڑنے والی، اور پھٹ جائے آسمان، پھر وہ اس دن نکھر رہا ہے۔

اس دن اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھے گا اور فرمائے گا:

أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مَلُوكِ الْأَرْضِ؟ (بخاری شریف ۲/۹۶۵، حدیث: ۲۵۱۹)

میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں گئے دنیا کے بادشاہ!

اس کے بعد ۴۰ سال تک پورا عالم ویران رہے گا۔ (بخاری ۱۳/۳۵۰)



## دوسری فصل

### دوبارہ زندگی اور میدان محشر میں اجتماع

پھر دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا، جس کی وجہ سے تمام مردے زندہ ہوا نہیں گئے، اور بے اختیار میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وَقَالُوا يَا بُولُوكَنَا  
مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً  
وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ (سورہ یسین آیت ۵۱-۵۳)

اور پھونکی جاوے صور پھر تمہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے، کہیں گے اے خرابی ہاری! کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے یہ وہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمن نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے، بس ایک چنگھاڑ ہوگی، پھر اسی دم وہ سارے ہمارے پاس پکڑے چلے آئیں گے۔

اور اس دن سب سے پہلے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے، آپ فرماتے ہیں۔

فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكْبَرُونَ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَىٰ  
بَاطِشٌ بِحَنَابِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرَىٰ أَمَا كَانَ مُوسَىٰ فِيمَنْ صَبَقَ وَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ  
مِمَّنْ اسْتَعْنَىٰ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ (بخاری شریف ۹۷۲/۲، رقم: ۲۵۷۱)

لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو گئے پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آؤنگا، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک کونہ پکڑے کھڑے ہیں، بس مجھے نہیں معلوم کہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہونے والوں میں تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ ان لوگوں میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی سے مستثنیٰ فرمایا ہے۔

امام قرطبی اپنے شیخ ابو العباس سے نقل فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو جو لوگ زندہ ہوں گے وہ مرجائیں گے۔ اور حضرات انبیاء علیہم السلام جو اگرچہ پہلے سے وفات پا چکے ہیں مگر ان کو ایک خاص برزخی زندگی حاصل ہے تو وہ اس صور پھونکنے جانے پر بے ہوش ہو جائیں گے، پھر جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غشی سے افاقہ فرمائیں گے، اور جب آپ دربار خداوندی میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی عرش ایزدی کا پایہ پکڑے کھڑے ہیں۔ تو آپ کو اس بارے میں تردد ہو گیا کہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر بے ہوشی سے محفوظ رکھا گیا (کیونکہ وہ طور پر تجلی کے وقت دنیا میں بے ہوش ہو چکے تھے) یا یہ کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے ہوشی سے افاقہ کی فضیلت عطا کی گئی ہے۔ بہر حال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزئی فضیلت ہے اس سے کلی فضیلت لازم نہیں آتی۔ (حدیث رقم ۱۹۱-۱۹۲، روح المعانی ۲۹/۳۳)

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے روضہ اقدس سے باہر تشریف لائیں گے تو ستر ہزار فرشتے بھی اعزاز کے طور پر آپ کے ساتھ ہونگے۔ اور آپ کے دائیں بائیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہونگے۔ (حدیث رقم ۱۷۲)

بعد ازاں جنت البقیع (مدینہ منورہ) اور جنت المصلىٰ (مکہ معظمہ) کے مدفون حضرات آنحضرت صلی اللہ کے جلوس میں شامل ہو کر میدان محشر کی طرف چلیں گے۔

## اللہ کی عظمت و جلال کا زبردست مظاہرہ

انسان جب مرجاتا ہے تو اس کا بدن اگرچہ گل سڑ جائے اور فنا ہو جائے۔ لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک دانہ بہر حال کہیں نہ کہیں اللہ کے علم میں محفوظ رہتا ہے اور اسی دانہ پر اللہ تعالیٰ دوبارہ جسم عطا فرما کر مخلوقات کو زندگی عطا فرمائے گا۔ ہر شخص کو ۶۰ ہاتھ کا بدن عطا کیا جائے گا۔ اس دن سب بے تختہ اور بے لباس ہونگے۔ اور سب بارگاہ رب



العزت کی طرف بے اختیار دوڑ پڑیں گے۔

دنیا کے تمام حکمرانین کا غرور ٹوٹ جائے گا۔ امیر و غریب، غلام اور آقا، حاکم اور رعایا یا سب احکم الحاکمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہونگے، ہوشیاری اور بیت کے مارے کسی کو دم مارنے کی ہمت نہ ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور جو جتنا بڑا خدا کا مجرم ہوگا اتنی ہی زیادہ ذلت و کبیت اور دہشت ناک گھبراہٹ اس پر طاری ہوگی، اس ہولناک دن کا ایک منظر قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ، يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۗ لِيُظْهِرَ لِلنَّاسِ الْكِبْرِيَاتِ الَّذِي هُمْ فِيهَا كَانُوا خَائِفِينَ ۗ لِيُذْخِرَ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ أُولَٰئِكَ يَكُونُ لَهُمْ فِي يَدَيْهِمْ أَجْرٌ ۗ لِيُجْزِيَ ۗ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِئِن نَّشَاءُ لَيُضِلَّنَّهُمْ وَلَيَحْمِلُنَّهُمْ وَاذْقُوهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطْمِئِنَّ مِنَ الْمُغْلِبِينَ مِنَ الْحَيِّينَ ۗ وَلَا تَشْفِعُ يُطَاعُ ۗ (الطہر آیت: ۱۶-۱۸)

تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے، چھپی نہ رہے گی اللہ پر ان کی کوئی چیز، کس کا راج ہے اس دن؟ اللہ کا ہے، اکیلا ہے دباؤ والا، آج بدلے کا ہر جی کو جیسا اس نے کمایا بالکل ظلم نہیں آج۔ وہ اللہ جلد لینے والا ہے حساب اور خبر سنا دیجئے اس نزدیک آنے والے دن کی جس وقت دل پہنچیں گے گلوں کو تو وہ دبا رہے ہونگے، کوئی نہیں گنہ گاروں کا دوست اور نہ سفارشی کہ جن کی بات ماننی جائے۔

اللہ اکبر! اس دن کے تصور ہی سے دل کانپ اٹھتا ہے اور بدن پر کھچی چڑھ جاتی ہے، وہاں دنیا کا منصب، مال و دولت اور خاندان کچھ کام نہ آئے گا، کامران صرف اور صرف وہی ہوگا جس نے اس دن کے آنے سے پہلے ہی احکم الحاکمین کی خوشنودی حاصل کرنے کا انتظام کر رکھا ہوگا، اے رب کریم! ہم سب کو اس دن کی سختیوں سے امان عطا فرما۔ آمین، ہم آمین۔

## میدانِ محشر کی زمین

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اللہ سے شروع کیجئے ﴾

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ  
الْقَهَّارِ مَوْتَرَى الْمُحْرَمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، سَرَّابِلُهُمْ مِنْ قَطْرَانَ وَتَغْشَى  
وَجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَلْجِزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔

(ابراہیم ۲۸-۵۱)

جس دن بدلی جائے اس زمین سے اور زمین، اور بدلے جائیں آسمان اور لوگ  
نکل کھڑے ہوں سامنے اللہ اکیلے زبردست کے۔ اور دیکھے تو گنہ گاروں کو اس دن باہم  
جکڑے ہوئے زنجیروں میں گرتے انکے ہیں گندھک کے، اور ڈھانکے لیتی ہے انکو  
آگ، تاکہ بدل دے اللہ ہر ایک جی کو، اس کی کمائی کا، بیشک اللہ جلد کرنے والا ہے حساب۔  
اس زمین کی تبدیلی کے متعلق حضرات علماء کی ۳ تشریحات ہیں:

(۱) بہت سے حضرات نے فرمایا کہ یہ تبدیلی حقیقی اور ذاتی ہوگی، اور موجودہ  
زمین کی جگہ ایسی زمین بچھائی جائے گی جس پر کسی معصیت کا صدور نہ ہوا ہوگا، حضرت  
عبداللہ بن مسعود کی ایک موقوف روایت ہے اس کی تائید ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ تبدیلی  
دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے درمیانی عرصہ میں پیش آئے گی، یعنی پہلی مرتبہ صورت پھونکے جانے  
پر تو تمام زمین و آسمان بکھر جائیں گے، اس کے بعد حشر قائم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ  
نئے آسمان اور نئی زمین پیدا فرمادے گا، اور اسی نئی زمین پر حشر پھا ہوگا۔ (فتح الباری ۱۳/۳۵۷)

(۲) بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تبدیلی حقیقی نہیں ہوگی  
بلکہ اس کی صفات بدل دی جائیں گی، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت میں ہے کہ  
قیامت کے دن زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ دیا جائے گا، اور اسی پر خلائق کو جمع کیا جائے  
گا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ زمین کے تمام پہاڑوں، اور عمارتوں کو  
برابر کر کے بالکل پینٹل میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ (فتح الباری ۱۳/۳۵۸)

(۳) اور تیسری رائے یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تبدیلی پہلے مرحلہ میں صورت  
پھونکے جانے پر تو محض صفات کے اعتبار سے ہوگی، اور پھر انہیں لپیٹ کر ان کی جگہ دوسری  
زمین اور آسمان قائم کر دیئے جائیں گے۔ (فتح الباری ۱۳/۳۵۶)

## موجودہ زمین کو روٹی بنا دیا جائے گا

بخاری شریف میں حضرت ابوسعید کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا:

تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكْفَوُهَا الْحَبَّارُ بَيْنَهُمْ كَمَا  
يَكْفَى أَحَدَكُمْ خُبْزَةً فِي السَّفَرِ نَزْلًا لِأَهْلِ الْحَنَّةِ عَنَّا رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ  
الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ آلا أَخْبِرُكَ بِنَزْلِ أَهْلِ الْحَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: بَلَى - قَالَ:  
تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ  
نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ: آلا أَخْبِرُكَ بِأَدَائِهِمْ؟ قَالَ: إِيَّاهُمْ بِالْأَمِّ وَنُونٌ قَالُوا: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: نُورٌ  
نُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدٍ كَبِيدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا - (بخاری صریف ۲/۹۶۵، رقم: ۲۵۲۰)

قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائیگی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ (برابر کرنے کے لیے) اپنے دست مبارک سے اس طرح اٹائے پلئے گا جیسے تم میں سے کوئی آدمی سفر میں (جاتے وقت) اپنی روٹی کو لٹاتا ہے، (یہی روٹی) اہل جنت کے لیے پہلے ناشتہ کی جگہ پیش کی جائے گی، پھر ایک یہودی شخص نے آ کر کہا، اے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمن ورحیم آپ پر برکت نازل فرمائے کیا میں آپ کو قیامت کے دن اہل جنت کی ضیافت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ زمین روٹی بن جائے گی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھ کر مسکرائے تا آنکہ سامنے کے دانت ظاہر ہو گئے، پھر اس یہودی نے کہا کہ میں آپ کو اہل جنت کے سالن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان کا سالن تیل اور مچھلی ہوگا (جو اتنے بڑے ہونگے) کہ ان کے کلیجہ کے زائد حصہ سے ستر ہزار افراد نوش کریں گے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میدان محشر میں اہل ایمان جنتی بھوکے نہیں رہیں گے بلکہ اس زمین کو ان کے لیے روٹی بنا دیا جائے گا اور یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اعزازی ناشتہ ہوگا، اور اللہ کی قدرت کاملہ سے یہ ہرگز بعید نہیں ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

## ﴿ اللہ سے شرم کھینچنے ﴾

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنْ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعَاقِبُونَ بِالْحُجُوعِ مِنْ طُولِ زَمَانِ الْمَوْقِفِ  
بَلْ يَقَلِّبُ اللَّهُ لَهُمْ بِفُتْرَتِهِ طَبَعَ الْأَرْضِ حَتَّى يَأْكُلُونَهَا مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِهِمْ مَا شَاءَ  
اللَّهُ بِغَيْرِ عِلَاجٍ وَلَا كُفْلَةٍ وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ نَزْلًا لِأَهْلِ الْحَنَّةِ أَيِ الَّذِينَ يَصِيرُونَ  
يَصِيرُونَ إِلَى الْحَنَّةِ أَعْمٌ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ يَقَعُ بَعْدَ الدُّخُولِ إِلَيْهَا أَوْ قَبْلَهُ هُوَ اللَّهُ  
أَعْلَمُ (صحیح الباری ۱۴/۳۵۵)

اور اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میدانِ محشر کے لیے عرصہ میں  
اہلِ ایمان کو بھوکا نہیں رکھا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے لیے زمین کی  
حقیقت و ماہیت بدل دے گا چنانچہ مومنین اپنے اپنے قدموں کے نیچے سے بغیر کسی تکلیف  
اور مشقت کے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا کھائیں گے، اور زمین کے اہلِ جنت کے لیے ناشتہ  
ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو غریب جنت میں پہنچنے والے ہیں، گویا  
کہ یہ لفظ عمومی معنی میں ہے جنت میں داخلہ سے پہلے کیلئے اور بعد کے لیے بھی۔ واللہ اعلم۔

اس سلسلہ میں محدث کبیر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی رائے یہ ہے کہ محشر میں  
لوگوں کے قدم تین چمکے الگ الگ وقت میں ہوں گے، اولاً سب محشر کی زمین پر ہونگے، پھر  
سب ہل مراٹھ پر جائیں گے جن میں سے کچھ جہنم میں گر جائیں گے اور بقیہ بچ کر جنت کی  
زمین پر پہنچ جائیں گے، جب سب لوگ محشر کی زمین سے ہٹ جائیں گے اور یہ زمین خالی  
ہو جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس زمین کو روٹی بنا کر جنت میں داخل ہونے والوں کو پہلی  
مہمانی کے طور پر پیش فرمائے گا، واللہ اعلم (فیض الباری ۳/۳۲۲) مسلم شریف میں حضرت عائشہؓ  
کی ایک روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زمین تو روڑے اور پتھروں پر مشتمل ہے اسے  
اہلِ جنت کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا حل فرماتے ہوئے حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم  
صاحب نانوتوی نے فرمایا کہ اس دن زمین کو چھان کر کیف چیزیں علیحدہ کر لی جائیں گی  
اور لطیف اشیاء کو روٹی کی شکل دی جائیں گی۔ یہی مقصود عقل ہے کیونکہ زمین میں ہر طرح کی  
استعدادیں موجود ہیں، اور ان میں امتیاز کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔

(معارف الاکابر ۲۶۶ بحوالہ حسن المعری ۱/۱۳۶)

## میدان محشر کی عزت و ذلت

میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کروڑہا کروڑ اور رب ہا رب جنات و انسان سب بیک وقت جمع ہوں گے، اور ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھتا ہوگا اور ہر کاروائی کا مشاہدہ کرتا ہوگا، اس دن جسے عزت ملے گی اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں، اور جو بد نصیب اس دن ذلیل ہو جائے گا اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ذلت نہیں، ذرا غور فرمائیے دنیا میں اگر کسی کو کامیابی مل جائے تو آخر کتنے لوگوں کو اس کی خبر ہو پاتی ہے اس خبر ہونے کی آخری حد یہ ہے کہ دنیا میں موجود بس زندہ لوگوں کو پتہ چل جائے لیکن جو لوگ قبر میں جا چکے یا جو بعد میں پیدا ہوں گے انہیں اس کامیابی کی کچھ خبر نہ مل پائیگی۔ اس معنی کر یہ عزت بھی بہت محدود ہے، اس کے برخلاف جب میدان محشر میں کسی خوش نصیب بندے کی کامیابی کا اعلان ہوگا اور برسر عام اس کا اعزاز و اکرام کیا جائیگا تو تمام اولین و آخرین اس سے باخبر ہوں گے اور عزت کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا جس کا لفظوں میں احاطہ نہیں کیا جاسکتا، لہذا وہاں کی عزت ہی حقیقتاً عزت کہے جانے کے لائق ہے۔ یہی حال وہاں کبر و ذلت کا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی ذلت بھی محدود ہے لیکن خدا نخواستہ میدان محشر کی ذلت سے واسطہ پڑ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں ہو سکتی، اسی لیے قرآن کریم میں جا بجا میدان محشر میں کافروں کی ذلت ناک حالت کے مناظر بیان فرمائے ہیں۔ چند آیات ملاحظہ ہوں:

(۱) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَنْفِقُوا فِيهِمْ هَوَاءً۔ (سورۃ ابراہیم: آیت ۴۲، ۴۳)

اور ہرگز مت خیال کر کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کرتے ہیں بے انصاف، ان کو تو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے لیے کہ پتھر جائیں گی آنکھیں، دوڑتے ہوئے اوپر اٹھائے اپنے سر، پھر کر نہیں آئیں گی ان کی طرف ان کی آنکھیں، اور دل ان کے اڑ گئے ہونگے۔

(۲) وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ عَمِيًّا وَبُكْمًا وَضُمًّا۔ (سورہ

بنی اسرائیل: آیت ۹۷)

اور اٹھائیں گے ہم ان کو قیامت کے دن، چلیں گے منہ کے بل، اندھے اور  
دنگے اور بہرے۔

(۳) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

أَعْمَىٰ، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا  
فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ (سورہ طہ: آیت ۱۲۳ تا ۱۲۶)

اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملتی ہے گزران تنگی کی، اور لائیں گے  
اس کو ہم قیامت کے دن اندھا، وہ کہے گا اے رب کیوں اٹھالایا تو مجھ کو اندھا اور میں تو تھا  
دیکھنے والا، فرمایا یونہی پہنچی تھیں تجھ کو ہماری آیتیں، پھر تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج  
تجھ کو بھلا دیں گے۔

(۴) وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو أُرُؤِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، رَبَّنَا أَبْصَرْنَا

وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا لِنَعْمَلَ صَالِحًا تَأْمُرُنَا، وَقَدْ عَصَيْنَا، رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا لِنَعْمَلَ صَالِحًا تَأْمُرُنَا۔ (آلہ سجده: ۲۱، آیت ۱۲)

اور گھمی تو دیکھے جس وقت کہ منکر اپنے رب کے سامنے سر ڈالے ہوئے ہوں  
گے (اور کہہ رہے ہوں گے) اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب ہم کو بھیج دے  
کہ ہم کریں بھلے کام، ہم کو یقین آگیا۔

(۵) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، يَتَخَفَتُونَ

بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ  
إِلَّا يَوْمًا۔ (سورہ طہ: آیت ۱۰۲ تا ۱۰۳)

جس روز صور میں پھونک ماری جاوے گی اور ہم اس روز مجرم لوگوں کو اس حالت  
سے جمع کریں گے کہ انکی آنکھیں نیلی ہوں گی، چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے ہوں گے  
کہ تم لوگ صرف دس روز رہے ہو گے جس کی نسبت وہ بات کریں گے، اس کو ہم خوب

جانتے ہیں جبکہ ان سب میں کا زیادہ صائب الرائے یوں کہتا ہوگا کہ نہیں! تم تو ایک ہی روز رہے ہو۔

یہ تو چند مناظر بیان کیے گئے ہیں ورنہ اس دن بے ایمانوں اور بے عملوں کو جس بدترین ذلت کا سامنا ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا، اور اس کے بالمقابل اہل ایمان جس عزت و کرم سے نوازے جائیں گے وہ بھی ناقابل بیان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی رسوائی سے بچائے اور حقیقی عزت سے نوازے۔ آمین۔

## میدانِ محشر میں سب سے پہلے لباسِ پوشی

بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں:

قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةٌ عُرَاةٌ غُرْلًا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ الْآيَةَ- وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَاقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ- (الخ) بخاری شریف ۲/۹۶۶، رقم: ۲۵۲۶)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم سب کو ننگے پیر ننگے بدن ختنہ کے بغیر جمع کیا جائیگا، (ارشاد خداوندی ہے) ”جیسے ہم نے پہلی مرتبہ بنایا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کر دیں گے“، اور مخلوقات میں جسے قیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو قبلی کپڑوں کا لباس پہنایا جائے گا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کی دائیں جانب دھاری دار جوڑازیب تن کرایا جائے گا۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ اعزاز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔

(۱) علامہ قرطبی نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا حکم

دیا تو آپ کو اللہ کے راستے میں بے لباس کیا گیا اس کی جزاء کے طور پر سب سے پہلے آپ کی لباس پوشی کرائی جائی گی۔

(۲) علامہ حلیمی نے فرمایا کہ: چونکہ روئے زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اللہ سے خوف کرے والا کوئی نہ تھا اس لیے آپ کو لباس پہنانے میں جلدی کی جائے گی تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔

(۳) اور بعض آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دن لوگوں پر فضیلت ظاہر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔

اور اس اعزازی معاملہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مطلق فضیلت حاصل ہو، اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم کے جوڑے سے زیادہ شاندار ہوگا، تو اگرچہ اولویت نہ ہو لیکن اس کی عمدگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا پتہ دیتی ہے۔ (فتح الباری ۱۳/۳۶۸)

## محشر میں پسینہ ہی پسینہ

میدان محشر کی ہولناک حالتوں میں سے ایک حالت یہ بھی ہوگی کہ اس دن ہر بد عمل شخص اپنی بد عملی کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا اور اس قدر پسینہ نکلے گا کہ محشر کی زمین میں ستر ہاتھ تک نیچے چلا جائے گا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

يَعْرِقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ أَذَانَهُمْ۔ (بخاری شریف ۹۶۷/۲، حدیث ۶۵۳۲)

قیامت کے دن لوگ پسینہ میں شرابور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین سے ستر ہاتھ تک نیچے اتر جائے گا، اور ان کو پسینہ لگام کی طرح چپٹ جائے گا، یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔



اور مسلم شریف میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

يُذْنِبِي الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ  
قَالَ سَلِيمُ بْنُ عَامِرٍ وَاللَّهِ مَا أَدْرَى مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ مَسَافَةَ الْأَرْضِ أَوِ الْمِيلِ الَّتِي  
تُكْحَلُ بِهِ الْعَيْنُ قَالَ فَتَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ  
إِلَى كَعْبِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ  
يُلْحِمُهُمُ الْعَرَقُ الْجَامَا وَأَشَارَ سُؤْلُ اللَّهِ ﷻ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ۔

(مسلم شریف ۲/۳۸۴، العرش والعرش ۳/۲۰۹)

قیامت کے دن سورج مخلوقات سے بالکل قریب آجائے گا یہاں تک کہ لوگوں سے اس کا فاصلہ ایک میل کے بقدر رہ جائے گا۔ سلیم بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ نے میل سے زمین کی مسافت مراد لی ہے یا وہ میل (سرمہ کی سلائی) مراد ہے جس سے آنکھ میں سرمہ لگایا جاتا ہے، آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہونگے جن کا پسینہ فٹخوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کچھ کا گھٹنوں تک ہوگا، کچھ کا پیٹھ تک ہوگا، اور کوئی پورا ہی پسینہ میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے منہ کی طرف اشارہ فرمایا (یعنی پسینہ منہ تک پہنچ رہا ہوگا)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایک ہی میدان میں جبکہ بھڑاتی ہوگی کہ ہر شخص کو صرف اپنا قدم ہی ٹکانا میسر آئے گا لوگ اپنی اپنی بد اعمالیوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوں گے یہ ایسی ہولناک صورت ہے کہ عقل انسانی اس کا تصور کرنے سے بھی عاجز ہے مگر اس پر ایمان لانا ضروری اور لازم ہے۔ (فتح الباری ۱۳/۴۸۱)

اس ہولناک دن میں کچھ اللہ کے مخصوص بندے ایسے بھی ہوں گے جن کو سورج کی گرمی ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی اور وہ اس دن بھی امن و امان اور عافیت میں

ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے: وَلَا يَضُرُّ حَرُّهَا يَوْمَئِذٍ مُّؤْمِنًا وَلَا مُؤْمِنَةً۔ یعنی اس دن سورج کی گرمی سے مومن مرد و عورت کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اس سے مراد کامل مومنین ہیں جیسے حضرات انبیاء صدیقین اور شہداء کہ ان کو میدانِ محشر میں کسی تکلیف کا سامنا نہ ہوگا۔

(بخاری ۱۳/۳۸۱-۳۸۰، سنن کریم ۲۷-۲۷۵)

## محشر کے دن کی طوالت

محشر کا دن عام دنیا کے دنوں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے دنوں کے اعتبار سے اس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ معارج میں ارشاد فرمایا گیا ہے نیز متعدد احادیث میں بھی یہ مقدار وارد ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱۳۷۸)

اس طوالت کی وجہ سے کافروں اور بد عملوں کا حال خراب سے خراب تر ہو جائیگا اور وہ دن کالے نہیں کئے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس طویل ترین دن کو اہل ایمان کے لئے ایک فرض نماز گزارنے کے بقدر ہلکا فرمادے گا مسند احمد میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

يُخَفِّفُ الْوَقُوفَ عَنِ الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ كَهَلْوَةِ مَكْتُوبَةٍ۔

محشر میں وقوف کا زمانہ مومن پر اتنا مختصر کر دیا جائے گا جیسا کہ ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے۔

اور طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کا دن مومن کے لئے دنیا کے ایک دن کی چھوٹی سے چھوٹی ایک ساعت کے برابر ہو جائے گا۔ (بخاری ۱۳/۵۳۷)

یعنی صلحاء مومنین اس دن اتنی عافیت سے ہوں گے کہ انہیں وقت گزارنے کا پتہ ہی نہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو میدانِ محشر میں ایسی ہی عافیت عطا فرمائے۔ (آمین)



## تیسری فصل

### حوض کوثر

میدان محشر میں جبکہ پیاس کی شدت حد سے تجاوز کر رہی ہوگی تو حضرات انبیاء علیہم السلام کو الگ الگ حوض عطا کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے مومن امتیوں کو پانی پلائیں اور ان کی پیاس بجھائیں، اس دن سب سے بڑا حوض اور پینے والوں کا سب سے بڑا مجمع ہمارے آقا جناب رسول اللہ ﷺ کے حوض کوثر پر ہوگا، اور آپ وہاں بنفس نفیس تشریف فرما ہو کر اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَهْلَهُمْ أَكْثَرَ وَارِدَةً وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً۔ (ترمذی شریف ۷۰۱۲)

ہر نبی کا الگ حوض ہوگا، اور وہ اس بات پر فخر کریں گے کہ کس کے پاس کتنے زیادہ پینے والے آتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی ان میں سب سے زیادہ سیراب کرنے والا ہوں گا۔ (میرے ہی پاس سب سے زیادہ پینے والے لوگ آئیں گے) آنحضرت ﷺ کا حوض انتہائی عظیم الشان ہوگا، اس کی وسعت اور خوبی بیان کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَائِجُهُ سَوَاءٌ وَمَا وَهَ الْبَيْضُ مِنَ الْوَرِقِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِبْرَانُهُ كُنُحُومِ السَّمَاءِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَطْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا۔

(مسلم شریف ۲۳۹/۲، رقم: ۲۲۹۲، بخاری شریف: ۲۵۷۹)

میرے حوض کی مسافت ایک مہینہ چلنے کے برابر ہے اندازاً (سات سو کلومیٹر) اور اس کے چاروں اطراف برابر ہیں، اور اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اور اس کے آگے آب خورے آسمان کے ستاروں کی طرح (ان گنت) ہیں لہذا جو اس کو پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔

﴿ اللہ سے شرم کیجئے ﴾ ﴿ ۳۳۲ ﴾

اور ایک روایت میں حضرات صحابہؓ کے اس کے پانی کے ذائقہ کے متعلق استفسار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَوْحَلَى مِنَ الْعَسَلِ يُغْتَفَرُ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمْدَانِهِ مِنَ  
الْحَنَةِ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالْآخَرُ مِنْ وَرَقٍ۔ (مسلم شریف ۲/۲۵۱)

وہ دودھ سے بھی بہت زیادہ سفید، اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس میں جنت سے دو پرنا لے آ کر گر رہے ہیں ایک سونے کا پرنا لہ ہے اور دوسرا چاندی کا۔

## پہچان کیسے ہوگی؟

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر کی صفات بیان فرما رہے تھے، درمیان میں یہ بھی فرمایا کہ میں اس دن حوض پر کھڑے ہو کر غیر امتیوں کو اس طرح ہٹا رہا ہوں گا جیسے کوئی شخص اپنے ذاتی جانوروں کے پانی پلانے کی جگہ سے غیروں کے جانوروں کو ہٹاتا ہے، یہ سن کر حضرات صحابہؓ نے بڑی حیرت سے سوال کیا کہ: اے اللہ کے رسول! کیا آپ اس دن (اتنے بڑے عظیم مجمع اور بھیڑ میں) ہمیں پہچان لیں گے؟ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوش خبری سنائی:

نَعَمَ لَكُمْ مِمَّا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ تَرْدُونَ عَلَيَّ غُرًا مُحْتَلِينَ مِنْ  
أَنْبَارِ الْوُضُوءِ۔ (مسلم شریف حدیث: ۲۳۷)

جی ہاں! تمہاری ایسی نشانی ہوگی جو کسی اور امت کے لیے (اس طرح کی) نہ ہوگی، تم میرے حوض پر وضو کے اثر سے چمکتے اعضاء کے ساتھ آؤ گے۔

معلوم ہوا کہ کثرت سے اور اہتمام سے وضو کرنا میدانِ محشر میں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے امتیاز کا سبب ہوگا، اور اس کے ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔

## سب سے پہلے حوضِ کوثر سے سیراب ہونے والے

ویسے تو ہر امتی انشاء اللہ حوضِ کوثر سے سیراب ہوگا لیکن کچھ خوش نصیب اور سعادت مند حضرات ایسے ہوں گے جن کو سب سے پہلے سیراب ہونے کا اعزاز ملے گا، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَوْلُ النَّاسِ وَرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الشَّعْبِ رُؤُوسًا، الَّذِينَ  
يَبَايَأُ الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِمَاتِ وَلَا يُفْتَحُ لَهُمُ الدَّارُ۔ (ترمذی شریف ۷۱/۲)

سب سے پہلے حوضِ کوثر پر آنے والے مہاجر فقراء حضرات ہوں گے، جو (دنیا میں) پرانہ بال والے، اور میلے کچیلے کپڑے والے ہوں گے، جو ناز و نعم میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے اور گھر کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جاتے (ان کی دنیوی بے ہوسامانی کی وجہ سے)۔

یعنی ان کی بے کسی دیکھ کر کوئی ناز و نعم میں پلنے والی عورت ان سے نکاح کرنے پر تیار نہ ہوگی، اور اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں گے تو ان کے لیے لوگ دروازے کھولنا بھی پسند نہ کریں گے، دنیا میں تو ان کا یہ مسکنت کا حال ہوگا اور آخرت میں ان کا وہ اعزاز و اکرام ہوگا کہ سب سے پہلے حوضِ کوثر پر بلائے جائیں گے، ذَلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، یہ عاجزی اور مسکنت قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔

## بے عمل اور بدعتی حوضِ کوثر سے دھتکار دیئے جائیں گے

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ میدانِ محشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستر ہزار فرشتے اس کام پر مقرر ہوں گے کہ کوئی کافر یا غیر مستحق انبیاء علیہم السلام کے حوضِ کوثر سے سیراب نہ ہونے پائے، (۳۸۸، ۵۸) چنانچہ حوضِ کوثر پر بھی بڑی تعداد میں فرشتوں کا پہرہ ہوگا، اسی درمیان یہ صورت پیش آئے گی کہ بعض لوگ جو ظاہری نشانوں سے مسلمان معلوم ہوتے ہوں گے حوضِ کوثر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، مگر فرشتے انہیں دور ہی سے

﴿ اللہ سے غم نہ کرنے ﴾

روک لیں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر فرشتوں سے فرمائیں گے کہ یہ تو میرے آدمی ہیں (انہیں کیوں روکتے ہو) تو فرشتے جواب دیں گے کہ حضرت! آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا (برے عمل) کیے ہیں، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں دھتکار دیں گے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمِنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا  
وَيَرِدُّ عَلَى اقْوَامٍ أَعْرَفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَاَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي  
فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ فَاَقُولُ سَحَقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي۔

(مسلم شریف ۲/۲۳۹)

میں حوض کوثر پر تمہارا مختصر رہوں گا، جو وہاں حاضر ہوگا وہ اس کا پانی پئے گا اور جو پانی پی لے گا وہ پھر کبھی پیسا سا نہیں ہوگا، اور میرے سامنے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہیں میں جانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کر دی جائے گی تو میں کہوں گا کہ وہ تو میرے لوگ ہیں، تو جواب میں کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے پیچھے کیا کیا کارستانیوں کی ہیں، تو میں کہوں گا بربادی ہے بربادی ہے اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کا ارتکاب کیا۔

علامہ قرطبی اس حدیث کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے معتبر علماء کی یہ رائے ہے کہ جو شخص بھی نعوذ باللہ دین میں کوئی نئی بدعت ایجاد کرے گا جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہ ہو تو وہ قیامت کے روز حوض کوثر سے دھتکار دیئے جانے والوں میں شامل ہوگا، اور ان میں سب سے شدت کے ساتھ ہٹائے جانے والوں میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پیدا کیا ہوگا، اور ان کے راستے سے الگ راہ اختیار کی ہوگی جیسے خوارج، رافضی اور معتزلہ جیسے گمراہ فرقے جنہوں نے دین کے اندر تبدیلی کی کوشش کی، اور اسی طرح وہ ظالم حکمراں بھی حوض کوثر سے دھتکارے جائیں گے جنہوں نے اہل حق کے ساتھ ظلم و ناانصافی اور قتل و غارتگری کا معاملہ کیا ہوگا، اور وہ اپنی

رعایا پر ظلم و ستم میں حد سے تجاوز کر گئے ہوں گے، نیز وہ برسر عام معامی و منکرات کے عادی لوگ بھی حوض سے دور رکھے جائیں گے جو احکام خداوندی کا استخفاف کرتے ہوں گے، یہی حال دیگر اہل بدعت اور ارباب زلیغ و ضلال کا ہوگا، پھر اگر وہ دین میں صرف عملی طور پر تبدیلی کے مرتکب ہوں گے، اور عقیدہ ان کا زیادہ خراب نہ ہوگا تو انہیں بعد میں مغفرت کے بعد حوض کوثر سے سیرابی کا موقع مل سکے گا، اور اس اعتبار سے اگر چنان کی پہچان اعضاء وضو کی روشنی سے ہو جائے گی مگر پھر بھی وہ اپنی بد عملی کی وجہ سے ابتداء میں دھکارے جانے کے مستحق ہونگے، لیکن اگر عقیدہ ہی میں ناقابل تلافی فساد ہوگا، جیسے کہ دور نبوی کے پائے جانے والے منافقین جو دل میں کفر چھپا کر محض زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، تو انہیں کبھی بھی حوض کوثر سے سیرابی کا موقع فراہم نہ ہوگا، پہلے ان کی ظاہری صورت دیکھ کر بلائیں گے مگر حقیقت کے سامنے آنے اور پردہ فاش ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سُحْقًا سُحْقًا کہہ کر انہیں وہاں سے دھکار دیئے۔ العیاذ باللہ۔ (دکھنی احوال الموتی و ملائکہ ص ۳۵۲)

## ایک اشکال کا جواب

یہاں ایک اشکال یہ کیا جاسکتا ہے کہ حدیث میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر صاحب ایمان امتی حوض کوثر سے پانی پئے گا، اور جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ حوض پل صراط سے پہلے ہوگا، یعنی حوض سے پانی پینے کے بعد بھی اہل کبار کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، اور پل صراط سے گزرتے ہوئے انہیں جہنم میں کھینچ لیا جائے گا تو یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی کہ جب حوض کوثر سے پانی پانی لیا اور اس کی وجہ سے پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ گئی تو پھر اب کسی بد کردار اور ظالم یا بدعتی کو جہنم میں کیسے بھیجا جائے گا، اور کیا جہنم کی خطرناک آگ میں جا کر بھی وہ پیاس سے محفوظ رہے گا؟

اس کا جواب دیتے ہوئے شرح حدیث نے فرمایا ہے کہ جن اہل کبار کا جہنم میں جانا مقدر ہوگا اور وہ حوض کوثر کا پانی نوش کر چکے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پیاس کے علاوہ دیگر طریقوں سے عذاب دے گا، حوض کوثر کا پانی نوش کرنے کی وجہ سے وہ

آئندہ پیاس کے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (رد کرہ، ۲۵۱)

بہر حال ہمیں اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر یہ کوشش کرنی چاہئے کہ ہم کسی ایسی بد عملی اور بد عقیدگی میں ہرگز مبتلا نہ ہوں جو ہمیں حوض کوثر سے محروم کر کے میدان محشر میں بدترین رسوائی اور ذلت سے دوچار کر دے: بالخصوص ہر مسلمان کو بدعت اور ضلالت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کتاب و سنت اور حضرات صحابہؓ کے اقوال و افعال اور اجماع امت پر مضبوطی سے عامل رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی اور بدعات سے محفوظ رکھے اور میدان محشر میں اعزاز کے ساتھ حوض کوثر سے سیرابی کا اپنے فضل و کرم سے موقع عطا فرمائے۔ آمین۔





## آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ

میدان محشر کی طویل ہولناکیوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے اور تمنا کریں گے کہ جلد حساب کتاب کے مرحلہ سے نمٹ کر لوگ اپنے اپنے مقام پر پہنچیں اور انتقام کی زحمت ختم ہو، چنانچہ وہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کرانے کے لئے حضرات انبیاء علیہم السلام کا وسیلہ تلاش کریں گے، سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کی درخواست کریں گے مگر وہ معذرت کریں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی معذرت پیش فرمائیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے وہ سب حضرات سفارش کی ہمت نہ کر پائیں گے، اخیر میں سیدنا ولین و الاخرین امام الانبیاء والمرسلین سرور کائنات، فخر دو عالم، شفیع اعظم، صاحب مقام محمود، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، بلور عرض کریں گے:

بِسْمِ اللَّهِ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَعَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَمَّ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لِنَا إِلَى رَبِّكَ، يَا أَلَمْرِي مَبْتَخِنٌ فِيهِ الْآلَتَرِي مَا قَدْ بَلَّغْنَا، الخ۔ (مسلم شریف ۱۱۱/۱)

اے محمد (ﷺ) آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں بلور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا (یعنی آپ کو کسی پوچھ گچھ کا خطرہ نہیں ہے) آپ اپنے پروردگار کے روبرو ہماری سفارش فرمائیے کیا نہیں دیکھتے ہم کس حال میں ہیں، اور ہمارا حال کہاں تک پہنچ گیا ہے۔

ان لوگوں کی درخواست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے بلور عرض خداوندی کے نیچے جا کر پروردگار عالم کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ رب

﴿ اللہ سے نہیں کہنے ﴾ ﴿ ۳۳۸ ﴾

العالمین اسی وقت آپ کے دل پر اپنی حمد و ثنا کے ایسے شاندار الفاظ اور تعبیرات کا القاء فرمائیں گے، جو اس سے پہلے کسی کے خواب و خیال اور تصور میں بھی نہ آئے ہوں گے، ایک عرصہ دراز تک (جس کا علم اللہ ہی کو ہے) آپ سجدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرماتے رہیں گے، پھر رحمتِ خداوندی کو جوش آئے گا، اور آواز دی جائے گی:

يَا مُحَمَّدُ الرَّزْقُ رَأْسُكَ، سَلْ تُعْطَهُ، اِشْفَعْ تُشْفَعُ۔ (مسلم شریف ۱۱۱/۱)

اے محمد! سر اٹھائیے، مانگئے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش فرمائیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔

چنانچہ آپ سر اٹھائیں گے، اور سب سے پہلے اپنی امت کا حساب کتاب جلدی شروع کئے جانے کی درخواست کریں گے۔ (بخاری ۵۲۰/۱۳)

حساب کتاب شروع کرانے کی سفارش یہی آنحضرت ﷺ کا بلند ترین مقام محمود ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم کی آیت: غَسِي اَنْ يَتَعَكَّ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ (بنی اسرائیل) میں کیا گیا ہے۔ (بخاری ۵۲۰/۱۳)

## شفاعت کی اقسام

- مشہور شارح حدیث قاضی میاض فرماتے ہیں کہ شفاعت کی پانچ قسمیں ہیں:
- (۱) میدانِ محشر کی ہولناک نجات اور حساب کتاب شروع کرانے کی شفاعت، یہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، (جیسا کہ اوپر ذکر کر گزرا)
  - (۲) بہت سے اہل ایمان کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرانے کی شفاعت، یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
  - (۳) بہت سے ایسے اہل ایمان کے لیے شفاعت جن کو جہنم کی سزا سنائی جا چکی ہوگی مگر ابھی وہ جہنم میں نہ گئے ہوں گے، (یہ شفاعت نبی اکرم علیہ السلام بھی فرمائیں گے، اور بعض دیگر نیک اعمال والے اپنے متعلقین کے لیے کریں گے جیسے حفاظ قرآن اور شہید وغیرہ)۔

﴿ اللہ سے شہادہ کہنے ﴾ ﴿ ۲۳۹ ﴾

(۴) ان مومنوں کے لیے شفاعت جو اپنی بد عملیوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، ان میں سے بتدریج ہر ایک کو انبیاء علیہم السلام، ملائکہ اور دیگر مومنوں کی سفارش سے جہنم سے خلاصی دی جائے گی۔

(۵) جنتیوں کے لیے درجات میں اضافہ کی شفاعت۔

اور حافظ ابن حجر نے ان اقسام پر درج ذیل ۴ قسموں کا اضافہ فرمایا ہے۔

(۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کی شفاعت فرماتا۔

(۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں سب سے پہلے اپنی امت کو داخل کرانے کی

شفاعت فرماتا۔

(۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے متعلق جنت میں داخلہ کی سفارش فرماتا

جسکی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہوں، جنہیں اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔

(۹) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے متعلق سفارش فرماتا جس نے صرف کلمہ

پڑھا لیکن کوئی عمل صالح اس کے اعمال نامہ میں نہ ہو۔ (بخاری ۱۳/۵۳۳)

اس طرح شفاعت کی کل اقسام ۹ ہو گئیں، عام طور پر احادیث شفاعت میں

راویوں نے درمیانی واقعات کی کڑیاں چھوڑ دی ہیں اور حدیث پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے

کہ ابتدائی مرحلہ ہی میں گنہ گار جہنم سے نکلنے کا عمل شروع ہو جائے گا، حالانکہ

ایسی بات نہیں، بلکہ پہلے شفاعت گمبھری ہوگی، جس کے بعد حساب کتاب، وزن اعمال

وغیرہ کے مراحل پیش آئیں گے، تا آنکہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں

گے، اور پھر بالآخر گنہ گاروں کو نکالنے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں

گے جسے قبول کیا جائے گا، اور کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ اتنی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔

(بخاری ملخصاً ۱۳/۵۳۶، ۵۳۷)



## پانچویں فصل

### حساب کتاب کا آغاز

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے بعد رب ذوالجلال کی طرف سے حساب کتاب کی کارروائی کا آغاز ہوگا۔ اس سلسلہ کا سب سے پہلا اقدام یہ ہوگا، کہ تمام لوگوں کے اعمال نامے خود ان کے ہاتھوں میں پہنچادئیے جائیں گے، نیک لوگوں کے اعمال نامے ان کو دائیں ہاتھوں میں عطا ہوں گے اسی لیے ان کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے اور برے لوگوں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں تمھادئیے جائیں گے اسی لیے ان کو اصحاب الشمال کہا جاتا ہے ایک مرفوع روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں!

الْكُتُبُ كُلُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ مَعَادًا كَانَ يَوْمَ الْمَوْقِفِ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا قَطِطَتْهَا بِالْأَيْمَانِ وَالشَّمَالِ لَوْلَ خَطِ فِيهَا "إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا" (مشکوٰۃ ص ۳۶۱)

اعمال نامے سب عرش کے نیچے محفوظ ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا چلائے گا جو اعمال ناموں کو اڑا کر (حسب اعمال) انہیں لوگوں کے دائیں یا بائیں ہاتھوں میں پہنچادے گی ان اعمال ناموں میں اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہوگا "تو ہی پڑھ لے کتاب اپنی تو ہی بس ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا۔"

اس مرحلے میں تو نیک لوگوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا جبکہ کفار اور بد عمل (اصحاب الشمال) لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے قرآن کریم نے اس وقت کا منظر اس طرح بیان فرمایا ہے:

فَلَمَّا مَن لُّوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ نَارُهُمْ وَإِكْتَابِيهِ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلِقٌ حَسَابِيهِ، فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَّاحِيَةٍ بِنِي حَنَّةٍ عَالِيَةٍ مَّقْدُوفُهَا دَانِيَةٌ، كُلُّوْا وَاشْرَبُوا

هَيْفَا اِيمًا اسَلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْعَالِيَةِ، وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْبِثُنِي لَمْ  
 اُوْتِ كِتَابِيَهُ يَوْمَكُمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيهِ، يَلْبِثُهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ مَا اَعْنَى عَنِّي مَالِيَةَ هَلَكْ  
 عَنِّي سُلْطَانِيَةَ خُلُوهُ فَعَلُوهُ، ثُمَّ الْحَجِيمِ صَلُوهُ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذُرْعَهَا سَبْعُونَ  
 ذِرَاعًا فَاَسْلُكُوهُ، اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ، وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ  
 الْمُسْكِينِ، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَيِيمٌ، وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غَسْلِيْنٍ، لَا يَأْكُلُهُ اِلَّا  
 الْعَاطِفُونَ۔ (العنقود - ۱۹۹-۳۷)

سو جس کو ملا اس کا لکھا، داہنے ہاتھ میں وہ کہتا ہے لی جو پڑھو میرا لکھا، میں نے  
 خیال رکھا اس بات کا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب، سو وہ ہیں من مانی زندگی میں، اونچے باغ  
 میں، جس کے میوے جھکے پڑے ہیں، کھاؤ پھرتی بھر کر، بدلہ اس کا جو آگے بھیج چکے ہو تم پہلے  
 دنوں میں۔ اور جس کو ملا اس کا لکھا، بائیں ہاتھ میں وہ کہتا ہے کیا اچھا ہوتا جو مجھ کو نہ ملتا  
 میرا لکھا، اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کہ کیا ہے۔ حساب میرا، کسی طرح وہی موت ختم کر جاتی، کچھ کام  
 نہ آیا مجھ کو میرا مال، برباد ہوئی مجھ سے میری حکومت، اس کو پکڑو پھر طوق ڈالو، پھر ایک زنجیر  
 میں جس کی لہائی ستر گز ہے اس کو جکڑ دو، وہ تھا کہ یقین نہ لانا تھا اللہ پر، جو سب سے بڑا ہے  
 اور تاکید نہ کرتا تھا فقیر کے کھانے پر، سو کوئی نہیں آج اس کا یہاں دوست دار اور نہ کچھ ملے گا  
 کھانا مگر زخموں کا دھوون، کوئی نہ کھائے اس کو گروہی گنہ گار۔

اور سورہ کہف میں حساب کتاب کے وقت کی حالت اس طرح بیان کی گئی ہے:

وَعَرَضُوا عَلٰی رَبِّكَ صَفًّا، لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْتُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ، بَلْ  
 زَعَمْتُمْ اَلَنْ نُّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، وَاَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرٰى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ  
 وَيَقُولُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَا لِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا، وَاَوْحٰدُوْا  
 مَا عَمِلُوْا حٰضِرًا، وَّلَا يَظْلُمُ رَبُّكَ اَحَدًا۔ (الكهف آیت ۳۸-۳۹)

اور سامنے آئیں تیرے رب کے صف باندھ کر، آپہنچے تم ہی ہمارے پاس جیسا  
 ہم نے بنایا تھا تم کو پہلی بار، نہیں تم تو کہتے تھے کہ نہ مقرر کریں گے ہم تمہارے لیے کوئی  
 وعدہ، اور رکھا جائے گا حساب کا کاغذ، پھر تو دیکھے گنہ گاروں کو ڈرتے ہیں، اس سے جو اس

﴿ اللہ سے شرم کھینچنے ﴾ ﴿ ۳۵۲ ﴾

میں لکھا ہے۔ اور کہتے ہیں ہائے خرابی! کیسا ہے یہ کاغذ؟ نہیں چھوٹی اس سے چھوٹی بات اور نہ بڑی بات، جو اس میں نہیں آگئی، بلور پائیں گے جو کچھ کیا ہے سامنے، اور تیرا رب ظلم نہ کرے گا کسی پر۔

شروع شروع میں کفار و منافقین اور بد عمل، اعمال نامے دیکھ کر کچھ حجت اور بحث کی کوشش کریں گے، لیکن خود ان کے اعضاء و جوارح ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے جس کے بعد کسی کٹ جتنی کا موقع ہی نہ رہے گا، نیز یہ بھی تمنا کریں گے کہ انہیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیا جائے مگر اس سے بھی انکار کر دیا جائے گا۔ اس دن سرکشوں کی رسوائی ناقابل بیان ہوگی، سر جھکے ہوئے ہونگے، چہرے سیاہ ہونگے، آنکھیں نیلی ہو جائیں گی اور دہشت اور گھبراہٹ کے مارے چیخ و پکار مچا رہے ہوں گے۔ اللہم احفظنا منہ۔

## سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟

دنوی معاملات اور حقوق میں سب سے پہلے ناحق قتل کا حساب ہوگا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ۔ (ابن کثیر ۳۲۹)

سب سے پہلے قیامت کے روز خون ناحق کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔

ایک حدیث میں وارد ہے کہ مقتول اپنے قاتل کو کھینچ کر مرثیٰ خداوندی کے سامنے لائے گا، اور عرض کرے گا کہ پروردگار عالم! اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ ”اگر تمام زمین اور آسمان والے سب مل کر کسی ایک مسلمان کو قتل کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا“ اور ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرنے میں تعاون کرے اگرچہ ایک لفظ بول کر بھی، تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ (ابن کثیر ۳۲۹)

اس لیے قتل ناحق سے احتراز لازم ہے، اگر کوئی شخص کسی ایسے جرم کا ارتکاب

﴿ اللہ سے شوم کہنے ﴾ ﴿ ۲۰۲ ﴾

کرے جس سے وہ جانی سزا کا مستحق ہو جائے پھر بھی کسی عام آدمی کو اس پر سزا جاری کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ سزا جاری کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوتی ہے جہاں واقعی اسلامی نظام قائم ہوگا وہیں ثبوت شرعی کے بعد سزا جاری ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں، اگر اس بات کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر کسی شخص کی جان بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔

## نماز کا حساب

اور عبادات میں سب سے پہلے پوچھو کچھ نماز کے متعلق ہوگی، ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ (الترغیب والترہیب ۱۵۰/۱)

قیامت کے دن سب سے پہلے آدمی کی نماز کا حساب لیا جائے گا اگر نماز درست نکلی تو بقیہ اعمال بھی درست نکلیں گے اور نماز میں خرابی نکلی تو بقیہ اعمال اور خراب ہوں گے۔ درج بالا حدیث سے نماز کی اہمیت کا آسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اس کے علاوہ بھی آیات قرآنیہ اور احادیث طیبہ میں نماز کی فضیلت اور عظمت انتہائی تاکید کی انداز میں بیان ہوئی ہے، نماز کو دین کا ستون کہا گیا، اور اس کے بلا عذر چھوڑنے والے کو کافروں اور منافقوں کے مشابہ قرار دیا گیا، اس لیے مسلمانوں کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ نمازی بنے۔ اور اپنے گھر والوں اور ملنے جلنے والوں کو بھی نماز کا عادی بنائے، تاکہ میدانِ محشر کی رسوائیوں سے حفاظت ہو سکے۔

## مظالم اور حق تلفیوں کا بدلہ

میدانِ محشر میں کوئی ظالم بیچ کر نہ جاسکے گا بلکہ اسے ظلم کا بدلہ دینا ہی پڑے گا، اور وہاں روپیہ پیسہ سے ادائیگی نہ ہوگی بلکہ ظلم اور حق تلفی کے بدلہ میں نیکیاں دی جائیں گی، اور جب نیکیاں باقی ہی نہ رہیں گی تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر لا ددی جائیں گی، یہ منظر بڑا

عبرت ناک اور حسرت ناک ہوگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَيِّحِهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ مَقْبَلًا  
أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ  
لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبِهِ فَحِيلَ عَلَيْهِ۔

(صحیح البخاری ۱/۳۳۱ حدیث ۲۳۸۵، الحدیث ۳۰۸۵)

جس شخص نے اپنے بھائی کی مالی یا ذاتی کوئی نا انصافی کی ہو تو اس دن کے  
آنے سے پہلے آج ہی معاف کرا لے جب دینار و درہم نہ ہوں گے (کہ ان سے حق  
چکایا جائے بلکہ) اگر اس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے تو وہ مظلوم اپنے حق کے بقدر  
نیکیاں لے لے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے لے کر اس  
پر لاد دی جائیں گی۔

اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہؓ سے  
پوچھا کہ تم مفلس اور قلاش کسے سمجھتے ہو؟ تو صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس تو اسے کہا جاتا  
ہے جس بے چارے کے پاس درہم اور سامان کچھ بھی نہ ہو۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا:

إِنَّ الْمَفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ بَاتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلْوَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَبَاتِيَ  
قَدْ شَتَمَ هَذَا وَآكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ  
حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ  
عَطَايَاهُمْ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طَرِحَ فِي النَّارِ۔ (مسلم حریف ۲/۳۲۰ الحدیث ۳۰۸۵)

میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، اور زکوٰۃ  
(وغیرہ) لے کر آئے گا (مگر) اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال اڑایا ہوگا، اور کسی کا  
خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں اس کو اور اس کو بانٹی جائیں گی، پھر جب  
اس کی نیکیوں کا ذخیرہ والوں کے حق ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا تو ان کی برائیاں لے



کراس پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہم احفظنا منہ۔

ابن ماجہ میں ایک عبرت ناک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ متاؤ سرزمین حبشہ میں تم نے سب سے حیرت انگیز بات کیا دیکھی؟ تو بعض نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے قصہ سنایا کہ ہم ایک مرتبہ حبشہ میں سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، کہ ہمارے سامنے سے ایک بڑھیا گزری جس نے سر پر ایک مٹکا اٹھا رکھا تھا، حملہ کے چند شریر لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے اور اسے اس زور سے دھکا دیا کہ وہ بے چاری گر پڑی اور اس کا مٹکا پھوٹ گیا تو اس نے شریر لڑکے کو خطاب کر کے کہا کہ ”اے بدتمیز! یاد رکھ جب اللہ رب العالمین کرسی نصب فرما کر اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا اور آدمی کے ہاتھ پیر اپنے کالے کر تو توں کو خود ہی بیان کر دیں گے، اسی دن تو دیکھ لینا کہ میرا اور تیرا معاملہ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہوگا؟“ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

صَلَقْتُ، صَلَقْتُ، كَيْفَ يُقَالُ لِمَنْ لَا يُؤَخَذُ لِضَعْفِهِمْ مِنْ

شَلِيهِمْ۔ (ابن ماجہ ۲۹۹ مطبع رحیمیہ، المذکرہ ۳۱۰)

اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا، وہ امت کیسے باعزت ہو سکتی ہے جو اپنے کمزوروں کے لیے طاقتوروں سے مواخذہ نہ کرے۔

قیامت کے دن انسانوں کے علاوہ ظالم جانوروں تک سے بھی حساب لیا جائے گا، ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

لَتَوَدُّنَّ الْحَقُوقُ إِلَىٰ آهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ

الشَّاةِ الْقَرْنَآءِ۔ (مسلم ۳۲۰/۲ المذکرہ ۳۰۸)

قیامت کے دن تمام حق داروں تک ان کے حق ضرور پہنچائے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کے لیے سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا۔

اس لیے آخرت پر یقین رکھنے والے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ دنیا ہی میں لوگوں کے حقوق کے تمام حساب کتاب صاف کر لے، اور یہاں سے اس حال میں رخصت ہو کہ اس پر کسی کا کوئی حق نہ ہو ورنہ یہ حقوق آخرت میں بڑی رسوائی کا سبب بن جائیں گے۔

## ناحق زمین غصب کرنے والوں کا انجام

بالخصوص جائیداد غصب کرنے والے کے متعلق احادیث صحیحہ میں سخت ترین وعیدیں وارد ہوئی ہیں، مشہور مستجاب الدعوات صحابی حضرت سعید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ اِقْتَطَعَ شَيْئًا مِنْ الْاَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ اِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضَيْنِ۔ (مسلم شریف ۳۲/۲)

جو شخص ایک بالشت زمین بھی ناجائز طور پر دو بالے تو یہ حصہ ساتوں زمین سے نکال کر اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔

اس حدیث کی تشریح میں حضرات محدثین نے درج ذیل اقوال ارشاد فرمائے ہیں۔

- (۱) ساتوں زمین سے مٹی نکال کر اسے اٹھانے کا حکم دیا جائے گا، جسے وہ اٹھانہ سکے گا۔
- (۲) یہ ساری مٹی نکال کر اس کے گلے میں واقعی طوق بنا کر ڈال دی جائے گی اور اسی اعتبار سے اس کی گردن کو موٹا بھی کر دیا جائے گا۔
- (۳) اسے غصب شدہ زمین کے نیچے ساتوں زمین تک کھودنے کا حکم دیا جائے گا اور کھودتے کھودتے زمین کی حیثیت اس کے گلے میں طوق کے مانند ہو جائے گی۔
- (۴) اس غصب کے گناہ کا وبال اس کی گردن پر لا دیا جائے گا۔ (سوروی علی مسلم ۳۳/۲ تکمیلہ فتح الملہم ۶۷۴/۱)

بہر حال یہ سب معنی تصور ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنا لازم ہے افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں میں ذرا ذرا سی جگہوں، نالیوں اور راستوں پر مقدمہ بازیوں کی

﴿ اللہ سے شرم کھینچنے ﴾ ﴿ ۳۵۷ ﴾

کثرت ہے، جتنے روپیہ کی جگہ نہیں ہوتی اس سے کئی گنا رقم فریقین کی مقدمہ بازیوں اور رشوتوں میں خرچ ہو کر تباہ ہو جاتی ہے مگر مقدمہ کا ایسا جنون ہوتا ہے کہ کسی طرح کوئی فریق مصالحت پر آمادہ نہیں ہوتا۔ آج یہ مقدمہ بازی بڑی اچھی لگتی ہے۔ کل قیامت کے دن جب یہی ناحق قبضہ بدترین رسوائی اور ذلت کا سبب بنے گا تب آنکھیں کھلیں گی، اس لیے گھنڈی اور عاقبت اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت اور دولت فضول ضائع کرنے کے بجائے قناعت کا راستہ اختیار کریں اور آخرت کی ذلت سے حفاظت کا انتظام کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔

## زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا برا حال

جو لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں ان کا حال بھی میدانِ محشر میں بڑا عبرت ناک ہوگا، ایک طویل حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهُمَا حَقَّهُمَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِي عَلَيْهِنَّ نَارِ جَهَنَّمَ فَيَكْوَى بِهَا جَنْبَهُ وَجَيْبَهُ وَظَهْرَهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْحَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ - الخ (مسلم)

شریف ۳۱۸/۱، العذکرہ ۳۳۰

جو بھی سونے چاندی کا مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گا تو قیامت کے روز اس کے مال کے پتر بنا کر جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، جن سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا، جب وہ پتر ٹھنڈے ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ (گرم) کیا جائے گا، یہ معاملہ اس دن ہوگا جس کی مقدار ۵۰ ہزار سال کے برابر ہے، اور اس کو یہ عذاب برابر ہوتا رہے گا تا آنکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا، پھر یہ دیکھ لے گا کہ اس کا ٹھکانا جنت ہے یا جہنم۔

اسی حدیث میں ہے کہ حضرات صحابہؓ نے اونٹوں اور گایوں اور بکریوں کے مالک مالداروں کے انجام کے بارے میں دریافت کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ چھانٹ چھانٹ کر میدانِ محشر میں بڑے بڑے اور نوک دار سینگوں والے جانوروں کے ذریعہ اس نادہندہ مالک کو پیروں سے رندوائے گا اور سینگوں سے زخمی کرائے گا، اور یہ سلسلہ حساب کتاب مکمل ہونے تک برابر جاری رہے گا، اعاذنا اللہ منہ۔ (مسلم شریف ۱/۳۱۸)

نیز ایک حدیث میں ہے کہ بے زکوٰۃ والا مال میدانِ محشر میں خطرناک زہریلے اژدھے کی شکل میں آکر اپنے مالک کا پیچھا کرے گا۔ تا آنکہ اس کے ہاتھ پکڑ کر چبا جائے گا۔ (مسلم ۱/۳۲۰) اللهم احفظنا منہ۔

مالداروں کے لیے بالخصوص یہ احادیث عبرت ناک ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام لازم ہے، ورنہ اس کی محوست دنیا میں ظاہر ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، یہ مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اگر اس میں سے مقررہ فرض حصہ مستحقین کے حوالہ کر دیا جائے تو بقیہ پورا مال محفوظ ہو جاتا ہے اور اگر اس حصہ کی ادائیگی میں کوتاہی کی جائے تو پھر انجامِ بخیر نہیں، لہذا چند روزہ دنیوی نفع کی خاطر آخرت کی دائمی رسوائی کو مول لینا دانشندی نہیں ہے۔

## قومی مال میں خیانت کرنے والوں کا انجام

اسی طرح جو شخص ”غلول“ یعنی قومی و ملی مشترک مال میں خیانت کا مرتکب ہوگا

اس کو بھی بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، قرآن کریم میں ہے:

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (آل عمران آیت: ۱۶۱)

اور جو خیانت کرے گا وہ خیانت کردہ چیز لے کر قیامت میں حاضر ہوگا۔

اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جس شخص نے جس چیز میں خیانت کی ہوگی وہ اسی کو

اپنی گردن پر لاد کر میدانِ محشر میں آئے گا، اگر مثلاً اونٹ لیا ہوگا تو وہ گردن پر چڑھ کر آواز

نکال رہا ہوگا، اور گھوڑا چرایا ہوگا تو وہ سر پر چہنہا رہا ہوگا، الی آخرہ۔ (مسلم شریف ۱۲۲/۲) اس لیے ملی اور قومی درجہ کے فنڈ (مثلاً مساجد اور مدارس کے مالیہ) کو بلا استحقاق اپنے استعمال میں لانا سخت خطرہ کی چیز ہے جو لوگ ایسی ذمہ داریوں پر فائز ہیں ان کو بالخصوص مالی معاملات میں انتہائی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے ورنہ آخرت کی جواب دہی سے وہ بچ نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی جواب دہی سے محفوظ رکھے، آمین۔

## تکبر کرنے والوں کی ذلت ناک حالت

جو لوگ دنیا میں تکبر بن کر رہے ہوں گے، قیامت کے دن ان کی ذلت اور بے وقسی کا عالم یہ ہوگا کہ انہیں زمین پر ریٹکنے والی چوٹیوں کی صورت میں میدانِ محشر میں لایا جائے گا کہ انہیں لوگ اپنے پیروں سے روندیں گے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

يَسَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنَاسًا فِي صُورَةِ النَّرِّ يَطْوُهُمُ النَّاسُ بِأَقْدَامِهِمْ  
فَيَقَالُ: مَا هَؤُلَاءِ فِي صُورِ النَّرِّ فَيَقَالُ هَؤُلَاءِ الْمُتَكَبِّرُونَ فِي الدُّنْيَا۔ (رواہ ابن ہزار  
العرشہ، والعرشہ ۲۰۸/۳)

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ذلیل چوٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، جن کو لوگ اپنے پیروں سے روند رہے ہوں گے، پس کہا جائے گا کہ یہ لوگ چوٹیوں کی شکل میں کیوں ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ یہ دنیا میں غرور اور تکبر کرنے والے تھے۔

یعنی جو لوگ دنیا میں دوسروں کو حقیر سمجھ کر ان کے ساتھ ذلت انگیز برتاؤ کرتے تھے ایسے تکبرین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی اوقات بتا دے گا، اور سارے عالم کے پیروں تلے روند کر انہیں ذلیل فرمائے گا، اس لیے اپنے آپ کو عظیم ذلت سے بچانے کا راستہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تواضع کی دولت سے نوازے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

## غداروں اور بد عہدی کرنے والے کی رسوائی

غداروں اور بد عہدی کرنے والے کی رسوائی اور بد عہدی کرنے والے کی رسوائی

لوگوں کو میدانِ محشر میں سخت رسوائی کا سامنا ہوگا، بد عہد کی برسرِ عام رسوائی اور فضیحت کے لیے اس کے پیچھے ایک علامتی جھنڈا اس کی چھوٹی بڑی غداری کے بقدر لگا دیا جائے گا، جسے دیکھتے ہی لوگ پہچان لیں گے کہ یہ غدار ہے، ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِيَوَاءِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بَنِ فُلَانٍ۔ (مسلم شریف ۲/۸۳، الحدیث ۳۴۱۰)

جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر غدار کے لیے (علامت کے طور پر) الگ جھنڈا لگا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں کے بیٹے فلاں شخص کی غداری (کی علامت) ہے۔

اس لیے غداری اور عہد شکنی سے بچنا بھی لازم ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ آخرت میں تو اس کی سزا ہے ہی، دنیا میں غداروں کو ہمیشہ ذلت اور حقارت ہی سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان پر لعن طعن کا سلسلہ جاری رہتا ہے، غداری اور بد عہدی کسی کے ساتھ جائز نہیں حتیٰ کہ اگر غیر مسلم سے بھی کوئی معاہدہ کر لیا گیا ہے تو اس کی پاسداری بھی لازم ہوتی ہے۔



## چھٹی فصل

### میزان عمل

قیامت کے روز اللہ جبارک و تعالیٰ اپنے عظیم الشان عدل و انصاف کے مظاہرہ کے لیے مخلوقات کے اعمال تولنے کے لیے ”ترازو“ قائم فرمائے گا، ارشاد خداوندی ہے:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ  
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيبِينَ۔ (الانباء: ۴)

اور وہاں قیامت کے روز ہم میزانِ عدل قائم کریں گے، سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو وہاں حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔

اور دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ يَمُنُّنَ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ  
خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔

(الاعراف آیت: ۹)

اور اس روز وزن بھی واقع ہوگا، پھر جس شخص کا پلہ ہماری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔

اس عظیم ترازو کے ایک پلہ میں دنیا جہاں کی وسعتیں سا جائیں گی اور سید الملائکہ حضرت جبرئیلؑ تولنے کے ذمے دار مقرر ہوں گے۔ (بخاری ۱۶/۶۵۹ قرطبی میں حذیہ ۶/۲۰۱)

یہ بڑا نازک وقت ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا وہ عظیم سرخروئی سے سرفراز ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ جائے یعنی اس کی برائیاں غالب ہوں گی تو اس کی ذلت و کبیت ناقابلِ بیان ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

﴿ اللہ سے ظہور کیجئے ﴾ ﴿ ۳۶۲ ﴾

يُؤْتِي بَيْنَ يَدَيْهِ اِذْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقِفُ بَيْنَ كِفْتَيْ الْمِيزَانِ وَيُؤْتِي كُلَّ بِهٖ مَلَكًا  
فَاِنْ تَقَلَّ مِيزَانُهُ يُنَادِي الْمَلَكُ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ الْخَلَائِقُ: سَعِدَ فُلَانٌ لَا يَشْفِي بَعْدَهَا  
اَبَدًا، وَاِنْ خَفَّتْ مِيزَانُهُ نَادَى الْمَلَكُ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ الْخَلَائِقُ شَقِيَ فُلَانٌ شَقَاوَةً لَا  
يَسْعُدُ بَعْدَهَا اَبَدًا۔ (طرطبی ۲۰۱/۶، کنز العمال ۱۳/۱۶۶)

آدمی کو قیامت کے دن لا کر میزان عمل کے دونوں پلوں کے سامنے کھڑا  
کیا جائے گا، اور اس جگہ ایک فرشتہ مقرر ہوگا، پس اگر اس کا (نیکیوں کا) ترازو بھاری رہا تو  
وہ فرشتہ یہ اعلان کرے گا جسے ساری مخلوق خدا سن لے گی کہ ”فلاں سعادت یاب ہو گیا، اب  
وہ کبھی بد قسمت نہ ہوگا“ اور اگر (خدا نہ کرے) ان کا (نیکیوں کا) ترازو ہلکا رہ گیا تو فرشتہ  
عام اعلان کریگا کہ ”فلاں شخص ایسی محرومی میں گرفتار ہو گیا، کہ اب کبھی بھی سعادت سے بہرہ  
ور نہ ہو سکے گا۔“

## ترازو میں اعمال کیسے تولے جائیں گے؟

یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اعمال تو کرتا ہے مگر وہ  
کرنے کے بعد بظاہر ختم ہو جاتے ہیں اور زبان سے نکل ہوئی بات فضا میں تحلیل ہو جاتی  
ہے، پھر آخر ان کو تو لایسے کیسے جائے گا؟ اس امکانی سوال کا جواب دیتے ہوئے، مشہور مفسر  
اور محدث جلیل حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس بارے میں علماء کے  
تین اقوال ہیں:

(۱) پہلا قول: یہ ہے کہ خود اعمال ہی کو تو لایسے جائے گا، مگر انہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ حسب  
مناسبت جسمانی صورتوں میں تبدیل فرمادے گا، پھر انہی جسموں کو ترازو میں رکھ کر  
تولا جائے گا، امام بغویؒ نے فرمایا کہ کچھ اسی طرح کی بات حضرت ابن عباسؓ سے  
بھی مروی ہے۔ نیز صحیح روایت میں وارد ہے کہ قیامت کے دن سورۃ بقرہ اور سورۃ  
آل عمران پر ندوں کے ”بڑے جھنڈ“ کی شکل میں آئیں گی نیز ایک روایت میں  
ہے کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے پاس ایک نہایت خوب رو جوان کی شکل



﴿اللہ سے شکر کہجئے﴾ ﴿۳۶۳﴾

میں آتا ہے، جب پڑھنے والا پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا وہ قرآن ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگانا اور دن میں گرمی برداشت کرائی، اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سوال سے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت نوجوان عطر بیزی کے ساتھ آئے گا وہ مومن اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، جبکہ کا فر اور منافق کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ ہوگا (مذکورہ تین روایات قول اول کی تائید کرتی ہیں)۔

(۲) دوسرا قول: یہ ہے کہ اعمال نامے اور رجسٹر تولد جائیں گے، اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے برائوں کے ننانوے رجسٹر رکھے جائیں گے اور ہر رجسٹر تاحید نظر و سنج ہوگا، پھر ایک چھوٹی سی پرچی لائی جائے گی جس میں ”لا الہ الا اللہ“ لکھا ہوگا، وہ بندہ عرض کرے گا کہ اتنے عظیم رجسٹروں کے مقابلہ میں یہ پرچی بھلا کیسے نفع دے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، چنانچہ اس پرچی کو دوسرے پہلے میں رکھے جانے کا حکم ہوگا، اس کے رکھنے ہی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا، امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

(۳) تیسرا قول: یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا، چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ ”قیامت کے دن ایک بڑا بھاری موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا مگر اللہ کے ترازو میں اس کا وزن پچھبھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ (الکہف آیت: ۱۰۵)

تو قیامت کے روز ہم ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے۔

نیز ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر افزائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ: ”کیا تمہیں ان کی دہلی

﴿ اللہ سے شرم کھینچنے ﴾

پنڈ لیاں دیکھ کر تعجب ہوتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو پنڈ لیاں میزانِ عمل میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری اور با وزن ہیں۔ "حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان تینوں اقوال میں جمع کی شکل یہ ہے کہ ہر قول اپنی جگہ صحیح ہے، اور قیامت کے روز صورت حال الگ الگ ہوگی، کبھی اعمال بذاتِ خود تولے جائیں گے، کبھی صحیفے تولے جائیں گے اور کبھی کسی صاحبِ عمل کو ہی کو بذاتِ خود تولایا جائے گا، حافظ ابن حجر نے ان میں سے قول اول کو ترجیح دی ہے۔

(بخاری ۶/۶۵۹، تفسیر ابن کثیر ۵۱۵)

علاوہ ازیں اس دور میں ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں جن سے اعراض کو بھی ناپ لیا جاتا ہے مثلاً تھرمامیٹر کے ذریعہ بخار کی مقدار جاننا یا بلڈ پریشر چیک کرنا وغیرہ، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اعمال کے وزن کی بھی کوئی صورت نکالے یہ اس کی قدرت اور طاقت سے ہرگز مستبعد نہیں ہے۔

## ترازو میں کن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے؟

محققین علماء کے نزدیک قیامت کے دن لوگ اعمال کے اعتبار سے تین قسموں پر مشتمل ہوں گے، اول وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں سرے سے کسی برائی اور گناہ کا وجود ہی نہ ہوگا۔ ان کے پاس بس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ اس طرح کے افراد اسٹ محمدیہ میں بڑی تعداد میں ہوں گے۔ ان کو حساب کتاب اور وزن اعمال کے بغیر سیدھے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ (ان ذکر آگے آئے گا انشاء اللہ)

دوسرے وہ کفار جن کے پاس کفر کے ساتھ کوئی اچھائی کسی طرح نہ ہوگی۔ ایسے لوگوں کو بلا وزن اعمال جہنم رسید کرنے کا حکم ہوگا۔

تیسرے وہ بے عمل مسلمان اور کفار ہوں گے جنہوں نے غلط ملط اعمال کیے ہوں گے یعنی انہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوں گی مگر وہ نیکیاں کفر کے مقابلہ میں بے حیثیت ہوں گی۔ البتہ کسی قدر عذاب کے درجات کم کرنے میں معاون بنیں گی۔ ایسے

﴿اللہ سے شرم کیجئے﴾ ﴿۳۶۵﴾

لوگوں کے اعمال تو لے جائیں گے اور نیکیوں کا پلہ ہلکا اور بھاری ہونے کے اعتبار سے جنت یا جہنم کے درجات کا فیصلہ ہوگا۔ اہل کچھ لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں دونوں بالکل برابر ہوں گی انہیں اعراف میں رکھ کر انتظار کرایا جائے گا بالآخر ایک عرصہ کے بعد ان کی سفارش قبول کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ انشاء اللہ۔ (مستدرج الباری ۱۶/۶۵۹، ۶۵۹)

## نیکیوں کے وزن میں اضافہ کیسے؟

اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکیوں کی قدر و قیمت اور وزن میں اضافہ خلوص قلب اور اخلاص کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ حضور قلبی اور محض رضاء الہی کے جذبے سے عمل کیا جائے گا اسی اعتبار سے اس عمل کا وزن بڑھتا چلا جائے گا اور اس جذبہ میں جتنی کمی ہوگی ویسے ہی آخرت میں وزن کے اندر بھی کمی ہو جائے گی، اگر خلوص سے عمل کیا جائے تو وزن میں ترقی کا عالم یہ ہے کہ جناب رسول اللہ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا:

الْحَسَنُ لِلَّهِ تَمَلًّا الْعَمِيرَانِ۔ (مسلم شریف ۱/۱۱۸) اور کلمہ الحمد للہ (قیامت کے روز اتنے بڑے جسم میں آئے گا کہ اکیلے) ہی میزان عمل کو بھر دے گا، نیز ابھی حدیث گزر چکی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی پرچی رکھتے ہی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ یہ وہ ذکر خداوندی ہے جو اس نے کبھی زندگی میں کامل اخلاص سے مخلوق سے بے غرض ہو کر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی بدولت اس کو نہایت وزنی بنا دے گا۔ (حدیث ۳۶۸)

نیز ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مؤمن کے اعمال تو لے جاتے وقت جب اس کی نیکیوں میں کچھ کسر رہ جائے گی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچی نیکیوں کے پلہ میں ڈالیں گے جس میں اس کا زندگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرورد شریف پڑھنے کا ذکر ہوگا، اس کے رکھتے ہی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ (حدیث ۳۶۵)

الغرض نیکیوں میں وزن اخلاص سے آتا ہے، اگر اخلاص ہو تو دیکھنے میں چھوٹے سے چھوٹا عمل آخرت میں بڑا بھاری ہو جائے گا اور اگر اخلاص نہ ہو تو دیکھنے میں بہت بڑے نظر آنے والے اعمال آخرت میں قطعاً بے وزن اور بے حیثیت ہو جائیں گے۔

## حضرات صحابہؓ کے اعمال سب سے زیادہ

### وزنی ہونے کا سبب؟

حضرات صحابہؓ کے ساری امت سے افضل ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پر فیض صحبت کی وجہ سے ان کو ایسا کامل جذبہ اخلاص نصیب ہوا تھا جس کی نظیر بعد میں نہیں پائی جاتی، اسی اخلاص نے ان کے اعمال کو حد درجہ وزنی بنا دیا کہ بعد میں آنے والا کوئی امتی اپنے بڑے سے بڑے عمل کے ذریعے بھی ان کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا، اسی لئے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي بَعْدَ الَّذِي نَفْسِي بَيْنَهُمْ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ  
انْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدًّا حَلِيهِمْ وَلَا نَصِيفَةً

(مسلم شریف ۳۱۰/۲، بخاری شریف ۵۱۸۱/۱، ترمذی شریف ۲۲۵/۲)

میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لئے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے پھر بھی میرے صحابہ کے ایک مد ہلکے آدمے مد غلہ (صدقہ کرنے) کے ثواب کو بھی نہ پہنچ پائے گا۔

اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال صالحہ میں زیادہ سے زیادہ وزن پیدا ہو اور ہمارے درجات میں اضافہ ہو تو ہمیں ہر مرحلہ پر اخلاص کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اور محض رضائے خداوندی کو مقصود بنا کر عبادات انجام دینی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فکر عطا فرمائے۔ اور ریاء وغیرہ سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

### بعض وزنی اعمال کا ذکر

اوپر ذکر کیا گیا کہ ہر عمل میں وزن اخلاص سے آئے گا خواہ کوئی بھی عمل ہو، تاہم

احادیث طیبہ میں بعض اعمال و اذکار کو خاص طور پر روزنی بتایا گیا ہے۔

مثلاً ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَا مِنْ شَيْءٍ يُؤْضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلَ مِنْ خُلُقِي حَسَنٍ وَإِنْ صَاحِبَ حُسْنِ الْعُلُقِي لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ۔ (ترمذی شریف ۲۰۱۲)

میزان عمل میں رکھی جانے والی کوئی چیز حسن اخلاق سے بھاری نہیں ہے حسن اخلاق سے متصف شخص اپنی اس صفت کی بدولت (نفل) روزے اور نماز پڑھنے والے کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔

واقعی حسن اخلاق ایسی صفت ہے جو انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتی ہے اور آخرت میں بھی اسے عظیم الشان عزت سے سرفراز کرے گی، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے ارشاد فرمایا ہے: کہ ”خوش اخلاقی سے متصف شخص کے متعلق میرا فیصلہ اٹل ہے کہ میں اسے قیامت کے دن عرش کے سایہ میں جگہ دوں گا اور اپنے حظیرۃ القدس سے سیراب کروں گا اور اپنے قرب سے نوازدوں گا۔“ (المعجم المربع فی نواب العمل الصالح عن الطبرانی ۳۷۰)

اسی طرح تسبیح و تحمید کے کلمات اللہ کے نزدیک انتہائی با وزن ہیں بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، عَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، يُعْفِيَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (بخاری شریف ۱۱۲۹/۲)

دو بول، رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں میزان عمل میں بھاری ہیں (وہ کلمے یہ ہیں) سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔

نیز ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کے پلے کو روزنی بنانے میں یہ بات بھی کام آئے گی کہ کسی شخص پر کسی نے کوئی بہتان لگایا ہوگا اور وہ اس سے بری ہوگا تو اس بہتان کی وجہ سے اسے جو قلبی تکلیف پہنچے گی یہی تکلیف اس کو قابل رحم بنا دے گی، ایک

روایت میں ہے:

يُحَاءُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِتْوَضِعُ حَسَنَاتِهِ فِي كِفَّةٍ وَسَيِّئَاتِهِ فِي كِفَّةٍ  
فَتَرَجَحُ السَّيِّئَاتُ فَتَجِي بِطَاقَةٍ فَتَقَعُ فِي كِفَّةِ الْحَسَنَاتِ فَتَرَجَحُ بِهَا، يَقُولُ رَبِّ  
مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ؟ فَمَا مِنْ عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي لَيْلِي أَوْ نَهَارِي إِلَّا وَقَدْ اسْتَقْبَلْتُ بِهِ  
قَالَ: هَذَا مَا قَبِلَ فِيكَ وَأَنْتَ مِنْهُ بِرَبِّي فَيَنْحُو مِنْ ذَلِكَ.

ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر اس کی نیکیاں ایک پہلے میں اور  
برائیاں دوسرے پہلے میں رکھ دی جائیں گی، پس برائیوں کا پہلہ جھک جائے گا، پھر ایک پرچی  
آئے گی جو نیکیوں کے پہلے میں رکھی جائے گی جس کی وجہ سے وہ پہلہ جھک جائے گا۔ تو وہ آدمی  
(حیرت سے) پوچھے گا، کہ یہ پرچی کیسی ہے؟ اس لئے کہ میں نے زندگی میں رات دن  
میں جو اعمال کئے تھے وہ سب میرے سامنے آچکے تو کہا جائے گا کہ یہ پرچی اس  
(بہتان) کے بارے میں ہے جو تجھ پر لگایا تھا جبکہ تو اس سے بری تھا، چنانچہ اس کے ذریعہ  
وہ نجات پا جائے گا۔

غور فرمائیے جب ایک مبرا شخص پر بہتان باندھنا ایسی چیز ہے جس سے وہ مبرا  
آدمی اللہ کی نظر میں قابل رحم بن جاتا ہے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ خود بہتان لگانے  
والے کے لئے یہ برائی کتنی وزنی ہوگی؟ جو اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دے گی، اسی بنا پر  
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے:

(نوادیر الاصول للحکیم الغرملی ۱۲۰/۱، کنز العمال ۱۲۵/۱۳)

الْبُهْتَانُ عَلَى الْبَرِّ يُنْقَلُ مِنَ السَّمَوَاتِ۔ (نوادیر الاصول ۱۲۰/۱)

ایک بری شخص پر بہتان باندھنا سب آسمانوں سے زیادہ وزنی (برائی) ہے۔  
اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بہتان طرازیوں سے پوری طرح محفوظ رکھے،

(آمین)



## ساتویں فصل:

### رحمت خداوندی کا زبردست مظاہرہ

یہ اگرچہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں انصاف کی ترازو قائم فرمائے گا تاکہ ہر ایک کے سامنے اس کا عمل اور اس کی حیثیت آجائے، تاہم اس دن ارحم الراحمین اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی رحم و کرم، غنودرگزر اور رحمت کا معاملہ بھی فرمائے گا، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَأَّحُمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ وَتَسْعَةُ وَتِسْعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ (مسلم حریف ۳۵۶/۲)

اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوجز وہیں جن میں سے صرف ایک جزو رحمت کا اثر ہے کہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرتی ہے اور اس رحمت کے ۱۹۹ اجزاء قیامت کے دن (مغفرت کے لئے) مخصوص ہیں۔

چنانچہ میدان محشر میں ارحم الراحمین کی طرف سے جس رحمت کا مظاہرہ ہو گا وہ ناقابل تصور ہے، اس کی ایک جھلک اس روایت میں بیان فرمائی گئی، آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

رَجُلٌ يُؤْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ إِعْرِضُوا عَلَيَّ صِغَارِ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا بِنْتِعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارِ ذُنُوبِهِ فَيَقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، نَعَمْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيَقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هُنَا۔ (مسلم حریف ۱۰۶/۱)

قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا اور (فرشتوں کو) حکم ہوگا کہ ابھی صرف اس کے چھوٹے گناہ پیش کئے جائیں اور بڑے روک کر رکھے جائیں، چنانچہ اس کے چھوٹے

﴿ اللہ سے ظہور کیجئے ﴾

گناہوں کی پیشی ہوگی، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں فلاں دن یہ کیا؟ تم نے فلاں فلاں دن یہ کیا؟ تو وہ اثبات میں جواب دے گا، انکار نہ کر سکے گا، اور (دل دل میں) بڑے گناہوں کی پیشی سے ڈر رہا ہوگا، تو اس سے کہا جائے گا کہ (جا) تجھے ہر برائی کے بدلے میں نیکی عطا کی جاتی ہے تو وہ فوراً (یا تو ڈرا جا رہا تھا یا) یہ بولے گا کہ اے میرے رب کچھ اور اعمال بھی تو میں نے کئے تھے وہ یہاں مجھے دکھائی نہیں دیئے، (مقصود یہ ہوگا کہ وہ بھی سامنے آئیں تاکہ ان کے بدلے میں بھی نیکیاں ملیں)

راوی کہتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے تو چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے تھے بہر حال اس دن بہانہ بہانہ سے اہل ایمان کی مغفرت اور رفع درجات کے فیصلے ہوں گے، ارحم الراحمین کی جانب سے بھرپور رحمت کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت تامہ کا مستحق بنائے۔ آمین۔

## عرش کے سایہ میں

میدان محشر میں نہ کوئی عمارت ہوگی، نہ درخت ہوگا، نہ کسی کا ٹینٹ ہوگا، نہ کسی طرح کا سائبان ہوگا بلکہ سب ایک چٹیل میدان میں اس طرح جمع ہوں گے کہ ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا اور ایک دوسرے کی آواز سن رہا ہوگا اس دن اگر سایہ ہوگا تو صرف عرش خداوندی کا سایہ ہوگا اور جو خوش نصیب عرش کے سایہ میں پہنچ جائے گا اس کو پھر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، گویا کہ یہ عرش کا سایہ اللہ کی طرف سے اپنے مخصوص اور مقرب بندوں کے لئے خصوصی نشت گاہ کے طور پر استعمال ہوگا۔

متعدد احادیث میں ان خوش نصیب افراد کی فہرست بیان ہوئی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے اعزاز کے ساتھ بٹھانے کا اعلان فرمایا ہے، مسلم شریف میں روایت ہے کہ:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ مِنْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ (۱) أَلَمَامُ الْعَادِلِ



## ﴿ اللہ سے شکر کہنے ﴾

(۲) وَشَابَ نَشَابِ عِبَادَةِ اللَّهِ (۳) وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ (۴) وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ (۵) وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ السُّلْمَ (۶) وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصِدْقَةٍ فَاحْفَاظَهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تَنْفِقُ شِمَالَهُ (۷) وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ (مسلم شریف ۳۳۱/۱)

سات آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے (عرش) کے سایہ میں رکھے گا جب اس کے سایہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا، (۱) عادل بادشاہ (۲) وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے (۳) وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے (۴) وہ دو آدمی جو ایک دوسرے سے صرف اللہ واسطے کا تعلق رکھیں اسی پر جمع ہوں اور اسی پر الگ ہوں (۵) اور وہ آدمی جسے کوئی باوجاہت خوبصورت عورت (بدکاری کی) دعوت دے تو وہ جواب میں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۶) اور وہ شخص جو اتنے خفیہ طریقہ پر صدقہ خیرات کرے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہ چلے کہ بائیں نے کیا خرچ کیا (۷) اور وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے پھر اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔

مگر یہ تخصیص سات ہی طرح کے حضرات کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر بعض احادیث میں اور اعمال پر بھی اسی اعزاز کا اعلان کیا گیا ہے، مسلم شریف میں ہے: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ۔ (مسلم شریف ۴۱۶۲، ح ابوری ۱۸۳/۳) جو شخص کسی تنگدست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا جب کہ اس کے سایہ کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا علاوہ ازیں حافظ ابن حجر نے ان صفات کی فہرست میں ایک مستقل رسالہ ”مَعْرِفَةُ الْحِصَالِ الْمُؤَصِّلَةِ إِلَى الظِّلَالِ“ کے نام سے لکھا ہے جس میں درج بالا صفات کے ساتھ، درج ذیل اعمال کو بھی شامل فرمایا ہے:

(۱) مجاہد بن سمیل اللہ کی مدد کرنا (۲) قرض دار کے قرضہ کی ادائیگی کرنا (۳) مکاتب (غلام کی آزادی) میں مدد کرنا (۴) لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا

﴿ اللہ سے شکر کیجئے ﴾

(۵) بار بار غم سے سابقہ پڑنا (۶) امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کرنا (۷) مسجد کی طرف چل کر جانا (۸) ناگواری طبع کے باوجود کامل وضو کرنا (۹) بچا ہوا کھانا محتاجوں کو کھلانے کا معمول بنالینا (۱۰) اپنا حق فتنہ کے ڈر سے چھوڑ دینا (۱۱) کسی ضرورت مند کی کفالت کرنا۔

(بخاری ۱۸۳/۳)

اس موضوع پر علامہ سقادی اور علامہ سیوطی نے بھی باقاعدہ رسائل لکھے ہیں اور ایسی صفات کی تعداد ۹۰ تک پہنچادی ہے لیکن وہ روایتیں اکثر ضعیف ہیں۔

(فیض اللہ ۱۱۳/۳)

بہر حال دنیا ہی میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال اختیار کریں کہ ہمیں میدانِ محشر میں اعزاز و اکرام کیساتھ عرشِ خداوندی کا تبرک سایہ باعافیت نصیب ہو جائے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پر عظیم احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ان اسباب کی خبر عطا فرمادی ہے، ان تمام تفصیلات کے آنے کے باوجود اگر کوئی شخص کوتاہی کرتا ہے تو اس سے بڑا عروم اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔

## ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا

حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے چہرے سے حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، کیا بات ہے تم کچھ ٹھگن نظر آرہے ہو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! ایک بات سوچ کر مجھے غم ہو رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا بات ہے تو عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ آج تو ہم الحمد للہ صبح شام آپ کی زیارت اور مجلس میں حاضری سے مستفید ہوتے ہیں لیکن کل آخرت میں آپ تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اونچے درجے پر ہوں گے، (ہماری وہاں تک کہاں رسائی ہوگی؟) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب مرحمت نہیں فرمایا اس پر حضرت جبرئیلؑ یہ آیت لے کر تشریف لائے:

﴿اللَّهُ مَعَهُ شَرٌّ كَبِيرٌ﴾ ﴿٣٤٣﴾

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ  
وَالصَّالِحِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ يُوَفِّسُ اللَّهُ لَهُمْ مَوَٰجِدَٰتٍ وَأُولَٰئِكَ رُفِيقًا۔ (سورة النساء)

اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ  
نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہداء اور نیک بخت ہیں اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ صحابی کو بلایا اور اس آیت کی خوشخبری  
سے آگاہ فرمایا۔ (تفسیر ابن کثیر، کامل ۳۴۱/۱)

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھا کر حجرہ مبارکہ کی طرف  
تشریف لے جا رہے تھے، ایک دیہاتی شخص آیا اور سوال کرنے لگا ”یا رسول اللہ متی  
الساعة؟“ (اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟) حضور اقدس نے فرمایا: ”ويحك  
ما اعددت لها؟“ (ارے تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟) تو اس نے عرض کیا کہ  
اے حضرت! میرے پاس زیادہ روزے نماز کا ذخیرہ تو ہے نہیں، بس اتنا ہے کہ مجھے اللہ اور  
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس کا جواب سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ (آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ سچی محبت رکھتا  
ہے) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں اس عظیم  
سرت آئینہ اعلان سے زیادہ کسی چیز سے خوشی نہیں ہوئی۔ (ابن کثیر/۳۳۲)

اسی طرح بخاری و مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ”جو تاجر صدق و امانت کے  
ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا حشر قیامت کے دن حضرات انبیاء، حضرات صدیقین، شہداء  
اور صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا۔“

اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر بد عملوں سے محبت ہے تو حشر بھی انہی  
کے ساتھ ہوگا، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسے محبوب بنا رہے ہیں؟ اور صرف ایسے ہی  
شخص سے محبت کرنی چاہیے جس کی محبت ہمارے لیے آخرت میں نفع بخش ہو سکے۔

## حافظ قرآن کا اعزاز

میدانِ محشر میں قرآن کریم حفظ کرنے والے کو انتہائی عزت سے نوازا جائے گا، خود قرآن کریم اس کی سفارش کرے گا، اور اس کو کرامت کا تاج اور عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

يَسْحَبِي الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ رَبِّ حُلَّةٍ فَيَلْبَسُهَا تَاجَ الْكِرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيَلْبَسُ حُلَّةَ الْكِرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيَقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَأْ وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً۔ (ترمذی حریف ۱۱۹/۲۰)

قیامت کے روز قرآن کریم (اللہ تعالیٰ کے دربار میں) آکر عرض کرے گا، کہ اے میرے رب! اس (صاحب قرآن) کو جوڑا پہنائیے۔ چنانچہ اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، پھر قرآن کریم سفارش کرے گا کہ اس کے اعزاز میں اور اضافہ فرمائیے چنانچہ اس کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا، پھر قرآن کریم کہے گا کہ اے رب! اس سے راضی ہو جائیے چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا سے نواز دے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور (جنت میں) چڑھتا جا، اور ہر آیت کے عوض ایک نیکلی میں اضافہ کیا جاتا رہے گا۔

یہ اس شخص کا اعزاز ہے جس کی آج عام دنیا داروں کی نظر میں کوئی وقعت نہیں، بلکہ اگر کوئی اس لائن میں لگتا بھی ہے تو اسے قریبی رشتہ داروں سے اور دوست و احباب سے طعنے سننے کو ملتے ہیں۔ میدانِ محشر میں جب اس شخص کو ”عالمی اعزاز“ سے نوازا جائے گا تب ان دنیا داروں کو اپنی محرومی کا احساس ہوگا، اور گزری ہوئی زندگی پر حسرت و افسوس ہوگا، مگر اس وقت کوئی حسرت کام نہ آسکے گی۔

## حافظ قرآن کے والدین کا اعزاز

قرآن کریم کے اعزاز کے ذریعہ سے نہ صرف یہ کہ حافظ کو عزت ملے گی بلکہ محشر

کے بین الاقوامی اجتماع میں حافظ قرآن کے والدین کو بھی شاندار اعزاز سے نوازا جائے گا، اور ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ الْبَيْسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي يَبُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ قَمَا ظَنَنْتُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِذَا۔ (مشکوٰۃ شریف ۱۸۶)

جو شخص قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا (شاندار) تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے کہیں عمدہ ہوگی جو دنیا کے گھروں میں نکلا ہوا ہو۔ اگر تمہارے گھروں میں ہو (یعنی) جب اتنی دور سے سورج پوری دنیا کو منور کرتا ہے تو قریب کرنے پر اس کی روشنی کا کیا حال ہوگا؟ پس (جب والدین کا یہ حال ہے) تو تمہارا قرآن کریم پر خود عمل کرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ (یعنی اسی سے اندازہ کر لو)

آج کے مادیت پرست ماحول میں اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے لخت جگر کو حفظ قرآن کریم کی تعلیم دلاتا ہے تو اسے طرح طرح کے ناگوار تبصروں سے سابقہ پڑتا ہے، ان سب باتوں کو برداشت کرنے اور اپنی اولاد کی بہترین دینی تربیت دینے کے صلہ میں والدین کو تمام اولین و آخرین کے سامنے وہ عزت ملے گی جس کا تصور دنیا میں کیا ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اس حدیث میں ایسے والدین کے لیے انتہائی عظیم خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس عظیم خوشخبری کا مستحق بنائے۔ آمین۔

## محشر میں نور کے منبر

میدان محشر میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جا بجا نور کے روشن اور منور منبر قائم کر دیئے جائیں گے، جن پر وہ لوگ تشریف فرما ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ واسطے کا تعلق رکھتے ہوں گے، جن کی حالت انبیاء اور شہداء کے لیے بھی قابل رشک ہوگی۔ ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرٌ مِنْ نُورٍ يَغِيظُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشَّهَدَاءُ.

(مشکوٰۃ شریف/۴۲۶)

میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں تعلق و محبت رکھنے والوں کے لیے قیامت میں نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے (یعنی ان کی تعریف کریں گے)

## چار (۴) عمومی سوال

میدان محشر میں سب سے ۴ باتوں کی تحقیق کی جائے گی، جس شخص نے ان چار سوالات کا جواب اپنی عملی زندگی میں صحیح دیا ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس نے کوتاہی اور غفلت میں زندگی گزاری ہوگی وہ نقصان اور خسارہ میں رہے گا، وہ سوالات کیا ہیں ان کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

لَنْ تَزُولَ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْتَلَّ عَنْ أَرْبَعٍ بِحِصَالٍ، عَنْ عُمْرِهِ  
فِي مَا آفَنَاهُ، مَوْعِنَ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، مَوْعِنَ مَالِهِ مِنْ آيِنٍ اِكْتَسَبَهَا، وَفِي مَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ.  
مَا ذَا عَمِلَ فِيهِ. (الرہب و الرہب ۲۱۴/۴)

کسی شخص کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ چار باتوں کی اس سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے (۱) عمر کہاں لگائی؟ (۲) جوانی کہاں گنوائی؟ (۳) مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ (۴) اور علم پر کہاں تک عمل کیا؟ اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہم دنیا ہی میں ان سوالوں کا بہتر جواب دینے کی تیاری کریں تاکہ ہم آخرت کے امتحان میں سرخ رو ہو سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے، آمین۔



باب ہفتم

# آخری ٹھکانہ کی طرف

- ☆ جہنم! میدان محشر میں
- ☆ نور کی تقسیم
- ☆ جنت کی طرف روانگی
- ☆ جنت کی نعمتیں
- ☆ جہنم کی ہولناکیاں
- ☆ مؤمنین کی جہنم سے نجات



## پہلی فصل

### میدانِ محشر میں ”جہنم“ کو لائے جانے کا منظر

قیامت کے دن نہایت عظیم وسعت اور عذاب والی ”جہنم“ کو کھینچ کر لایا جائے گا، اس کی کیفیت کتنی دہشت ناک ہوگی اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جاسکتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

يُؤْتَى بِالنَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْرُوقُ نَهَا۔ (مسلم شریف ۳۸۱/۲، العرش والعرش ۲۳۹/۳)

قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار لگائیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔

اللہ اکبر! اس منظر کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب اور جہنم سے پوری طرح محفوظ رکھے، آمین۔

### مشرکین اپنے معبودانِ باطلہ کے ساتھ جہنم میں

حساب کتاب وغیرہ کی کارروائی مکمل ہو جانے کے بعد ہر فرد اور جماعت کو اس کے اصل ٹھکانے تک پہنچانے کا عمل شروع ہوگا، سب سے پہلے مشرکین سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے معبودانِ باطلہ کے پیچھے لگ لیں، اور پھر انہیں ان کے بتوں، پتھروں اور صلیبوں سمیت جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، لَوْ كَانُوا يَلْقَوْنَ إلهةً مَا وَرَدُوا هَا، وَمَا كُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ۔ (الانباء ۹۸، ۹۹)

اور تم اور جو کچھ تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوائے، ایندھن ہے دوزخ کا، تم کو اس پر پہنچاتا ہے، اگر ہوتے یہ بت معبود تو نہ پہنچتے اس پر، اور سارے اس میں سدا پڑے رہیں



اور ایک طویل حدیث وارد ہے:

يُنَادِي مُنَادٍ لِيُنْهَبَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيُنْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ وَأَصْحَابُ كُلِّ إِلَهَةٍ مَعَ إِلَهَتِهِمْ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغَيْرَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔

(بخاری شریف ۷/۲۷۱۱، رقم: ۷۳۳۹)

منادی اعلان کرے گا ہر جماعت اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے لگ لے، چنانچہ صلیب کو پوجنے والے اپنی صلیب کے ساتھ، اور بتوں کی پوجا کرنے والے اپنے اپنے بتوں کیساتھ، اور ہر معبود (باطل) کے پیجاری اپنے معبودوں کیساتھ ہو جائیں گے، تا آنکہ صرف وہ لوگ باقی بچیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مدئی ہیں، خواہ نیک ہوں یا بد، اور کچھ اہل کتاب باقی رہ جائیں گے۔

## یہود و نصاریٰ کا انجام

اس کے بعد یہود و نصاریٰ سے بلا کر پوچھا جائے گا کہ تاؤ تمہارا معبود کون ہے؟ اس وقت یہودی حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی تکذیب فرمائے گا اور انہیں بھی جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے:

ثُمَّ يُولَىٰ بِحَبْثِهِمْ تَعْرِضُ كَأَنَّهُمْ سَرَابٌ يُعْبَدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عَزِيرًا ابْنَ اللَّهِ فَيَقَا كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تَرِيْتُونَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينَا قِيَالَ ائْشَرُوا فَيَتَسَا قَطُونَ فِي حَبْثِهِمْ ثُمَّ يُقَالَ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ فَيَقَالَ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تَرِيْتُونَ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينَا قِيَالَ ائْشَرُوا فَيَتَسَا قَطُونَ۔

(بخاری شریف ۷/۲۷۱۱، رقم: ۷۳۳۹، مسلم شریف ۱۰/۲۱۱)

پھر جہنم لائی جائے گی جو دور سے سراب (چمکتا ہوا ریت جو دور سے پانی معلوم ہوتا ہے) محسوس ہوگی، پھر یہودیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے تو کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اولاد، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پانی پلائیں، تو کہا جائے گا (سراب کی طرف اشارہ کر کے) کہ جاؤ پی لو، پس وہ (وہاں جا کر) جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کے بعد نصاریٰ سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کو پوجتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو، تو جواب ملے گا کہ تم جھوٹ بکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ بیٹا، اب بتاؤ تمہاری کیا چاہت ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں پانی پلائیں تو انہیں بھی (جہنم کے سراب کی طرف اشارہ کر کے) کہا جائے گا کہ جاؤ پی لو، چنانچہ وہ بھی وہاں جا کر سب کے سب جہنم میں گر پڑیں گے۔

معلوم ہوا کہ تمام مشرکین اور شرک کرنے والے تمام یہود و نصاریٰ سب کے سب جہنم کا بندھن بنا دیئے جائیں گے، اعاذنا اللہ منہ۔

## اہل ایمان اور منافقین میں امتیاز اور ساق کی تجلی

مشرکین اور اہل کتاب کے جہنم رسید ہو جانے کے بعد میدان محشر میں صرف سچے مومن اور منافق باقی رہ جائیں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ سب لوگ تو جا چکے ہیں تم لوگ یہاں کیوں رہ کے ہوئے ہو؟ یہ حضرات جواب دیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں بھی اور لوگوں سے الگ راہ اپنائی تھی جبکہ ہم (کسی درجہ میں) ان کے تعاون کے محتاج بھی تھے، لہذا اب ہملا ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں، ہم نے تو یہ اعلان سنا ہے کہ ہر شخص اپنے معبود کے پیچھے رہے اس لیے ہم اپنے پروردگار کا انتظار کر رہے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو تجلیوں کا ظہور ہوگا، پہلی تجلی کی شان ایسی ہوگی جو مومن کے ذہن و دماغ میں راسخ اللہ تعالیٰ کی صورت سے مزین نہ رکھے گی بلکہ اس تجلی کا نہ پہچانا ہی مقصود و حق ہوگا اس لیے

اہل ایمان اسے پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اس کے بعد ”جلی ساق“ ہوگی اس کے ظاہر ہوتے ہی ہر سچا مومن بے اختیار بارگاہ حق میں سجدہ ریز ہو جائے گا، جبکہ منافقوں کی کمر تختہ ہو جائے گی اور وہ سجدہ کرنے کے بجائے گدی کے بل گر پڑیں گے، سلم شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يُعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَىٰ مِنْ بَرٍّ وَلَا فَاجِرٍ آتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي أَذْنِي صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا قَالَ فَمَا تَتَّبِعُونَ؟ تَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا الْيَوْمَ نَبَاغَارُ فَنَابَارُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا انْفَقَرَا مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نَصَاحِبَهُمْ فَيَقُولُ: أَنَارُكُمْ يَفْقَهُوْنَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّىٰ أَنْ بَعْضُهُمْ لِكِبَادُو يَنْقَلِبُ فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِي فَلَا يَبْقَىٰ مَنْ كَانَ يُسْحَدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِسُجُودٍ وَلَا يَبْقَىٰ مَنْ كَانَ يُسْحَدُ إِيْتَاءَ وَرِيَاءَ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ طَهْرَةً طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا رَآدَ أَنْ يُسْحَدَ خَرَّ عَلَىٰ قَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَارُكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا الْخ.

(مسلم شریف ۱۰۲/۱ رقم: ۱۸۴)

یہاں تک کہ جب صرف نیک و بد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہی میدان محشر میں باقی رہ جائیں گے (جن میں منافق بھی ہوں گے) تو اللہ رب العالمین ان کے سامنے ایک معمولی جلی کی صورت میں تشریف فرما ہوگا اور پوچھے گا کہ تم لوگ کس کے منتظر ہو؟ ہر قوم تو اپنے معبود کے ساتھ جا چکی، تو یہ لوگ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب! ہم نے دنیا میں لوگوں سے جدائی اختیار کی جبکہ ہم آج سے زیادہ ان کے محتاج تھے اور ہم ان کے ساتھ نہیں رہے (تو اب ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں) تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں مومنین (جو جلی کی جگہ ساق کے دھیان میں ہوں گے اس معمولی جلی کو حسب تقدیر خداوندی حقیقی نہ سمجھ رہے ہوں گے) یہ کہیں گے کہ ہم اللہ سے پناہ چاہتے

﴿ اللہ سے شہوم کھینچنے ﴾ ﴿ ۳۸۲ ﴾

ہیں! ہم قطعاً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے (یہی جملہ دو تین مرتبہ دہرائیں گے) حتیٰ کہ ان میں سے بعض (منافق) دھوکے میں پڑنے کے قریب ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی مقرر ہے جس سے تم اسے پہچان لو گے؟ تو مومنین عرض کریں گے کہ جی نشانی ضرور ہے اس کے بعد ساق (نور عظیم) کی چلی ہوگی جسے دیکھتے ہی تمام خلص سجدہ کرنے والے اللہ کی اجازت سے سجدہ ریز ہو جائیں گے..... اور جو لوگ محض دکھاوے اور مشکلات سے بچنے کے لیے سجدہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان سب کی کمر کو ایک تختہ بنا دے گا! جب بھی ان میں سے کوئی سجدہ کا ارادہ کرے گا تو گدڑی کے بل گر پڑے گا، پھر اہل ایمان سجدے سے سر اٹھائیں گے، تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی چلی میں رونق افروز ہے جو چلی ساق سے پہلے تھی، اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو وہ سب بول اٹھیں گے کہ جی ہاں! آپ ہمارے رب ہیں (یعنی سب اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر پہچان لیں گے)

اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ چلی ساق کے بعد جب مومنین سجدہ سے سر اٹھائیں گے تو اس وقت انہیں اللہ رب العزت اپنی رویت مبارکہ سے مشرف فرمائے گا، اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے اسی طرح بغیر تکلیف کے رویت کی سعادت حاصل کرے گا جیسے لوگ ہر جگہ سے برابر سورج اور چاند کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جو منافق سجدہ سے محروم ہوں گے، وہ اپنے کفر و نفاق کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی زیارت سے بھی محروم ہوں گے، قرآن کریم میں ارشاد ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ (التطفیف ۱۵) (کوئی نہیں وہ اپنے رب سے اس دن روک دیئے جائیں گے) (صحیح الباری ۱۶/۵۵۰، فتح الملہم وغیرہ) اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رویت سے بہرہ ور فرمائے۔ آمین۔



## دوسری فصل

### میدانِ محشر کی اندھیریوں میں نور کی تقسیم

اہل ایمان اور منافقین میں امتیاز اور آخری امتحان کے بعد پورے میدان میں سخت اندھیرا طاری کر دیا جائے گا، پھر اہل ایمان کو ان کے ایمان اور اعمالِ صالحہ کے اعتبار سے نور عطا کیا جائے گا، اسی نور اور روشنی کے ذریعہ وہ اگلے اہم ترین مرحلہ یعنی ”پہل صراط“ کو طے کریں گے اور بالآخر جنت میں پہنچیں گے، منافقین کو یا تو بالکل نور سے محروم رکھا جائے گا، یا معمولی نور دے کر عینِ ضرورت کے وقت ان سے نور چھین لیا جائے گا اور وہ حسرت سے اندھیرے میں کھڑے کھڑے رہ جائیں گے، قرآن کریم میں ارشادِ باری ہے:

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ  
وَبِأَيْمَانِهِمْ، بُشْرًا لَكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيدِينَ فِيهَا، ذَلِكَ هُوَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ يَوْمَ يَقُولُ الْمُشْفِقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَارًا تَنقَبِسُ مِنْ  
نُورِكُمْ، قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورَةٍ بَابٌ، بَاطِنُهُ  
فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، يُنَادُونَ لَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ مَقَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ  
فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ  
الْغُرُورُ۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْعَدُّ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، مَأْوَاكُمْ النَّارُ، هِيَ مَوْلَاكُمْ  
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ (العنكبوت: ۱۲-۱۵)

جس دن تو دیکھے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ دوڑتی ہوئی چلتی ہے ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے، خوش خبری ہے تم کو آج کے دن باغ ہیں نیچے بہتی ہیں جتنے نہریں، سدا رہو ان میں، یہ جو ہے یہی ہے بڑی مراد مانی۔

جس دن کہیں گے دعا باز مرد اور عورتیں ایمان والوں کو راہ دیکھو ہماری ہم بھی روشنی لیں تمہارے نور سے، کوئی کہے گا لوٹ جاؤ پیچھے، پھر ڈھونڈ لو روشنی، پھر کھڑی کر دی

جائے ان کے بیچ میں ایک دیوار، جس میں ہوگا دروازہ، اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب۔ یہ ان کو پکاریں گے کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ؟ کہیں گے کیوں نہیں! لیکن تم نے بچلا دیا اپنے آپ کو اور راہ دیکھتے رہے، اور دھوکہ میں پڑے اور بہک گئے اپنے خیالوں پر یہاں تک کہ آپہنچا حکم اللہ کا اور تم کو بہکا دیا اللہ کے نام سے اس دعا باز نے، سو آج تم سے قبول نہ ہوگا نذیر دینا، اور نہ منکروں سے، تم سب کا گھر دوزخ ہے، اور وہی ہے رفیق تمہاری، اور بری جگہ جا بیٹھے۔

## نور میں زیادتی کے اسباب

- احادیث طیبہ میں ان مبارک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے جو میدان محشر میں نور کی زیادتی کا سبب بنیں گے، ان میں سے بعض اعمال کا خلاصہ یہ ہے:
- (۱) اندھیری رات میں جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے والوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل نور کی خوشخبری سنائی ہے۔ (ابوداؤد ترمذی)
  - (۲) مطلقاً بیخ وقتہ نمازوں کی پابندی کو موجب نور قرار دیا گیا، اور نماز چھوڑنے کو نور سے محرومی کا سبب بتایا گیا۔ (مسند احمد)
  - (۳) سورہ کہف پڑھنے والے کا اتنا نور ہوگا جو اس کی جگہ سے مکہ مکرمہ تک محیط ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھنے کا معمول رکھے گا اس کو قدم سے آسمان تک نور عظیم عطا ہوگا۔ (طبرانی)
  - (۴) قرآن کریم پڑھنا قیامت میں باعث نور ہوگا۔ (مسند احمد)
  - (۵) درود شریف پڑھنے سے نور عطا ہوگا۔ (دیلی)
  - (۶) حج و عمرہ سے فراغت پر جو بال حلق کرائے جاتے ہیں اس کے ہر بال کے بدلے میں نور عطا ہوگا۔ (طبرانی)
  - (۷) منیٰ میں جمرات کی رمی کرنا باعث نور ہوگا۔ (بزار)
  - (۸) جس شخص کے بال حالت اسلام میں سفید ہو جائیں (مسلمان بوڑھا ہو جائے) تو

یہ سفید بال اس کے لیے نور ہوں گے۔ (طبرانی)

- (۹) جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا جانے والا ہر تیر باعٹ نور ہوگا۔ (۱۷۱)
- (۱۰) بازار میں اللہ کو یاد رکھنے والے کو بھی ہر بال کے بدلے نور عطا کیا جائے گا۔ (تہذیبی)
- (۱۱) جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط پر نور کے دو عظیم شعبے مقرر فرمائے گا جس سے ایک جہاں روشن ہو جائے گا جس کی مقدار اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ (طبرانی) (فصل از معارف القرآن ۸/۳۰۸-۳۰۹)
- اس کے برخلاف اعمال سیدہ جتنے زیادہ ہوں گے روشنی اسی اعتبار سے کم ہوتی جائے گی۔ بالخصوص اللہ کے بندوں کی حق تلفیاں اور ایذا رسانیاں قیامت میں سخت اندھیروں کا باعث ہوں گی، اس لیے ایسے اعمال بد سے اپنے کو بچانا لازم ہے، اور اعمال صالحہ اختیار کر کے دنیا ہی میں قیامت کے نور کی زیادتی کے اسباب فراہم کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو نور تام کی دولت سے نوازے۔ آمین۔

## پل صراط

اس کے بعد جہنم پر ایک پل قائم کیا جائے گا جس کا نام ”صراط“ ہوگا یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلواری دھار سے زیادہ تیز ہوگا (مسلم شریف ۱۰۳/۱) اس پل پر سے گزر کر اہل ایمان جنت کی طرف جائیں گے، جو جتنا زیادہ پختہ ایمان اور بہترین عمل صالح والا ہوگا وہ اتنی ہی تیزی اور عافیت سے پل صراط سے گزر جائے گا، اور جو لوگ کم عمل ہوں گے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے دیر میں گزر سکیں گے، اور جو بد عمل ہوں گے ان کو پل صراط کے کنارے لگی ہوئی سنڈاسیاں پکڑ کر سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈال دیں گی۔ اللہم اعظمہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ثُمَّ يُضْرَبُ الْحَسْرُ عَلَىٰ جَهَنَّمَ وَتَجَلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ  
سَلِّمْ بِقَبْلِ بَارِئِ اللَّهِ وَمَا الْحَسْرُ قَالَ دَخَضُ مَزَلَةٌ فِيهَا حَطَايِيفٌ وَكَلَالِيبُ  
حَسَنٌ تَكُونُ بِنَحْدِ فِيهَا شَوْبُكَةٌ يُقَالُ لَهَا السُّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرَفِ

الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَ حَاوِيْدِ الْعَيْلِ وَالرِّكَابِ مَفَاجِ مُسَلَّمٍ  
وَمَعْلُوثِ مُرْسَلٍ، وَمَكْلُوثِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، الخ۔ (مسلم حریف ۱۰۲/۱)

پھر جہنم پر پہلے بنایا جائے گا، اور سفارش کی اجازت ہو جائے گی، اور لوگوں کی زبانوں پر جملہ ہوگا، اے اللہ محفوظ رکھ! اے اللہ محفوظ رکھ! عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ پہلے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سخت پھسلنے کی جگہ ہے جس میں آنکڑے اور سنڈاسیاں اور ”نجد کے علاقہ میں پائے جانے والے“ سعدان نامی کانٹے کی طرح کانٹے ہیں، پھر مومن پہلے پر سے پلک جھپکنے، اور بجلی کوندنے، اور ہوا چلنے، اور پرندے اڑنے، اور عمدہ قسم کے گھوڑوں اور سواروں کی رفتار سے گزریں گے، پھر کوئی صحیح سالم نجات پا جائے گا اور کوئی سنڈاسیوں سے جھل جھلا کر چھوٹ جائے گا، اور کوئی انک کر جہنم میں جا کرنے والا ہوگا۔

پہلے صراط سے کوئی کافر یا منافق نہیں گزرے گا، صرف اہل ایمان ہی گزریں گے جن میں سے سزا کے مستحق بد عمل جہنم میں جا کریں گے اور ایک مدت کے بعد ان کی معافی ہو جائے گی۔

## شفاعت کا دوسرا مرحلہ

پہلے صراط پر گزرنے سے قبل جو حضرات شفاعت اور سفارش کے اہل ہوں گے ان کو سفارش کی اجازت دی جائے گی جیسا کہ حدیث بالا کے جملہ و تحل الشفاعت سے معلوم ہوتا ہے یہ سفارش کا دوسرا مرحلہ ہے جس میں کچھ مخصوص قسم کے حضرات کو بطور اعزاز و اکرام یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے ان متعلقین کے حق میں سفارش کریں جو مومن تو ہیں لیکن اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے مستحق جہنم ہو چکے ہیں، ان باعزت سفارش کرنے والوں میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور درج ذیل لوگ شامل ہوں گے۔

(مستفاد نووی علی مسلم، ۱۰۹/۱، اکمال المعلم)

(۱) باعمل حافظ قرآن کو اپنے اہل خاندان کے دس افراد کو عذاب سے بچانے کی



سفارش کرنے کی اجازت ملے گی، چنانچہ ان کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ (مکتوٰۃ/۱۷۷/۱۸۷)

(۲) دنیا میں اگر کسی بد عمل شخص نے کسی نیک عمل والے شخص پر کوئی احسان کیا ہوگا تو وہ بد عمل، نیک عمل والے شخص کو دیکھ کر اس کو احسان یاد دلائے گا اور سفارش کا متمنی ہوگا، چنانچہ اس کی سفارش سے بد عمل شخص عذاب سے بچ جائے گا۔ (مذکرہ)

(۳) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء اور شہداء کو بھی اس مرحلہ پر سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ (مکتوٰۃ شریف/۲/۳۹۵)

## پہل صراط پر ”امانت“ اور ”رحم“ کی جانچ

پہل صراط کے دائیں بائیں ”امانت داری“ اور ”رشتہ داری“ مجسم شکل میں موجود ہوں گے، اور پہل صراط سے گزرنے والوں کا جائزہ لے رہے ہوں گے، اور یہ دونوں صفات عالیہ اپنی رعایت رکھنے والوں کے حق میں گواہی دیں گے اور کوتاہی کرنے والوں کے خلاف تجت قائم کریں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحْمُ فَيَقُومَانِ حَبْنَتِي الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا۔ (معاری

شریف، مسلم شریف/۱/۱۰۲)

اور امانت اور رشتہ قربت کو چھوڑ دیا جائے گا چنانچہ وہ پہل صراط کے دائیں بائیں کنارے پر کھڑے ہو جائیں گے۔

اس کی شرح فرماتے ہوئے حضرت حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

وَالْمَعْنَى أَنَّ الْأَمَانَةَ وَالرَّحْمَ لِعِظَمِ شَانِهِمَا وَقَعَامَةِ مَا يَلْزَمُ الْعِبَادَ مِنْ رِعَايَةِ حَقِّهِمَا يُوقِفَانِ هُنَاكَ لِلْأَمِينِ وَالْعَائِنِ وَالْوَاصِلِ وَالْقَاطِعِ فَيَحَاجَّانِ عَنِ الْحَقِّ وَيَشْهَدَانِ عَلَى الْمُبْطِلِ۔ (فتح الباری/۱۳/۵۵۳)

اور مطلب یہ ہے کہ امانت داری اور رشتہ داری کی عظمت شان اور بندوں پر لازم ان کے حقوق کی رعایت کی عظیم اہمیت کی بنا پر ان دونوں کو پہل صراط پر اہم

اور خائن، اور رشتہ داری کا خیال رکھنے والے قطع کرنے والے کے لیے کھڑا کیا جائے گا، پس یہ دونوں حق ادا کرنے والے کی طرف سے دفاع کریں گے، اور باطل شخص کے خلاف گواہی دیں گے۔

اس لیے اگر ہمیں اپنی عزت کا خیال ہے اور پہل صراط پر بعافیت گزرنے کی فکر ہے تو ہمیں امانت و دیانت اور رشتہ داری کا لحاظ رکھنا لازم ہے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر سخت رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہم احفظنا منہ۔

## پہل صراط پر سے گزرتے ہوئے اہل ایمان کی شان

پہل صراط پر گزرتے وقت صالح مؤمنین کی شان عجیب اور قابل رشک ہوگی، سب سے پہلے جو جماعت گزرے گی اس میں ستر ہزار افراد شامل ہوں گے جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک دک رہے ہوں گے، ان کے بعد تیز روشنی والے ستاروں کے مانند چمک دار چہرے والے حضرات گزریں گے، پھر اسی ترتیب سے درجہ بدرجہ اہل ایمان گزرتے رہیں گے، ارشادِ نبویؐ ہے:

ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو أَوْلَىٰ زُمْرَةٍ وَجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسِبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَانِ حَمِيمٍ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ كَذَلِكَ۔

(مسلم شریف ۱/۱۰۷)

پھر اہل ایمان نجات پائیں گے، پس ان میں سے پہلی کھیپ اس شان سے گزرے گی کہ ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کے مانند چمک دار ہوں گے، یہ ستر ہزار کی تعداد میں ہوں گے جن کا حساب کتاب کچھ نہ ہوگا، پھر ان کے بعد اس طرح چمک دار چہرے والے ہوں گے جیسے آسمان میں چمکنے والا سب سے روشن ستارہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح درجہ بدرجہ۔

ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال لے کر دنیا سے جائیں کہ پہل صراط سے گزرتے وقت ہم سر اپا روشنی میں ہوں، اور ہمارے بدن کے ہر ہر جز سے نور افشانی ہو رہی ہو۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

## تیسری فصل

## جنت کی طرف روانگی اور معاملات کی صفائی

پہلے صراط سے بحفاظت پار ہونے کے بعد جنتیوں کے جتنے جنت کی طرف چلیں گے تو جنت کے دروازے تک پہنچنے سے قبل ان سب کو ایک خاص نہر کے پل پر روک لیا جائے گا، اور ان کے درمیان اگر حق تلفی وغیرہ یا کینہ کپٹ کی کوئی بات ہوگی تو جنت میں داخلہ سے قبل وہیں معافی طلبانی کر کے انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَحَرَّىٰ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ (الاعراف)

اور کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفصیل اس طرح بیان فرمائی:

يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيَحْبَسُونَ عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْحَنَةِ وَالنَّارِ فَيَقْصُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِهِمْ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّىٰ إِذَا هَدُّبُوا وَنُقُوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْحَنَةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا حَلَّهْمُ أَهْلَىٰ بِمَنْزِلِهِ فِي الْحَنَةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا۔ (بعماری شریف ۲/۹۶۷: رقم: ۲۵۳۵)

اہل ایمان جہنم سے نجات پا جانے کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے، پھر ان سے آپس میں دنیا میں جو حق تلفیاں ہوئی ہوں گی ان کی معافی طلبانی کی جائے گی تا آنکہ جب انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا تو انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت ملے گی، اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے جنتیوں میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کے بارے میں دنیا کے گھر سے زیادہ پہچان اور معرفت رکھتا ہے۔

## جنت کا دروازہ کھلوانے کے لئے آنحضرت ﷺ کی سفارش

جب اہل جنت، جنت کے قریب پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ بند پائیں گے، جنت میں جانے کا اشتیاق بہت زیادہ ہوگا اس لئے جلد از جلد جنت میں داخلہ کے لئے حضرات انبیاء علیہم السلام سے سفارش کی درخواست کریں گے، بالآخر سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ ﷺ بارگاہ رب العالمین میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اپنی امت کے جنت میں داخلہ کی سفارش پیش فرمائیں گے، ارشاد نبوی ہے:

فَاتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَاقْعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النِّسَاءِ عَلَيْهِ شَيْفًا لَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تَعْطَهُ، اِسْفَعُ تَشْفَعُ، فَارْفَعْ رَأْسِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ اُمَّتِي اُمَّتِي فَيَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَدْخِلِ الْخَنَةَ مِنْ اُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْاَيْمَنِ مِنْ اَبْوَابِ الْخَنَةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فَيَمَّا سَوَى ذَلِكَ مِنَ الْاَبْوَابِ - (مسلم شریف ۱۱۱/۱)

پس میں عرش کے نیچے آ کر اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ میرے سینہ کو کھول دے گا اور میرے دل میں اپنی حمد و ثنا اور بہترین تعریف کے وہ کلمات القاء فرمائے گا جو مجھ سے قبل کسی کے لئے القاء نہ کئے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد! آپ اپنی امت میں سے ان لوگوں پر جن پر حساب کتاب نہیں، انہیں جنت کے داہنے دروازے میں سے داخل فرما دیجئے اور یہ لوگ دیگر دروازوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شرکت کا حق بھی رکھتے ہیں (یعنی انہیں یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں)

اور ایک روایت میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اِنِّي بَابِ الْخَنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ اَنْتَ؟ فَاَقُولُ: مُحَمَّدًا فَيَقُولُ بِكَ اَمْرٌ لَا اَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ - (مسلم شریف ۱۱۲/۱)

میں قیامت میں جنت کے دروازے پر جا کر اسے کھلوانے کی کوشش کروں گا تو

﴿ اللہ سے شکر کہجئے ﴾

جنت کا خازن پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا کہ محمد! (ﷺ) تو وہ جواب دے گا کہ آپ ہی کے متعلق مجھے حکم ہوا ہے، آپ سے قبل میں کسی کے لئے دروازہ نہیں کھولوں گا۔

جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے خوش

نصیبوں کا حال

صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ستر ہزار یا سات لاکھ خوش نصیب افراد بہ یک وقت پہلے مرحلہ میں جنت میں داخلہ سے مشرف ہوں گے۔ (مسلم شریف ۱۱۶۱)

اور ترمذی کی ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ ان ستر ہزار میں ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شان کے مطابق مٹھی بھر افراد بھی بلا حساب کتاب داخل ہونے والے ہوں گے۔

(العذکرہ ۳۳۳/۵، مطبع الباری ۵۰۱/۱۴)

اور ایک روایت میں یہ تفصیل ہے کہ اولاً آپ ﷺ کو ستر ہزار کے عدد سے خوشخبری سنائی گئی، جس پر آپ نے اضافہ کی درخواست فرمائی تو آپ کو مژدہ سنایا گیا کہ ستر ہزار میں ہر فرد کے ساتھ ستر ہزار فرد اس جتھہ میں شامل ہوں گے۔ (نوادر الوصول، التذکرہ ۴۳۳) اس اعتبار سے ان خوش نصیبوں کی تعداد ۴۹ کروڑ تک پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک جماعت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔

جب آنحضرت ﷺ نے ان باسعادت حضرات کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ میں اس بات پر بحث شروع ہو گئی کہ یہ خوش نصیب افراد کس طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے؟ چنانچہ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ مقام تو بس انبیاء علیہم السلام کو مل سکتا ہے، بعض نے رائے دی کہ اس میں وہ لوگ ہی شامل ہوں گے جو ابتداء ہی سے اسلام میں شامل رہے ہیں، اور جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کیا ہے، نیز بعض دیگر رائیں بھی سامنے

آئیں نبی اکرم ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کس بارے میں بحث کی جا رہی ہے؟ صحابہ نے سب رائیں بیان فرمادیں تو آپ نے فرمایا:

هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ (مسلم حریف ۱/۱۱۷)

وہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو نہ تو جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کراتے ہیں اور نہ (بدقالی) کے لئے پرندوں کو اڑاتے ہیں اور اپنے رب پر کامل توکل کرتے ہیں۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے داخلہ کا شرف حاصل کرنے والے افراد وہ ہوں گے، جو اپنے کمال توکل کی بنا پر دنیوی اسباب کو خاطر میں نہ لاتے ہوں گے، اور ہر اس بات سے بچتے ہوں گے جس میں شرک کا ادنیٰ شائبہ بھی پایا جائے، مثلاً آیات قرآنیہ اور کلمات صحیحہ پر مبنی تعویذ اور جھاڑ پھونک اگرچہ درست ہے مگر اس میں عوام و خاص کے عقیدے بگڑنے کا امکان زیادہ رہتا ہے اس لئے وہ لوگ اس طرح کے اسباب کو اختیار کرنے میں احتیاط سے کام لیتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ (مستدرج الباری ۳/۳۹۸)

یہاں یہ واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی دنیا کے اسباب کو ترک کر کے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نتیجہ کی امید رکھے، بلکہ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اسباب دنیوی ظاہری اختیار کر کے کامیابی کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھی جائے مثلاً کھیت میں محنت کر کے بیج ڈال دے پھر پیداوار کی امید اللہ سے رکھے، اسی طرح دکان میں سامان رکھ کر بیٹھے پھر نفع کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھے، چنانچہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی صفت یہی رہی ہے حالانکہ ان سے بڑا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، انہوں نے مال حاصل کرنے کے اسباب اختیار فرمائے اسی طرح دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے فوج اور ہتھیار استعمال فرمائے اور پھر کامیابی اور ناکامی کے متعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فیصلہ پر بھروسہ فرمایا، یہی اصل میں توکل کی حقیقت

ہے۔ (بخاری ۵۰۰/۱۳)

اور حدیث بالا میں جن اسباب کے ترک کی ترغیب وارد ہے، وہ صرف ایسے اسباب ہیں جنہیں اختیار کرنے میں شرک کا شائبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اور یہ بھی کامل درجہ ہے جو شخص اس درجہ پر نہ ہو اسے بھی غیر متوکل نہیں کہا جاسکتا۔

## جنت میں اہل جنت کے داخلہ کا شاندار منظر

جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور اعمال صالحہ کی مناسبت سے لوگ ان دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے، ایک دروازہ ”ریان“ کے نام سے ہوگا جس سے روزہ داروں کو داخلہ کی دعوت دی جائے گی اسی طرح دیگر اعمال کرنے والوں کا حال ہوگا، بعض خوش نصیب اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے، جیسے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا نام ہر دروازے سے پکارا جائے گا یعنی ہر دروازہ متمنی ہوگا کہ اس کی طرف سے سیدنا حضرت صدیق اکبر جنت کا شرف حاصل کریں، الغرض عجیب فرحت و سرور اور جوش اور جذبات کا منظر ہوگا، اہل جنت چمکتے دکتے چہروں اور خوشی اور مسرت سے معمور دلوں کے جتھے کے جتھے بنا کر جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، جنت کے تمام دروازے پوری طرح کھلے ہوں گے اور پہرے دار فرشتے آنے والوں کا پرتپاک استقبال، کر رہے ہوں گے اور ہر طرف سے مبارکبادیوں کی آوازیں گونج رہی ہوں گی، اور ادھر سب اہل جنت اپنے محبوب پروردگار کی حمد و ثنا اور شکر کی ادائیگی میں مشغول ہوں گے، الغرض ایسا بلاشت انگیز، فرحت آمیز اور مسرت آگیز ماحول ہوگا، جس کو بیان کرنے سے الفاظ قاصر اور زبانیں عاجز ہیں، اور جس کے تصور ہی سے، دل کے جذبات کھل اٹھتے ہیں اور اس سعادت کے حصول کا شوق چمکیاں لینے لگتا ہے رحمت خداوندی سے کیا بعید ہے کہ وہ اس شوق کو محض اپنی رحمت سے حقیقت بنا دے، انشاء اللہ، اسی خوش نما منظر کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ

﴿ اللہ سے شکر کیجئے ﴾ ﴿ ۳۹۳ ﴾

أَبَوَائِهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ  
الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔

(سورۃ الزمر ۴۳۔۴۴)

اور لے جائے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے جنت کی طرف  
گروہ درگروہ، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پر اور کھولے جائیں اس کے دروازے اور  
کہنے لگیں ان کو اس کے پہرے دار سلام پہنچے تم پر، تم لوگ پاکیزہ ہو، سو داخل ہو جاؤ اس میں  
سدا رہنے کو، اور بولیں گے شکر اللہ کا جس نے سچا کیا ہم سے اپنا وعدہ، اور وارث کیا ہم کو اس  
زمین کا، مگر بتائیں بہشت میں جہاں چاہیں، سو کیا خوب بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا۔  
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ایسے خوش نصیب بندوں میں شامل  
فرمائے، آمین۔

## جنت کی وسعت

جنت کی وسعت میں دنیا کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، قرآن کریم میں ہمارے  
تصور کا خیال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا:  
وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ  
لِلْمُتَّقِينَ۔ (آل عمران)

اور دوڑو مغفرت کی طرف جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور جنت کی  
طرف جس کی وسعت ایسی ہے جیسے آسمان اور زمین اور وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے  
والوں کے لئے۔

اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے  
آخری شخص کو دنیا کے دس گنے کے بقدر وسعت والی جنت عطا فرمائی جائے گی (مسلم  
شریف ۱۰۱۱) تو جب ادنیٰ درجہ جنتی کے حصہ میں اتنی وسیع جنت آئے گی تو اعلیٰ درجات والوں کا  
کیا حال ہوگا؟ اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔



## قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کا مختصر حال

جنت میں کیا کیا نعمتیں کس انداز کی ہوں گی اس کا تصور کرنے سے ہماری عقلیں عاجز ہیں، وہاں کی نعمتیں ایسی ہوں گی جو کسی کی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں اور کسی کے دل میں ان کا خواب و خیال بھی نہیں گزرا، آج جو ہمیں ان نعمتوں کے متعلق قرآن و حدیث میں بتایا جا رہا ہے یہ درحقیقت شوق دلانے کا ذریعہ ہے ان بشارت آمیز حالات کو سن کر ہمارے دل میں جو تصورات پیدا ہوتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں ہمارے ان محدود تصورات سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں، اور ان کا اصل علم انشاء اللہ انہیں دیکھ کر ہی ہوگا۔

قرآن کریم میں اہل جنت سے وعدہ کرتے ہوئے فرمایا گیا:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

(الم سجدة)

سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ

غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔

اور ایک جگہ ارشاد عالی ہے:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، نَزْلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔

(طہ السجدة ۲۲/۳۱)

اور تمہارے لئے وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا، اور تمہارے لئے وہاں ہے جو کچھ

مانگو، مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔

علاوہ ازیں قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کا الگ الگ اجمالی تذکرہ بھی کیا گیا

ہے، مثلاً بتایا گیا کہ:

☆ جنت میں ایسے باغ ہوں گے جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ (البقرہ ۲۵۵ و غیرہ)

☆ جنت کے پھل ایسے ہوں گے کہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے مگر ہر پھل کے ذائقہ

میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ (البقرہ آیت: ۲۵) اور انواع بھی الگ الگ ہوں گی،

﴿ اللہ سے شرم کھینچنے ﴾ ﴿ ۳۹۶ ﴾

اتار، کیلے، کھجور، انگور، انغرض ہر طرح کے پھل میسر ہوں گے۔

- ☆ جنت کی حدیں اور اہل جنت کی بیویاں نہایت خوبصورت، ہم عمر، ہر میلی، صاف ستھری، پاکیزہ اور پھر پورے جوانی والی ہوں گی۔ (بخاری ۲۵۵، آل عمران ۱۵، الصفت ۳۸، الرحمن)
- ☆ جنت کے مکانات و محلات نہایت ستھرے اور بارونق ہوں گے۔

(الغوبۃ ۷۲، الصف ۱۲)

- ☆ جنتی لوگ موتی اور سونے کے شاندار کنگن پہنے ہوئے ہوں گے (تاکہ اصل دولت مندی کا اظہار ہو سکے)۔ (الکھف ۳۱، الحج ۲۳، طہ ۳۳)
- ☆ جنت میں نہایت لذیذ سفید رنگ کی عمدہ شراب ملے گی جس کو پی کر نہ چکر آئیں گے نہ دماغ ماؤف ہوگا۔ (الصفت ۴۵، ۴۷)

- ☆ جنت میں خوبصورت لڑکے اہل جنت کی خاطر تواضع کے لئے سونے چاندی کی رکابیاں اور بجالے ادھر ادھر لے جاتے پھریں گے۔ (الزمر ۷۱)
- ☆ جنت میں پانی کی عمدہ نہریں ہیں جن کے پانی میں کسی قسم کی بو وغیرہ نہیں ہے۔ (محمد ۱۵)

- ☆ اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ بالکل اصلی حالت میں رہتا ہے، دنیا کہ دودھ کی طرح (وقت گزرنے سے) تبدیل نہیں ہوتا (محمد ۱۵)
- ☆ اور شہد کی ایسی نہریں ہیں جن کا جھاگ صاف کر کے اتارا جا چکا ہے یعنی بالکل تھرا ہوا شہد ہے۔ (محمد ۱۵)

- ☆ جنت میں حسب دلخواہ پرندوں کا گوشت میسر ہے۔ (الواقعة ۲۱)
- ☆ جنت میں جا بجا ترتیب کے ساتھ غالیچے اور مٹیل کے فرش بچھے ہوئے ہیں۔

(الغاشیة ۱۳، ۱۵)



## احادیث طیبہ میں جنت کا بیان

احادیث شریفہ میں بھی بہت وضاحت کے ساتھ جنت کی لازوال نعمتوں کا مبارک تذکرہ فرمایا گیا ہے جن کے مطالعہ سے طبعی طور پر دل میں ان عظیم نعمتوں کا مستحق بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، ایسی چند احادیث کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

☆ جنت کی خوشبو ۵۰۰ سال کی مسافت سے آنے لگتی ہے۔ (صحیح ابن حبان ۲۳۹۱/۲، الترغیب ۲۴۰/۳)

☆ جنت کے سو درجہ ہیں اور ہر ایک دوسرے درجہ کے درمیان زمین و آسمان کے بقدر مسافت ہے۔ (بخاری شریف ۳۹۱۱/۱، الترغیب ۲۸۱/۴)

☆ جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے اور ایک چاندی کی لگی ہے، اور ان کی سینٹ مشک ہے، اور ان کی کنکریوں کی جگہ ہیرے جوہرات ہیں اور مٹی زعفران کی ہے جو ان میں داخل ہو جائے گا وہ کبھی پریشان نہ ہوگا ہمیشہ حرے میں رہے گا، اور کبھی وہاں کسی کو موت نہ آئے گی، نہ کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ کبھی جوانی ختم ہوگی۔ (مسند احمد ۳۰۵/۲، الترغیب ۲۸۱/۳)

☆ ایک جنتی کو ایسا خیمہ عطا ہوگا جو صرف ایک خول دار موتی سے بنا ہوگا جس کی لبائی اور چوڑائی ساٹھ میل کے بقدر ہوگی، اور اس مومن کے متحد گھر والے اس میں مقیم ہوں گے، اس خیمے کی وسعت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے۔ (بخاری ۲۳۱۲/۲، بومسلم ۳۸۰/۲، الترغیب ۲۸۳/۳)

☆ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ”کوثر“ ہے، اس نہر کے کنارے سونے کے ہیں، اور اس کی نالیوں میں ہیرے جوہرات بچھے ہوئے ہیں، اور اس کی مٹی مشک سے زیادہ معطر اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور اولے سے زیادہ سفید ہے۔ (ترمذی شریف ۱۷۴/۲، الترغیب ۲۸۰/۴)

- ☆ جنت کی عورتوں اور حوروں کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی عورت دنیا میں جھانک بھی لے تو پوری زمین اس کی بے مثال خوشبو سے معطر اور اس کی روشنی اور چمک دمک سے منور ہو جائے اور اس عورت کی اوڑھنی کی قیمت تمام جہان کی دولتوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ (بھاری شریف ۳۹۲/۱، الترغیب ۲۹۵/۳)
- ☆ جنت کی حوریں بیک وقت ستر بیش قیمت جوڑے پہنیں گی اور ان جوڑوں کے پہننے کے باوجود ان کی پنڈلیوں کی چمک دمک حتیٰ کہ ان کی ہڈیوں کا گودا اوپر سے صاف جھلکتا ہوگا جو ان کے نہایت حسن و جمال اور لطافت کی علامت ہوگا۔ (ترغیب ۲۹۷/۴)
- ☆ جنت کی حوریں اپنے شوہروں کو نہایت شاندار انداز میں مسحور کن آواز میں گانے سنائیں گی اور حمد و ثنا اور شکر کے اشعار اپنی خوبصورت آواز میں پڑھا کریں گی۔ (الترغیب ۳۰۰/۳)
- ☆ جنت میں ایک عظیم بازار ہوگا جہاں جنتی ہر ہفتہ جایا کریں گے، وہاں شمال کی طرف سے ایسی ہوائیں چلتی ہوں گی جن کی وجہ سے ان جنتیوں کے حسن و جمال میں بے حد اضافہ ہو جائے گا، چنانچہ جب وہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ آپ کے بازار جانے سے آپ کے حسن و جمال میں واقعی اضافہ ہو گیا ہے، یہ سن کر وہ جنتی اپنی بیویوں کے بارے میں بھی یہی جملہ کہیں گے۔ (مسلم ۳۷۱۲، الترغیب ۲۰/۳)
- ☆ جنت میں ہر شخص کو سومردوں کے برابر کھانے پینے اور جماع کی طاقت عطا ہو گی، اور سب کی عمریں ۳۳ سال کے جوان کے بقدر ہمیشہ رہیں گی، (کتاب العاقبۃ ۲۸۲، ۲۸۳)
- ☆ کم سے کم تہ درجہ کے جنتی کو جنت میں اتنی ہزار خدام اور بہتر بیویاں عطا ہوں گی۔ (کتاب العاقبۃ ۲۸۳)
- اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لازوال نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔



## چوتھی فصل

### قرآن کریم میں جہنم کا ذکر

اس کے بالمقابل کفار اور بد عمل لوگوں کو سزا دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے جس کی سزائیں اور ہولناکیاں ناقابل بیان ہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ جہنم کی سختیوں کو ذکر کر کے اس سے ڈرایا گیا ہے، اس سلسلے کی بعض آیات کا خلاصہ ذیل میں درج ہے:

☆ جہنم کی آگ کو دھکانے کے لئے ایندھن کے طور پر انسان اور پتھر استعمال ہوں گے۔ (البقرہ: ۲۴، النحریم: ۶)

☆ کافروں کی کھال جب جہنم کی آگ سے جل جائے گی تو فوراً دوسری نئی کھال ان پر چڑھا دی جائے گی (تاکہ برابر شدید تکلیف کا احساس ہوتا رہے)۔ (النساء: ۵۶)

☆ آگ ہی جہنمیوں کا اوڑھنا بچھونا ہوگی۔ (الاعراف: ۴۱)

☆ جہنمیوں کو (پانی کے بجائے سزا ہوا) پیپ پلایا جائے گا، جسے انہیں زبردستی پینا پڑے گا۔ (ابراہیم: ۱۶-۱۷)

☆ جہنمیوں کا لباس گندھک کا ہوگا (جس میں آگ جلدی لگتی ہے)۔ (ابراہیم: ۵۰)

☆ جہنمیوں کی (شدت عذاب سے) ایسی دہاڑ اور چیخ و پکار ہوگی کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ (ہود: ۱۰۶، البہاء: ۱۰۰)

☆ جہنمیوں پر نہایت کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا وہ پانی جب بدن کے اندر پہنچے گا تو پییدہ کی اتھڑی اور جھڑی سب گلا کر نکال دے گا، اور کھال بھی گل پڑے گی اور اوپر سے لوہے کے ہتھوڑے سے پٹائی ہوتی رہے گی، بہت کوشش کریں گے کہ کسی طرح جہنم سے نکل جائیں مگر فرشتے پٹائی کر کے پھر انہیں جہنم میں دھکیلتے رہیں گے۔ (الحج: ۱۹-۲۲)

☆ ہر طرف سے آگ میں جلنے کی وجہ سے جہنمیوں کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔

(المؤمنون: ۱۰۴)

﴿ اللہ سے شروع کیجئے ﴾ ﴿ ۳۰۰ ﴾

☆ جنہیوں کو سینڈھے (زقوم) کا درخت کھلایا جائے گا جو جہنم کی پیداوار ہوگا، جو شیطان نما نہایت بد صورت ہوگا جسے دیکھ کر بھی کراہت آئے گی اسی سے وہ پیٹ بھریں گے، اور اوپر سے جب پیاس لگے گی تو سخت ترین کھولتا ہوا پانی اور پیپ پلایا جائے گا۔ (الصفۃ ۶۲-۶۴ صفحہ ۵۷، الدعان ۳۳-۳۷)

☆ جنہیوں کی گردن میں طوق پڑے ہوں گے اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی اور (بجروں کی طرح) انہیں گھسیٹ کر کھولتے پانی میں ڈال دیا جائے گا پھر کبھی آگ میں دھونکایا جائے۔ (طہر ۷۱-۷۲) کافروں کو ستر گز لمبی زنجیریں وں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ (العاقۃ ۳۰)

☆ جہنم کے پہرے پر نہایت زبردست قوت والے اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے (یعنی نہ وہ جہنمی پر رحم کھائیں گے اور نہ ہی انہیں چمکے دے کر کوئی جہنمی نکل سکے گا)۔ (العصرم آیت: ۶)

## احادیث شریف میں جہنم کی ہولناکیوں کا بیان

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں نہایت تفصیل اور وضاحت کی۔ تاکہ ساتھ جہنم اور اس کے ہولناک عذابوں سے امت کو متنبہ فرمایا ہے، چند احادیث کا خلاصہ ذیل میں درج ہے:

☆ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں ۶۹ گنا زیادہ جلاانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ (مسلم/۲۸۱)

☆ جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال تک دہکایا گیا جس کی وجہ سے وہ سرخ ہوگئی، پھر ایک ہزار سال تک دہکایا گیا جس کی بنا پر وہ جلتے جلتے سفید ہوگئی، اس کے بعد پھر ایک ہزار سال دہکایا گیا تو وہ سیاہ ہوگئی، چنانچہ اب وہ نہایت اندھیری اور سیاہی کے ساتھ دہک رہی ہے۔ (ترمذی/۸۶)

☆ جنہیوں کی غذا "زقوم" (سینڈھا) اتنی بدبودار ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا

﴿ اللہ سے شرم کیجئے ﴾

میں اتار دیا جائے تو تمام دنیا والوں کا بدبو کی وجہ سے یہاں رہنا دو بھر ہو جائے، تو اندازہ لگائیے کہ جس کی غذا ہی یہ ہوگی اس کا کیا حال ہوگا۔ (ہرمذی شریف ۲/۸۶،

ابن حبان ۲۷۸/۹)

☆ جنہیوں کو پلایا جانے والا ”عساق“ (زخموں کا دھوون) اتنا سخت بدبو دار ہے کہ اس کا اگر صرف ایک ڈول بھی دنیا میں ڈال دیا جائے تو ہماری دنیا اس کی بدبو سے سڑ جائے گی۔ (ترمذی ۲/۸۶)

☆ جنہیوں کو پلایا جانے والا پانی اس قدر سخت گرم ہوگا کہ اس کو منہ سے قریب کرتے ہی چہرہ بالکل جھلس جائے گا حتیٰ کہ گرمی کی شدت سے اس کے سر کی کھال تک پھسل جائے گی، پھر جب وہ جنہی اس بدبو دار اور گرم ترین پانی بادل ناخواستہ پئے گا تو وہ اس کی سب انتزیاں کاٹ کر پیچھے کے راستے باہر نکال دے گا۔ اعاذنا اللہ منہ۔ (ترمذی شریف ۲/۸۵)

☆ جہنم کی لپٹوں سے جنہی کا چہرہ اس طرح جھلس جائے گا کہ اوپر کا ہونٹ آدھے سر تک سمٹ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ اس کی ناف تک سکر جائے گا۔ اللهم احفظنا منہ۔ (ترمذی شریف ۲/۱۵۱)

☆ کافر جنہی کی داڑھ اُحد کے پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی ۳ دن کے مسافت کے بقدر ہو جائے گی (تاکہ بدن بڑا ہونے سے تکلیف میں مزید اضافہ ہو سکے)۔ (مسلم شریف ۲/۳۸۲)

☆ ایک روایت میں ہے کہ کافر کی کھال کی موٹائی ۳۲ ہاتھ کی ہوگی، اور داڑھ اُحد کے پہاڑ کے برابر ہوگی، اور ایک کافر کے بیٹھنے کی جگہ اتنی وسیع ہوگی جیسے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی مسافت ہے (تقریباً ۳۵۰ کلومیٹر) (ترمذی شریف ۲/۸۵)

☆ کافر کی زبان جہنم میں ایک فرخ اور دوفرخ کے بقدر باہر نکال دی جائے گی حتیٰ کہ دیگر جنہی اس پر چلا کریں گے۔ (ترمذی شریف ۲/۸۵)

☆ جنہم کے اڑوے اُونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہوں گے اور اتنے سخت زہریلے ہوں گے کہ ڈسنے کے بعد ان کے زہر کی ٹیسیں ستر (۷۰) سال تک اُٹھتی رہیں گی، اور جنہم کے بچھو نچروں کے برابر ہوں گے، جن کے ڈسنے کی ٹیس چالیس (۴۰) سال تک محسوس ہوگی۔ (مسند احمد ۱۹۱/۴، الترفیب والترہیب ۱۵۸/۴)

☆ جنہمیوں پر رونے کی حالت طاری کر دی جائے گی پس روتے روتے ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے تو پھر وہ خون کے آنسو اس قدر روئیں گے کہ ان کے چہروں میں (اتنے بڑے بڑے) گڈھے ہو جائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھیغ چلنے لگیں۔ (سنن ابن ماجہ کتاب التہذیب ۳۸ حدیث ۳۳۳۳ ص ۹۸۳، الترفیب والترہیب ۲۷۰/۴)

☆ جنہم میں سب سے کم تر عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کے جوتے میں جہنم کے انکارے رکھ دیئے جائیں گے جن کی گرمی سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے دیکھی میں آگ پر پانی کھولتا ہے، اور وہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ سخت عذاب میں کوئی نہیں ہے حالانکہ وہ سب سے کم تر عذاب والا ہوگا۔ (بخاری ۹۷۱/۲، الترفیب والترہیب ۲۶۶/۴)

☆ جنہم میں داخلہ کے بعد سب سے پہلے جنہمیوں کو زہریلے سانپوں کے زہر پر مشتمل ایک مشروب پینے کو ملے گا، جس کے زہر کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس کو منہ سے قریب کرتے ہی اس کا گوشت اور ہڈیاں تتر ہو جائیں گی۔ (معنف ابن ابی شیبہ ۷۲)

اس لیے ہمیں اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس کی فکر و ذمہ چاہیے کہ ہم اپنی بد عملی کی وجہ سے خدا نخواستہ مستحق عذاب نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پوری امت کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔





## پانچویں فصل

### بد عمل اہل ایمان کو جہنم سے نکالنے کے لیے

### آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش

ایک عرصہ کے بعد جب کہ وہ اہل ایمان جنہوں نے بد عملیاں کر رکھی ہوں گی جہنم میں جا کر اپنی مقررہ سزا بھگت چکے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین اپنی عظیم الشان رحمت کا اظہار فرماتے ہوئے ان مؤمنین کی جہنم سے رہائی کی کاروائی کی شروعات فرمائے گا، سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ صمدیت میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور ایک زمانہ تک سجدہ میں رہ کر حمد و ثنا میں مشغول رہیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے محمد (ﷺ) سر اٹھائیے، ارشاد فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی اور سفارش فرمائیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کی شفاعت فرمانے کے لیے درخواست کریں گے کہ یا رب امتی امتی! (اے رب! میری امت، میری امت) تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جائیے! جس شخص کے دل میں ایک گہوے یا جو کے برابر بھی ایمان ہو، اسے جہنم سے نکال لیجئے، چنانچہ آپ تشریف لا کر ایسے اہل ایمان کو نکال دیں گے، پھر واپس جا کر بارگاہِ ایزدی میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اجازت ملنے پر پھر سفارش فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جائیے! جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لیجئے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر ایسے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے، اس کے بعد پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دربارِ خداوندی میں مزید سفارش کریں گے، تو ارشاد ہوگا کہ جائیے جس شخص کے دل میں رائی کے دانے سے بھی تین گنا کم ایمان ہو اسے جہنم سے نکال دیجئے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کم

ترین حد کے اہل ایمان کو بھی جہنم سے نکال لیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اللہ العالمین! مجھے ایسے لوگوں کو بھی نکالنے کا حکم فرمائیے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَايَ وَعَظْمَتِي وَجِبْرِيَايَ لِأَخْرَجَنَّ  
مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ (مسلم شریف عن انس ۱۱۰/۱)

اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے، لیکن میری عزت، میری کبریائی، میری عظمت کی قسم میں ضرور بالضرور اس شخص کو جہنم سے خود نکالوں گا جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا (یعنی دل سے مؤمن ہوگا)

ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کو دنیا میں ایک ایسی دُعاء کا اختیار دیا گیا ہے جس کی قبولیت کا پختہ وعدہ تھا، تمام انبیاء علیہم السلام نے اس دُعاء کا استعمال دنیا ہی میں کر لیا مگر میں نے اپنی دُعا آخرت میں اپنی امت کی شفاعت اور سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ (مسلم شریف ۱۱۲/۱-۱۱۳)

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہوئے غور کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی امت کے گنہگاروں کے بارے میں یہ فرمایا:

رَبِّ انَّهُمْ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ مَعَمَّنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، وَمَنْ عَصَانِي  
فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ (ابراہیم ۳۶)

ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا پس جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ میرا ہے، اور جو شخص میرا کہنا نہ مانے تو آپ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں اس طرح التجا فرمائی:

إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ۔ (المائدة: ۱۱۸)

اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں

تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔

مذکورہ آیت پڑھ کر آپ کو اپنی امت کا خیال آ گیا، اور بے اختیار روتے ہوئے  
 اللَّهُمَّ اُمَّتِي اُمَّتِي (اے اللہ! میری امت کا کیا ہوگا؟) کہہ کر بارگاہ ایزدی میں ہاتھ  
 اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)  
 سے پوچھ کر آؤ کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے تشریف لا کر آپ  
 سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتلا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت  
 جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ آپ کو یہ تسلی آمیز پیغام بھیج کر سرور فرمایا کہ:

اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِيْ اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُ لَكَ۔ (مسلم شریف ۱۱۳/۱)

(پیارے محمد ﷺ!) ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے،

اور آپ گونا گوار نہ رہنے دیں گے۔

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو  
 اپنی امت سے کس قدر تعلق اور محبت ہے کہ آپ کو امت کے ایک فرد کا بھی جہنم میں رہنا قطعاً  
 گوارا نہیں ہے۔

## جنتیوں کی اپنے بد عمل بھائیوں کے لیے سفارش

جنتی لوگ اپنے بد عمل مومن بھائیوں کے حق میں بھی بارگاہ خداوندی میں انتہائی  
 اصرار و الحاح کے ساتھ سفارش کریں گے اور کہیں گے کہ کچھ لوگ دنیا میں ہمارے ساتھ نماز  
 پڑھتے، روزے رکھتے اور حج کرتے تھے اب وہ یہاں جنت میں نظر نہیں آ رہے، ان کو جہنم  
 سے نکالنے کا فیصلہ فرمایا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کی سفارش قبول فرمائے گا اور حکم  
 دے گا کہ جن جن لوگوں کو تم جانتے پہچانتے ہو انہیں وہاں سے نکال لاؤ، یہ حضرات جہنم میں  
 جا کر اپنی جان پہچان کے سب لوگوں کو جہنم سے نکال لائیں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان  
 بد عمل لوگوں کی صورتیں آگ سے محفوظ فرمادے گا تا کہ انہیں پہچاننے میں دشواری نہ ہو، اس  
 کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جس کے پاس ایک دینار کے بقدر بھی ایمانی عمل ہو اسے

نکال لاؤ وہ انہیں بھی نکال لائیں گے، پھر ان کے لیے آدھے دینار اور آخر میں ایک رائی کے دانہ کے بقدر ایمانی عمل کی حد متعین کی جائے گی اور ایسے سب بد عملوں کو جہنم سے خلاصی نصیب ہو جائے گی۔ (مسلم شریف ۱۰۳/۱)

## اللہ تعالیٰ کے خصوصی آزاد کردہ لوگ

اس کے بعد اللہ ارحم الراحمین ارشاد فرمائے گا:

شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَتِ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ

الرَّاحِمِينَ۔

فرشتے، انبیاء، اور اہل ایمان سب سفارش کر چکے، اب رب کریم ارحم الراحمین

کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا۔

اور پھر اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کر (جس کی وسعت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں)

ایسے جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا جن کے پاس ایمان قلبی کے علاوہ کوئی بھی ظاہری عمل

(نماز، روزہ، تسبیح وغیرہ) نہ ہوگا، یہ لوگ جل بھن کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان سب کو جنت

کے دروازے پر واقع ”نہر حیات“ میں غوطہ لگایا جائے گا جس کے اثر سے یہ سب تروتازہ

ہو کر نکلیں گے اور ان کی گردنوں میں خاص قسم کے چھلے ڈال جائیں گے جنہیں دیکھ کر اہل

جنت انہیں پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ جنتی ہیں جو بغیر کسی ظاہری عمل کے صرف

دل میں ایمان کی بدولت جنت میں آئے ہیں، بہر حال اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے

فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور تاجہ نظر جو کچھ تمہاری نظروں میں سمائے، وہ

سب تمہارا ہے تو وہ بول اٹھیں گے کہ اللہ العالین! آپ نے تو ہمیں اس قدر نوازا ہے کہ

شاید کائنات میں کسی کو اس قدر نوازا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ میرے پاس

تمہارے لیے اس سے بھی بڑی فضیلت والی نعمت ہے، وہ حیرت سے پوچھیں گے کہ وہ نعمت

کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ عظیم بشارت سنائے گا کہ:

رَضَائِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا۔ (مسلم شریف ۱۰۳/۱)

(سب سے افضل نعمت) میری خوشنودی ہے، اب میں بھی تم سے ناراض نہ

ہوں گا۔

اللہ اکبر! رحمت خداوندی کی شان کتنی عظیم ہے، اس حدیث سے دولت ایمان کی قدر و قیمت اور اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ جو چیز کام آئے گی وہ ایمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ایمان کامل سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

## جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کا حال

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ کی لپٹیں اسے جھلسا رہی ہوں گی بالآخر جب وہ جہنم سے بہ مشکل نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر بے اختیار یہ کہے گا کہ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھے تجھ (جہنم) سے نجات عطا فرمائی اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نعمت بخشی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ پھر اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم آپ مجھے اس درخت کے قریب فرمادیجئے تاکہ میں اس کے سایہ میں بیٹھوں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو تو کچھ اور مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا کہ نہیں پروردگار! اور مزید سوال نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا۔ کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت سے واقف ہے اور اسے اسکے مطلوبہ درخت کے نیچے پہنچا دے گا۔ وہ شخص اس کے قریب جا کر اس کے سایہ میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی پیے گا۔ پھر اس کے لئے ایک دھیرا درخت سامنے لایا جائے گا۔ جو پہلے درخت سے اور اچھا ہوگا۔ تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدمی کیا تو نے کچھ اور سوال نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ اور اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو پھر تو کچھ اور سوال کرے گا؟ چنانچہ پھر وہ شخص سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بے مبری کو جانتے ہوئے چشم پوشی فرما کر اسے اس درخت کے قریب

پہنچا دے گا اور وہ اس کے سایہ اور پانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھر ایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہو گا۔ تو یہ شخص اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا۔ بالآخر جب اسے اس درخت تک پہنچا دیا جائے گا تو اسے وہاں اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی۔ تو وہ درخواست کرے گا اے رب کریم! اب بس مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے دنیا کی دو گنی جنت عطا کر دوں؟ تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کہے گا کہ اے رب کریم! آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق فرماتے ہیں؟ اتنی روایت بیان کر کے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعودؓ نے لگے۔ اور حاضرین سے فرمایا مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ چنانچہ حاضرین نے یہی سوال آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح اس روایت کو بیان کر کے آنحضرت ﷺ نے بھی تبسم فرمایا تھا۔ اور جب صحابہ نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں۔ کیونکہ جب وہ بندہ یہ عرض کرے گا کہ اللہ العالمین آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو رب العالمین فرمائے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں جس بات کو چاہوں اس کو پورا کرنے پر قادر ہوں۔ (مسلم شریف ۱۰۵۱) اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا مطلب اس کا راضی ہونا اور خوش ہونا ہے۔

اور اس روایت کو حضرت ابوسعید خدریؓ نے اس اضافہ کے ساتھ روایت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا، کہ مانگ لے جو مانگنا ہے؟ چنانچہ وہ جو چاہے گا مانگے گا اور اللہ تعالیٰ اسے مزید باتیں یا دولا تار ہے گا تا آنکہ جب اس کی سب آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے تیری آرزوؤں کے ساتھ مزید دس نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ پھر وہ جنت میں جا کر اپنے محل میں داخل ہوگا تو جنت کی حوروں میں سے اس کی دو بیویاں اسے دیکھ کر کہیں گی ”تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں جس نے تم کو ہمارے لئے اور ہم کو تمہارے لئے وجود بخشا، وہ جنتی شخص (ان کی آہں پیار بھری گفتگو اور اللہ کی عظیم نعمتیں دیکھ کر) بول اٹھے گا مجھے جو نعمتیں ملی ہیں وہ کائنات میں کسی اور کو نہ ملی ہوں گی۔ (مسلم شریف ۱۰۶۱)

## جب موت کو بھی موت آجائے گی

اس کے بعد جب سب جنتی جنت میں اور سب جہنمی جہنم میں اپنے اپنے اصل ٹھکانوں تک پہنچ جائیں گے، اور جن کا جہنم سے نکلنا مقدر ہوگا وہ سب نکل کر جنت میں داخل ہو چکیں گے، تو جنت اور جہنم کے بیچ ایک دیوار پر موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور تمام اہل جنت اور اہل جہنم کو جمع کر کے پوچھا جائے گا کہ جانتے ہو یہ مینڈھا کون ہے، سب جواب دیں گے کہ ”یہ موت ہے“ پھر سب کی نظروں کے سامنے اس مینڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ:

بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ حُلُوذًا فَلَا مَوْتَ، وَبِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ حُلُوذًا فَلَا مَوْتَ۔ (بخاری صریف ۶۹۱/۲)

اے جنتیو! اب یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیو! اب تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اب تمہیں موت نہ آئے گی (یعنی اب موت کو خود موت آگئی ہے)

آنحضرت ﷺ نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس دن جنتیوں کو اس قدر خوشی ہوگی کہ اگر شدت مسرت سے کسی کو موت آیا کرتی تو سب جنتی اس خبر کی خوشی میں وفات پا جاتے، جبکہ جہنمیوں کو اس قدر غم ہوگا کہ اگر کسی کو شدت غم سے موت آیا کرتی تو سب جہنمی اس غم میں مر جاتے کہ اب ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، یہاں سے نکلنے کی امید ہی ختم ہوگئی ہے۔ (مسند ترمذی شریف ۱۳۸/۲، الترغیب والترہیب ۳۱۷/۱۲)

بہر حال موت، حشر و نشر اور جنت و جہنم کے یہ ہوش ربا حالات ہماری غفلتوں کو دور کرنے کے لئے کافی ہیں، اور ان حالات کا تذکرہ اور یاد دہانی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کا جذبہ اور اس کا حق ادا کرنے کا داعیہ موجود ہے، اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے حیا و خداوندی کی ایک نشانی ”موت اور اس کے بعد کے حالات یاد رکھنے“ کو بھی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی یاد دہانی کی دولت عطا فرمائے۔ (آمین)

## حرف آخر

# جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے

☆ دنیوی زیب و زینت سے اجتناب

☆ اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت

☆ دنیا کی محبت: ہر برائی کی جڑ

☆ قناعت: دائمی دولت

☆ ہر وقت مستعد رہئے!





## دنیا کی زیب و زینت ترک کرنے کی ہدایت

زیر بحث حدیث کے آخر میں خلاصہ کے طور پر یہ جامع جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ ”مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا“ یعنی جس شخص کو آخرت میں کامل طور پر کامیابی کا امیدوار ہو اسے دنیا کی زیب و زینت سے دل ہٹانا ہوگا، اور پوری توجہ آخرت کی طرف کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باجائید دنیا کی زندگی کی بے قسوتی کو واضح فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ (الاعصاف ۳۲)

اور دنیوی زندگی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو و لعب کے، اور آخرت کا گہر حقوں کے لئے بہتر ہے، کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو۔

ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ (العنکبوت ۶۴)

اور یہ دنیوی زندگی فی نفسہ بجز لہو و لعب کے اور کچھ بھی نہیں، اور اصل زندگی عالم آخرت ہے، اگر ان کو اس کا علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔

اور سورہ حدید میں مزید وضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ ۖ يَنْسُكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ قَتْلَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ۔ (الحلید آیت: ۲۰)

تم خوب جان لو کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیوی حیات محض لہو و لعب اور ایک ظاہری زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک کا دوسرے

سے اپنے کو زیادہ بتلاتا ہے، جیسے بارش برتی ہے کہ اس کی پیداوار کاشت کاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر وہ خشک ہو جاتی ہے سو تو اس کو زبرد دیکھتا ہے پھر وہ چوراچورا ہو جاتی ہے اور آخرت کا حال یہ ہے کہ اس میں (کفار کے لئے) سخت عذاب ہے، اور (اہل ایمان کے لئے) خدا کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیوی زندگی محض دھوکے کا اسباب ہے۔

## دنیوی زیب و زینت کی مثال

قرآن کریم میں کئی جگہ دنیا کی ناپائیداری کو واضح مثالوں کے ذریعہ سمجھایا گیا ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہے:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنهَآ أَمْرًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ (سورہ یونس آیت ۲۴)

دنیا کی زندگی کی وہی مثال ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے، پھر لاملانگلا اس سے زمین کا سبزہ جس کو آدمی اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین بارونق اور حرین ہوگئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ یہ ہمارے ہاتھ لگے گی، کہ اچانک اس پر ہمارا حکم رات یادن کو آپہنچا، پھر کر ڈالا اس کو کاٹ کر ڈھیر، گویا کل یہاں نہ تھی آبادی، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو ان لوگوں کے سامنے جو غور کرتے ہیں۔

یعنی جس طرح زمین سیرابی کے بعد شاداب نظر آتی ہے مگر یہ شادابی اس کی عارضی ہے، اگر کوئی آفت ساد یہ اس پر نازل ہو جائے تو اس کی رونق منٹوں سیکنڈوں میں کافور ہو جاتی ہے، یہی حال دنیا کی زیب و زینت کا ہے کہ وہ محض وقتی ہے چند ہی دنوں میں یہ وقتی بے وقتی میں تبدیل ہو جانے والی ہے۔

نیز سورہ کہف میں ارشاد خداوندی ہے:

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاۤ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَيْبًا تَلَوُّهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝۱۷۱  
وَالْبُنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيْثُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا۔

(الکہف آیت: ۴۵/۴۶)

اور بتلا دیجئے ان کو دینیوی زندگی کی مثال جیسے پانی اتارا ہم نے آسمان سے پھر رلا ملا نکلا اس کی وجہ سے زمین کا سبزہ، پھر کل ہو گیا چورا چورا، ہوا میں اڑتا ہوا، اور اللہ کو ہے ہر چیز پر قدرت، مال اور بیٹے رونق ہیں دنیا کی زندگی میں، اور باقی رہنے والی نیکیوں کا تیرے رب کے یہاں بہتر بدلہ ہے، اور بہتر توقع ہے۔

دنیا کی ہر کھیتی کا انجام یہی ہے کہ اس کے پک جانے کے بعد اسے کاٹ کر نگرے نگرے کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کا ٹکس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے یہی حال اس دنیا اور اس کے مال و متاع اور خزانوں کا ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جب پورے عالم کو تہہ و بالا کر دیا جائے گا اور معمولی چیزوں کا پوپو چھٹائی کیا بڑے بڑے زبردست پہاڑ دھنسی ہوئی روٹی کی طرح اڑے اڑے پھریں گے لہذا ایسی فتا ہو جانے والی چیز میں جی لگانا اور دن و رات بس اسی کی دھن اور فکر میں رہنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔

## اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حیثیت

تمام دنیا اور اس کی نعمتیں اللہ کی نظر میں قطعاً بے وقعت اور بے حیثیت ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں کفار کو پوری فراوانی سے مرحمت فرماتا ہے اور ان کا کفر و شرک ان نعمتوں کے حصول میں مانع نہیں بنتا، آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ حَنَاحَ بَعُوْضَةِ مَاسَقِي كَلْفِرًا مِنْهَا شَرْبَةُ مَآءٍ۔

(ترمذی، حریف ۸/۲)

اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حیثیت ایک چھمکے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس

﴿اللَّهُمَّ سَمِعْتُكَ كَمَا جِئْتَنِي﴾

میں سے کسی کافر کو ایک گھنٹ پانی بھی نصیب نہ فرماتا۔

ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستہ میں سکری کا ایک مرد اور بچہ نظر پڑا تو آپ ﷺ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا خیال ہے اس بچہ کے گھروالوں نے اسے بے حیثیت سمجھ کر یہاں پھینک دیا ہے، صحابہ نے اس کی تائید فرمائی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَكُنِّيَا لَعْنُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا۔ (ترمذی شریف ۵۸/۲)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس بکری کے بچے کے اپنے گھروالوں کی نظر میں ذلیل ہونے سے زیادہ بے حیثیت اور بے وقعت ہے۔

اور ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ بَعْدَ عَالِمٍ أَوْ مُتَعَلِّمٍ۔

(ترمذی شریف ۵۸/۲)

بے شک دنیا خود بھی قابل لعنت ہے، اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ بھی قابل لعنت ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے متعلقہ اعمال کے اور سوائے عالم یا محکم کے۔

یعنی دنیا میں رہ کر اگر انسان اللہ سے غافل اور آخرت سے بے پرواہ ہو جائے تو یہ دنیا کی پوری زندگی اور اس کی ساری نعمتیں انسان کو لعنت کے طوق میں جلا کرنے والی ہیں، لہذا دنیا سے بس اتنا تعلق رہنا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا مقابلہ اس طرح کرو کہ ایک طرف تو محض ایک انگلی میں لگا ہوا پانی کا قطرہ ہو اور دوسری طرف پورا کا پورا سمندر ہو جس کی اتھاہ کا کوئی اندازہ نہیں ہو تو یہ قطرہ پوری دنیا کی زندگی ہے جو نہایت محدود ہے اور یہ سمندر کی مثال پوری آخرت ہے جو لاکھوں سالوں کا زوال ہے۔ (ترمذی شریف ۵۸۲)

اس لئے دنیا میں جتنے دن رہنا ہے اتنی فکر یہاں کے بارے میں کی جائے اور آخرت میں جتنے دن رہنا ہے اتنی فکر وہاں کی کرنی لازم ہے۔

کافروں کی دنیوی شان و شوکت دیکھ کر پریشان نہ ہوں  
عام طور پر دنیا میں کفار کی شان و شوکت، مال و دولت اور ظاہر عیش و آرام دیکھ کر  
لوگ ان کی حرص کرنے میں پڑ جاتے ہیں یا دل تنگ ہو جاتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار  
ہو جاتے ہیں، اور ان کی دوز میں شامل ہونے کے لئے حلال و حرام میں تمیز ختم کر دیتے ہیں  
جیسا کہ آج کل کے نام نہاد دانشوروں کا حال ہے، تو ان کی تنبیہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے  
ارشاد فرمایا:

لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعَ قَلِيلٍ، ثُمَّ مَأْوَاهُمْ  
جَهَنَّمُ يَوْمَئِذٍ الْمُهَادَّةُ۔ (آل عمران ۱۹۶-۱۹۷)

آپ کو دھوکہ نہ دے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ان  
کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

## جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے

دنیا اور اس کی سب چمک دمک محض عارضی ہے، انسان کی زندگی میں اگر کوئی  
نعمت میسر آجائے تو کوئی ضمانت نہیں کہ وہ آخری دم تک باقی بھی رہے، اس لئے کہ دنیا  
تغیر پذیر ہے، مال، صحت، عزت اور عافیت کے اعتبار سے لوگوں کے حالات بدلتے  
رہتے ہیں، لہذا دنیا کی بڑی سے بڑی کبھی جانے والی نعمت بھی ناپائیدار ہے، اور اس سے  
انتفاع کا سلسلہ یقیناً ختم ہو جانے والا ہے، اگر زندگی میں ختم نہ ہو تو مرنے کے بعد یقیناً  
ہو جائے گا، مرنے کے بعد نہ بیوی بیوی رہے گی، نہ مال مال رہے گا نہ جائیداد اور کھیتی  
باڑی ساتھ ہوگی۔ ان سب اشیاء کا ساتھ چھوٹ جائے گا، اس لئے قرآن وحدیث میں  
انسانوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ دنیا کی زیب و زینت کو مقصود نہ بنائیں بلکہ اس کے  
مقابلے میں آخرت کی لازوال نعمتیں حاصل کرنے کی جدوجہد اور فکر کرنی چاہئے، قرآن  
کریم میں ارشاد فرمایا گیا:

اِسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ فَاخْتَرَتْ وَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَاكَلَتْ وَانْ هَذَا الْمَالُ حُلُوَّةٌ، مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ.

(بخاری ص ۲/۹۵۱ مسلم ص ۱/۳۳۶)

خیر سے تو خیر ہی برآمد ہوتی ہے (تاہم) یہ مال دل کش اور بیٹھا اور ذائقہ دار ہے۔ (جیسے) سیخائی کی تالی سے اگنے والا سبزہ (بے حساب کھانے والے جانور کو) ہیضہ کی وجہ سے ہلاک کر دیتا ہے یا ہلاکت کے قریب پہنچا دیتا ہے، سوائے اس جانور کے جو ہریالی گھاس کو کھا کر پیٹ بھرنے کے بعد سورج کی دھوپ میں بیٹھ کر جگالی کرتا ہے اور لید اور پیشاب سے فراغت کے بعد پھر واپس آ کر گھاس چرتا ہے (تو وہ ہیضہ سے محفوظ رہتا ہے اور ہلاک نہیں ہوتا تو اسی طرح) اس مال میں بڑی مٹھاس ہے، جو اس کو صحیح جگہ خرچ کرے تو اس کے لیے یہ بہترین مددگار ہے، اور جو اسے غلط طریقہ پر کھائے تو وہ اس جانور کے مانند ہو کر ہلاک ہوگا جو برابر کھاتا رہتا ہے اور اس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی (بالآخر وہ ہیضہ سے ہلاک ہو جاتا ہے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد سے دنیا میں استعمال کی اصل حد مظلوم ہوگی، کہ دنیا سے صرف بقدر ضرورت اور برائے ضرورت ہی فائدہ اٹھانا مفید ہے، اس میں ایسا استعمال کہ بس آدمی ۹۹ ہی کی گردان میں ہر وقت جتلا رہے اور آخرت کو بالکل فراموش کر بیٹھے یہ انتہائی خطرناک اور وبال جان ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا:

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتَعْفَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَسَعِيَ عَلَىٰ اَهْلِهِ وَتَعَطَّفَا عَلَىٰ حَارِهِ حَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَوَجْهَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا مُفَاجِرًا مُكَايَرًا امْرَاثًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبًا۔ (جمع الایمان ۴/۲۹۸)

جو شخص حلال طریقہ سے، سوال سے بچنے، گھر والوں کی ضروریات پورا کرنے اور اپنے پڑوسیوں پر مہربانی کرنے کی غرض سے دنیا طلب کرے تو وہ قیامت میں اس حال

میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور جو شخص فخر و مباہات، اور ناموری کے لیے دنیا کمائے تو وہ اللہ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوں گے۔

لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم دنیا سے تعلق اس کی حد کے اندر رہ کر رکھیں، اور اس سے تجاوز نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

## دنیا عافیت کی جگہ ہے ہی نہیں

دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مکمل طور پر عافیت میں ہے، کیونکہ یہاں ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے عوارض لگے ہوئے ہیں جو بار بار اس کی عافیت میں خلل ڈالتے رہتے ہیں، اور اس معاملہ میں امیر غریب، چھوٹے بڑے، بادشاہ یا رعایا کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ غور کیا جائے تو دنیا میں جو شخص جتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے یا جتنا بڑا مالدار اور عزت دار ہوتا ہے اتنا ہی اس کے ذہن پر تفکرات اور خطرات کا بوجھ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی جان کے لالے پڑے رہتے ہیں، ہر وقت کماٹوز کے نغمہ میں رہتے ہیں، آزادانہ اپنی مرضی سے کہیں آنا جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ پھر ہر وقت بڑائی جاتے رہنے کے خوف سے ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، پوری پوری رات نرم و نازک گدوں پر کرٹیں بدلتے گزر جاتی ہے۔ اور فرض کیجئے اگر انسان بالکل ہی عافیت سے ہو، مال، دولت، عزت اور ہر لذت کے حصول کا اس کے پاس انتظام ہو پھر بھی وہ پوری طرح عافیت میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھوک کے وقت اسے بھوک سے اور پیاس کے وقت پیاس سے سابقہ پڑے گا اور کھانے پینے کے بعد پھر فضلات کو نکالنے کی فکر ہوگی، اور اس کے تقاضے کے وقت بے چینی برداشت کرنی ہوگی، اور اگر یہ فضلات اندر جا کر رک جائیں تو پھر ان کو نکالنے کے لیے کیا کیا تدبیریں کرنی پڑیں گی، الغرض سب کچھ ہونے کے باوجود ان فطری عوارض سے انسان مرتے دم تک نجات نہیں پاسکتا۔

اس کے برخلاف جنت اصل میں عافیت کی جگہ ہے جہاں ہر طرح کی من چاہی نعمتیں میسر ہوں گی اور کھانے پینے کے بعد ایک ہی خوشبودار ڈکار سے سارا کھایا پیا ہضم ہو جائے گا نہ بے چینی ہوگی نہ تکلیف اور نہ بدبو کا احساس ہوگا، اس لیے اس عظیم عافیت کی جگہ کو ہی اصل مقصود طلب بنانا چاہیے اور دنیا کی زیب و زینت میں پڑ کر جنت سے غافل نہ ہونا چاہیے۔

## دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے

اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَحَنَّةُ الْكَافِرِ (مسلم شریف ۲/۴۰۷)

دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔

اس لیے کہ مؤمن کا اصل ٹھکانہ جنت ہے جو واقعہً جائے عافیت ہے، اس اصل ٹھکانہ کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی واقعہً قید خانہ سے کم نہیں ہے، جہاں انسان طرح طرح کی قیودات کا پابند ہے، اور اس کے بالقابل کافر کو آخرت میں سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا ہے لہذا وہاں کے عذاب کے مقابلہ میں جب تک اس کی جان میں جان ہے اور جب تک اسے دنیا میں عذاب سے مہلت ملی ہوئی وہ اس کے لیے جنت کے درجہ میں ہے۔

## دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے

دنیا سے ایسا تعلق جو آخرت سے غافل کر دے یہی تمام گناہوں اور معاصی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ۔ (حسب الايمان ۴/۳۸۸)

دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے۔

غور کرنے سے یہ بات باآسانی سمجھ میں آجاتی ہے کہ دنیا میں جو شخص بھی گناہ کرتا ہے اس کا اصل محرک دنیا سے تعلق ہی ہوتا ہے، مثلاً کسی کا مال ناجائز طور پر حاصل کرے۔ یا



لہو وحب میں جٹلا ہو، یاد کاری اور حرام کاری کے راستہ پر چلے یہ سب چیزیں دنیا سے محبت ہی کی وجہ سے سامنے آتی ہیں، سیدنا یحییٰ نے ارشاد فرمایا:

”دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور مال (مداوا تو کیا ہوتا) وہ خود ہی مریض ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ مال کا مرض کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا: کہ جب مال آتا ہے تو انسان تکبر و غرور و فخر و مباہات سے بہت کم محفوظ رہ پاتا ہے، اور اگر بالفرض ان باتوں سے محفوظ بھی رہ جائے پھر بھی اس مال کے رکھ رکھاؤ کی فکر انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے محروم کر ہی دیتی ہے۔ (صحب الایمان ۴/۳۳۸)“

اسی بنا پر اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا، ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ مِنَ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمْ مَرِيضَةَ الْمَاءِ۔

(صحب الایمان ۴/۳۳۸)

جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے مریض کو (سردی کی بیماری کے وقت) پانی سے بچاتا ہے۔ اس لئے کہ دنیا سے تعلق، اللہ تعالیٰ سے تقرب میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دنیا کی محبت سے پوری طرح محفوظ رکھتا ہے۔

## دنیا سے تعلق آخرت کے لئے مضر ہے

دنیا سے تعلق اور اس کی لذتوں میں اٹھنا بہت بظاہر بہت اچھا معلوم ہوتا ہے اور بہت سے لوگ بس دنیوی لذتوں ہی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں کہ دنیا میں یہ وقتی لذتیں آخرت کی دائمی زندگی کی دائمی نعمتوں میں کمی اور نقصان کا سبب ہیں جو درحقیقت عظیم ترین نقصان ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضْرَبَ بِأَخْرَجَتْهُ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضْرَبَ بِدُنْيَاهُ فَاتْرُكُوا مَا بَيْنَهُ

عَلَى مَا بَيْنَهُ۔ (السیہقی فی صحب الایمان ۴/۲۸۸ مجمع الزوائد ۱۰/۲۳۹)

﴿ اللہ سے شکر کیجئے ﴾

جو شخص اپنی دنیا میں جی لگائے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت رکھے (اور اس کے بارے میں فکر مند رہے) تو وہ صرف اپنی دنیا کا (وقتی) نقصان کرے گا بلکہ باقی رہنے والی آخرت کی زندگی کو دنیا کی فانی زندگی پر ترجیح دیا کرو۔ اور ایک روایت میں ارشاد ہے:

حُلُوَةُ الدُّنْيَا مَرَّةٌ الْآخِرَةُ مَرَّةٌ الدُّنْيَا حُلُوَةُ الْآخِرَةِ۔ (شعب الایمان ۷/۲۸۸،

مجمع الزوائد ۱۰/۲۳۹)

دنیا کی میٹھی چیز آخرت میں کڑواہٹ کا سبب ہے، اور دنیا کی کڑوی زندگی آخرت میں محاسن کا سبب ہے۔

چنانچہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں نہایت عیش و عشرت اور آرام و راحت میں زندگی گزارتے ہیں لیکن یہی پر فحش غفلت والی زندگی ان کے لئے آخرت میں سخت ترین عذاب کا سبب بن جائے گی، اور اسی طرح کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی زندگی دنیا میں نہایت تنگی اور ترشی کے ساتھ گزرتی ہے لیکن ان آزمائشوں پر صبر کی بدولت ان کا مقام آخرت میں اس قدر بلند ہو جائے گا جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ہمیشہ آخرت بنانے کی فکر لازم ہے۔ ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے تو تین باتیں اس کو چھوٹ جاتی ہیں (۱) ایسی بدبختی جس کی مصیبت کبھی ختم نہیں ہوتی (۲) ایسی حرص جس سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا (۳) اور ایسی خواہش جو کبھی شرمندہ محکم نہیں ہوتی، پس دنیا (کسی کے لئے) طلبگار رہے اور (کوئی) اس کا طلبگار ہے، لہذا جو شخص دنیا کے پیچھے پڑتا ہے تو آخرت اس کا چچا پکڑ لیتی ہے تا آنکہ اس کی موت آجاتی ہے، اور (اس کے برعکس) جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے تو دنیا اس کا چچا کرتی ہے تا آنکہ وہ اپنے مقدر کا رزق حاصل کر لیتا ہے۔

(رواہ الطبرانی باسناد حسن، الترمذی والترمذی ۸۵/۴)

## دنیا کی محبت دلی بے اطمینانی کا سبب ہے

دنیا سے تعلق جب بڑھتا ہے تو ساتھ میں دلی بے اطمینانی بھی بڑھتی جاتی ہے، اور تمام تر اسباب و وسائل مہیا ہونے کے باوجود انسان سکون سے محروم رہتا ہے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّتَهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فِقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَسْأُجِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نَيْتَهُ جَعَلَ اللَّهُ غَنَاةً فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ أَمْرَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ۔ (شعب الایمان ۴/۲۸۸، ماہنامہ حدیث ۱۰۵، ۳۱، العربیہ والعربیہ ۵۶/۳)

دنیا جس شخص کی مقصود بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات پر اگندہ فرمادیتا ہے اور محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا میں صرف اسی قدر ملتا ہے جتنا اس کے لئے مقدر ہے، اور (اس کے بالمقابل) آخرت جس کا نصب العین ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے اور اس کے معاملات کو مجتمع فرمادیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔

اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِبْنُ آدَمَ: تَفْرَغُ لِعِبَادَتِي أَمَّا صَدْرَكَ غِنَى وَأَسَدُ فَقْرِكَ وَالْأَلَا تَفْعَلُ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسَدُ فَقْرَكَ۔ (شعب الایمان ۴/۲۸۹)

اے انسان! میری بندگی کے لئے یکسو ہو جا، تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری ضرورت پوری کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تیرے سینے کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہیں کروں گا۔

اس لئے دلی اطمینان کے حصول کے لئے بھی ضروری ہے کہ دنیا سے تعلق اعتدال کی حد میں رہے اس سے تجاوز نہ ہو، اور اگر تعلق حد سے بڑھ جائے گا تو پھر محرومی ہی محرومی ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ: جُمُودُ الْعَيْنِ، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ وَطَوُّوْلُ الْأَمَلِ وَالْجِرْصُ

عَلَى الدُّنْيَا۔ (مجمع الزوائد عن البوار ۱۰/۲۲۶)

چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں (۱) آنکھ سے آنسو نہ لگانا (۲) دل کا سخت

ہونا (۳) لمبے منصوبے باندھنا (۴) دنیا پر حریص ہونا۔

## شوقین مزاج لوگ اللہ کو پسند نہیں

شوقین مزاج اور فیشن کے دل دادہ لوگ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں، نبی

اکرم ﷺ نے ایسے لوگوں کو امت کے بدترین افراد میں شمار فرمایا ہے، ارشاد نبوی ہے:

شَرَّ أُمَّتِي الَّذِينَ وُلُّوا نَفْسِي السَّعِيمِ وَعُغِلُوا بِهِ، هَمَّتْهُمْ أَلْوَانُ الطَّعَامِ

وَأَلْوَانُ الثِّيَابِ يَتَشَلَّقُونَ فِي الْكَلَامِ۔ (کتاب الزهد لابن المبارک ۲۶۳)

میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو ناز و نعم میں پیدا ہوئے اور اسی میں پلے

اور بڑھے، جن کو ہر وقت بس انواع و اقسام کے کھانوں اور طرح طرح کے لباس زیب تن

کرنے کی فکر دامن گیر رہتی ہے اور جو (تکبر کی وجہ سے) مٹھا مٹھا کر بات چیت کرتے

رہتے ہیں۔

سیدنا حضرت عمر بن الخطابؓ کا ارشاد ہے کہ تم (زیب و زینت کے لئے) بار بار

حسل خانوں کے چکر لگانے اور بالوں کی بار بار صفائی سے بچتے رہو، اور عمدہ عمدہ قالینوں

کے استعمال سے بچو، اس لئے کہ اللہ کے خاص بندے عیش و عشرت کے دل دادہ نہیں

ہوتے۔ (کتاب الزہد ۲۶۳)

## دنیا سے بے رغبتی موجب سکون ہے

دنیا میں رہ کر دنیا میں مدہوش نہ رہنا انسان کے لئے سب سے بڑا سکون کا ذریعہ

ہے، ایسا شخص ظاہری طور پر کتنا ہی خستہ حال کیوں نہ ہو مگر اسے اندرونی طور پر وہ قلبی

﴿ اللہ سے شکر کیجئے ﴾ ﴿ ۳۲۵ ﴾

اطمینان نصیب ہوتا ہے جو بڑے بڑے سرمایہ داروں کو بھی میسر نہیں آتا، اسی لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ الْقَلْبَ وَالْحَسَدَ۔

(کتاب الزہد ۲۱۰ مجمع الزوائد ۱۰/۲۸۶)

دنیا سے بے رغبتی دل اور بدن دونوں کے لئے راحت بخش ہے۔

دنیا میں سب سے بڑی دولت سکون اور عافیت ہے، اگر سکون نہ ہو تو سب دولتیں بے کار ہیں، اور یہ سکون جمعی مل سکتا ہے جب ہم دنیا سے صرف بقدر ضرورت اور برائے ضرورت تعلق رکھیں، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار رہ کر اس کی رضا پر راضی رہیں۔

حضرت لقمانؑ نے ارشاد فرمایا دین پر سب سے زیادہ مددگار صفت دنیا سے بے رغبتی ہے کیونکہ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے وہ خالص رضائے خداوندی کے لئے عمل کرتا ہے، اور جو شخص اخلاص سے عمل کرے اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے سرفراز فرماتا ہے۔ (کتاب الزہد ۲۷۴) یہ صفت زہد انسانوں کو لوگوں کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اور ایسے شخص کو ہی قبولیت عند اللہ اور عند الناس کی دولت نصیب ہوتی ہے۔

## قناعت دائمی دولت ہے

کثرت کی فکر کے بجائے عطاء خداوندی پر راضی رہنا قناعت کہلاتا ہے، اور جس شخص کو قناعت کی دولت نصیب ہو جائے وہ ہر حال میں مگن رہتا ہے، پھر وہ کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا، اور نہ دوسرے کی حرص کرتا ہے ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَقَنِعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ۔ (حسب الامان ۴/۲۹۰)

(جس شخص کو تین صفات حاصل ہو گئیں) وہ فلاح پا گیا (۱) جو اسلام سے مشرف

ہو (۲) جسے بقدر ضرورت روزی ملتی ہو (۳) اور اللہ نے اسے اپنے دیئے ہوئے رزق پر

قناعت سے نوازا دیا ہو۔

ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ۔ (مجمع الزوائد ۱۰/۲۵۶)

تم قناعت کو اختیار کرو، اس لئے کہ قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔

آدمی سب سے زیادہ اپنی اولاد کی روزی کے بارے میں فکرمند رہتا ہے اور اس کے لئے پہلے ہی سے انتظام کر کے جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، محنت و جدوجہد کرتا ہے، جناب رسول اللہ ﷺ نے بھی اس کے متعلق فکر فرمائی، بلاشبہ اگر آپ یہ دعا فرمادیتے کہ آپ کے خاندان کا ہر فرد دنیا کی ہر دولت سے بے حساب نوازا جائے تو یقیناً وہ دعا شرف قبولیت حاصل کر جاتی لیکن آپ نے اپنے خاندان کے لئے کھرت مال و دولت کی دعا نہیں فرمائی بلکہ آپ نے فرمایا:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا (مسلم ۴۰۹/۲، شعب الایمان ۴/۲۹۱)

اے اللہ! محمد (ﷺ) کے اہل خاندان کی روزی قوت (برابر برابر) مقرر

فرمادے۔

یعنی نہ اتنی کم ہو کہ مخلوق کے سامنے ذلت کا باعث ہو اور نہ اتنی زیادہ ہو کہ آخرت سے غافل کر دے، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: قیامت کے روز مالدار اور غریب سب کو یہی حسرت ہوگی کہ انہیں دنیا میں بس برابر برابر روزی ملی ہوتی۔ (الترغیب ۸۱/۳)

نیز آپ ﷺ کا ارشاد عالی ہے:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ۔ (مجمع الزوائد ۱۰/۲۵۷)

اللہ تعالیٰ اپنے عطا کردہ مال کے ذریعہ اپنے بندہ کو آزما تا ہے، پس جو شخص اللہ کی

تقسیم پر راضی رہے اللہ تعالیٰ اسے برکت سے نوازا تا ہے اور اس کو وسعت عطا فرماتا ہے اور جو اس پر راضی نہ رہے (بلکہ زیادہ کی حرص کرے) تو اس کو برکت سے محروم رہتی ہے۔

الغرض یہ قناعت اور استغناء انتہائی سکون اور عز و شرف کی چیز ہے۔

ایک مرتبہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر

ہوئے اور فرمایا:

يَا مُحَمَّدًا عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَحْزِيٌّ بِهِ،  
وَاحِبٌ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ صَلَواتُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّةُ  
اسْتِغْنَائِهِ عَنِ النَّاسِ۔ (الطبرانی باسناد حسن مجمع الزوائد ۱۰/۲۱۶)

اے محمد! (ﷺ) آپ جتنا چاہیں رہیں (بہر حال) ایک دن وفات پائی ہے، اور  
آپ جو چاہیں اعمال کریں ان کا آپ کو بدلہ مل کر رہتا ہے۔ اور آپ جس سے چاہیں (دنیا  
میں) تعلق رکھیں اسے (بہر حال) چھوڑ کر جاتا ہے، اور اچھی طرح معلوم ہو کہ مومن کے  
لئے شرف کی بات اس کارات کو نماز پڑھنا ہے اور مومن کی اصل عزت کی چیز اس کا لوگوں  
سے مستغنی رہنا ہے۔

## دنیا میں مسافر کی طرح رہو

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے میرے بدن کا  
کچھ حصہ ہاتھ میں پکڑ کر ارشاد فرمایا:

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَمَا نَكَتْ غَرِيْبٌ۔ (بخاری شریف ۲/۹۳۹)

تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو۔

یعنی جس طرح مسافر راستے میں ٹھہرنے کی جگہ سے دل نہیں لگاتا بلکہ اپنی منزل  
مقصود تک پہنچنے اور وہاں کی عافیت کے لئے ہر وقت لگ رہتا ہے اسی طرح مومن کو  
اپنے ”مسافر آخرت“ ہونے کا تصور ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ ایسی عظیم نصیحت ہے  
جو تمام نصیحتوں کو جامع ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کی مقدس زندگی اسی ہدایت کی عملی تفسیر تھی۔

## آنحضرت ﷺ کی شان

خادم رسول حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ  
کی قیام گاہ پر حاضر ہوا (جس میں کوئی آرام کی چیز نہ تھی) اور آپ ﷺ ایک کھڑی چٹائی پر

آرام فرماتے جس کی سختی کے نشانات آپ کے بدن اقدس پر نمایاں ہو رہے تھے، میں یہ منظر دیکھ کر رو دیا، تو آپ نے فرمایا: میاں عبد اللہ کیوں روتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ: اے اللہ کے رسول! یہ (دنیا کے بادشاہ) قیصر و کسریٰ تو نرم و نازک ریشم کے قالین پر لیٹیں اور آپ (دونوں جہانوں کے سردار ہونے کے باوجود) اس کھڑی چٹائی پر تشریف فرما ہیں۔ (یہ دیکھ کر مجھے روننا آرہا ہے) اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

فَلَا تَبْلُكَ بِمَا عَبَدَ اللَّهُ فَإِنَّ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ وَمَا أَنَا وَالِدُ الدُّنْيَا، وَمَا مَنَلْنِي وَمَنْتَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَمَنْتَلُ رَاكِبٍ نَزَلَ تَحْتِ شَجَرَةٍ ثُمَّ سَارَ وَتَرَكَهَا۔

(العنقوبت والعنقوبت ۱۸/۴)

عبد اللہ مت روؤ، کیوں کہ ان کے لئے دنیا ہی سب کچھ ہے، اور ہمارے لئے آخرت (کی نعمتیں ہیں) اور مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سوار (آرام کے لئے) کسی درخت کے نیچے اتر کر آرام کرے اور پھر کچھ دیر بعد اُسے چھوڑ کر چلا جائے۔

جناب رسول اللہ ﷺ نے امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے اختیاری طور پر فخر کا راستہ اختیار کیا اور اپنے ”اُسوۂ مبارکہ“ سے دنیا سے بے رغبت رہنے کی تلقین فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جس حال میں بھی رہے آخرت سے غافل نہ رہے۔ اور دنیا کی زیب و زینت اور لہو و لہب میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کا نقصان نہ کرے۔ بلکہ دنیا میں ملنے والے فرصت کے لمحات کو آخرت کی کامیابی کے حصول کا ذریعہ بنانے کی بھرپور کوشش برابر کرتا رہے۔

## صحت اور وقت کی ناقدری

عام طور پر انسان اللہ تعالیٰ کی دو عظیم نعمتوں صحت اور وقت کی نہایت ناقدری کرتا ہے، اور ان نعمتوں سے اسے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اور آخرت میں ان کے ذریعہ جتنی کامیابی حاصل کرنی چاہیے اس میں سخت غفلت اور سستی سے کام لیتا ہے، آنحضرت ﷺ کا



ارشاد عالی ہے:

نِعْمَتَانِ مَغْبُورَاتٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

(بھاری شریف و رقم: ۶۱۳۲)

دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے انسان خسارے میں ہیں: (۱) صحت اور عافیت (۲) فرصت کے لحاظ۔

اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے محدث ابن بطلان نے فرمایا: کہ صحت اور فرصت کے لحاظ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں ان کی قدر دانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اگر اس میں کوتاہی ہوئی (جس میں ابتلا عام ہے) تو وہ شخص آخرت کے خسارے میں ہوگا۔

اور علامہ ابن الجوزی نے فرمایا: کہ کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے مگر اسے فرصت نہیں ملتی، اور کبھی فرصت میں ہوتا ہے مگر صحت ساتھ نہیں دیتی اور جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اب اس پرستی غالب آجاتی ہے لہذا جو شخص سستی کو دور کر کے ان نعمتوں کو عبادت و اطاعت میں لگائے وہ تو فائدہ اور نفع میں رہے گا اور جو سستی میں پڑ کر وقت ضائع کر دے گا اس کے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے۔

اور علامہ طیبی نے فرمایا: کہ یوں سمجھئے کہ صحت اور وقت انسانی زندگی کا اصل سرمایہ ہے اب یہ انسان کی سمجھ ہے کہ وہ انہیں کس کے ہاتھ فروخت کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے کام میں لگائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ کر اس کا یقینی معاوضہ حاصل کر کے فلاح یاب ہوگا، اور اگر وقتی لذتوں یا سستی میں انہیں ضائع کر دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو حسرت اور افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ (بخاری ۶۱۱۳-۶۷۷-۲۷۷)

## ہر وقت مستعد رہئے!

اس لئے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر وقت آخرت کے لئے مستعد رہے، اور آج کا کام کل پر نہ ٹالے، بلکہ زندگی میں جتنی بھی نیکیاں سمیٹی جائیں کم سے کم وقت میں

سمیٹ لے کیونکہ پیہ نہیں کہ پھر یہ موقع ہاتھ آئے کہ نہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، جب تو شام میں ہو تو صبح کا انتظار مت کر اور جب صبح میں ہو تو شام کا انتظار نہ کر، اور صحت کے زمانہ میں مرض کے وقت کا بھی کام کر لے (یعنی صحت کے وقت اعمال کا ذخیرہ جمع کر لے جو مرض میں کام آئے) اور زندگی میں مرنے کے بعد کے لئے ذخیرہ اکٹھا کر لے (بخاری شریف ۴۴۶۱) حضرت ابن عمر کا یہ مقولہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد سے ماخوذ ہے آپ ﷺ نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

اِغْتَنِمْ حَمْسًا قَبْلَ حَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ۔ (فتح الباری ۱۳/۲۸۲)

پانچ باتوں کو پانچ باتوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے، فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔

اس حدیث میں ان پانچ اسباب کو بیان کیا گیا ہے جن میں مدہوش ہو کر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہ چیزیں محض عارضی ہیں، کچھ پیہ نہیں کب ان کا تسلسل ختم ہو جائے اور پھر بعد میں حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے، لوگ عام طور پر جوانی کے زمانہ کو کھیل کود اور تفریحات میں ضائع کر دیتے ہیں حالانکہ یہ اتنا قیمتی زمانہ ہے کہ اس میں عبادت و ثواب بڑھاپے کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے، ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت گزار متقی جو ان سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ ”تیرا مقام میری نظر میں بعض فرشتوں کے برابر ہے“ (کتاب الہدایہ ۱۱) اور ایک روایت میں ہے کہ ”جو نو جوان دنیا کی لذتوں اور لہو و لعب کو محض رضائے خداوندی کے لئے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ”۲۷ صدیقین“ کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ (کتاب الہدایہ ۱۱) اور پہلے یہ روایت گزر چکی ہے کہ عبادت گزار جو ان کو میدانِ بئس میں عرشِ خداوندی کا سایہ عطا کیا جائے گا۔“

﴿ اللہ سے شکر بخانے ﴾ ﴿ ۳۳۱ ﴾

الغرض یہ نہایت قیمتی زمانہ عام طور پر غفلت میں ضائع کر دیا جاتا ہے، اور اس نقصان کی پرواہ نہیں کی جاتی، یہی حال صحت، مالداری اور فراغ عیشی کا ہے، ضرورت ہے کہ ہم غافل نہ رہیں بلکہ پوری طرح مستعد رہ کر آخرت کی تیاری کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں فکر آخرت کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

## جنت تک جانے کا راستہ

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے ہر شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ ”جی ہاں یا رسول اللہ“ تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

فَأَقْصِرْ وَاِمِنْ الْأَمَلِ مَوْبِقَتُوا أَحَالَكُمْ بَيْنَ أَبْصَارِكُمْ وَاسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ۔

تو اپنی آرزوئیں مختصر کرو، اور اپنی موت ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔

حضرات صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہم سب اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

لَيْسَ كَتَلِكِ الْحَيَاءُ مِنَ اللَّهِ وَلَكِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ اللَّهِ أَنْ لَا تَنْسُوا الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى، وَأَنْ لَا تَنْسُوا الرِّسْمَ وَمَا وَطَى بَوَّانٌ لَا تَنْسُوا الْحَوْفَ وَمَا احْتَوَى، وَمَنْ يَشْتَهَى كَرَامَةَ الْأَخِرَةِ يَدْعُ زِينَةَ الدُّنْيَا، هُنَالِكَ اسْتَحَى الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ وَهُنَالِكَ أَصَابَ وَلَايَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ (کتاب الزهد: ۱۰)

اللہ تعالیٰ سے حیا کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ سے حیا یہ ہے کہ تم قبرستانوں اور مرنے کے بعد کی بوسیدگی کو مت بھولو، اور سر اور سر کے متعلقہ چیزوں کو مت فراموش کرو، اور پیٹ اور اس میں جانے والی چیزوں سے مت غافل ہو، اور جو شخص آخرت کی عزت چاہتا ہو وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے (جب آدمی ایسا کرے گا) تو وہ اللہ تعالیٰ

سے شرمانے والا ہوگا، اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور ولایت حاصل کر پائے گا۔

آنحضرت ﷺ کا یہ پاک ارشاد عالی ہر مسلمان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس کا آپس میں ایک دوسرے سے ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ کرے کہ یہ ہدایت ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق نصیب ہو جس جس ہم دنیا و آخرت میں اپنے خالق و مالک کے محبوب اور مقرب بن جائیں، اس قادر مطلق ذات سے کچھ بعید نہیں کہ ذرے کو آفتاب اور شعلے کو ماہتاب بنادے، نااہلوں کو اہلیت سے نواز دے اور تالائقوں کو لیاقت عطا کر دے، خیر اور توفیق صرف اسی کی اختیار میں ہے، ہم اس کی ذات سے دارین کی خیر و عافیت کے طالب ہیں، بے شک وہی دعاؤں کا سننے والا اور وہی عاجزوں کو شرف قبولیت سے نوازنے والا ہے۔

واحد دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر

خلقه سیدنا و مولانا محمد و علی الہ و صحبہ اجمعین، برحمتک

یا ارحم الراحمین۔

کتبہ احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ و لو الدیہ

خادم الحدیث النبوی الشریف

بالحمامة القاسمية، شاہی مراد آباد

۱۴۲۳/۲/۲۳ھ



## ماخذ و مراجع

(اس کتاب کی ترتیب و تالیف میں درج ذیل کتب سے مدد لی گئی ہے، مرتب)

۱	القرآن الکریم	ترجمہ: حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی	مجمع الملك فهد، مدینہ منورہ
۲	القرآن الکریم	ترجمہ: حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی	فرید بک ڈپو، دہلی
۳	صحیح البخاری	الامام ابو محمد بن اسماعیل بن بزدلی البخاری (۱۳۶م)	مکتبہ الاصلاح لا بلاغ، مراد آباد
۴	صحیح مسلم	الامام ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری (۲۶۱م)	مخاریف کتب، دیوبند
۵	جامع الترمذی	الامام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی	مخاریف کتب، دیوبند
۶	سنن ابی داؤد	الامام ابو داؤد سلیمان بن الاحنف البجائی (۲۴۵م)	اشرفی بک ڈپو، دیوبند مرکز: دار الفکر، بیروت
۷	سنن النسائی	الامام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی (۳۰۳م)	مکتبہ تھانوی، دیوبند دار الفکر، بیروت
۸	سنن ابن ماجہ	الامام ابو عبد اللہ محمد بن یزید القزوی (۲۴۵م)	اشرفی بک ڈپو، دیوبند دار الفکر، بیروت
۹	مسند امام احمد بن حنبل (محقق احمد محمد شاہ)	الامام احمد بن محمد بن حنبل (۲۴۱م)	دار الحدیث، القاہرہ

۱۰	العجم الاوسط	العلامة ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني (م ۳۶۰ھ)	مكتبة المعارف الرياض
۱۱	كتاب الدعاء	العلامة ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني (م ۳۶۰ھ)	دار الكتب العلمية، بيروت
۱۲	مصنف ابن ابي شيبة	العلامة ابو بكر عبدالله بن محمد ابن ابي شيبة الكوني (م ۲۲۵ھ)	دار الكتب العلمية، بيروت
۱۳	شعب الایمان	الامام ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي (م ۳۵۸ھ)	دار الكتب العلمية، بيروت
۱۴	مكثوة المصاحح	الامام ولي الدين محمد بن عبدالله الخطيب التمريزي	اشرفي بك ڈیپو، دیوبند
۱۵	مكارم الاخلاق	الامام ابو بكر عبدالله بن محمد ابن ابي الدنيا (م ۲۸۱ھ)	دار الكتب العلمية، بيروت
۱۶	موسوعة رسائل ابن ابي الدنيا	الامام ابو بكر عبدالله بن محمد ابن ابي الدنيا (م ۲۸۱ھ)	موسسة الكتب الثقافية، بيروت
۱۷	كتاب مجابى الدعوة	الامام ابو بكر عبدالله بن محمد ابن ابي الدنيا (م ۲۸۱ھ)	موسسة الكتب الثقافية، بيروت
۱۸	صحیح ابن حبان	الحافظ محمد بن حبان الیوحاتم التمیمی (م ۳۵۴ھ)	دار الكتب العلمية، بيروت
۱۹	مصنف عبدالرزاق	الحافظ ابو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعائي (م ۲۱۱ھ)	دار القلم، بيروت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ		
۲۰	الجامع لاحكام القرآن الامام ابو محمد اللہ محمد بن احمد الاندلسی القرطبی (م ۶۶۸ھ)	دار الفکر، بیروت
۲۱	تفسیر درمنثور الخطاط جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی (م ۹۱۱ھ)	مطبع امیریہ، مصر
۲۲	تفسیر ابن کثیر (مکمل) حافظ عماد الدین ابن کثیر الدمشقی (م ۷۷۳ھ)	دار السلام، ریاض
۲۳	تفسیر خازن علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم الہمدانی	دار المعرفہ، بیروت
۲۴	الترغیب والترہیب الحافظ ذکی الدین ابن عبدالعظیم بن عبدالقوی المذہبی (م ۶۵۶ھ)	دارالکتب العلمیہ، بیروت
۲۵	الترغیب والترہیب الامام عبداللہ بن اسد الیافعی (م ۷۷۸ھ)	دارالکتب العلمیہ، بیروت
۲۶	مجمع الزوائد الحافظ نورالدین علی بن ابی بکر الہیثمی (م ۸۰۷ھ)	دارالکتب العربی، بیروت
۲۷	نوادرا لاصول الخطاط عبداللہ بن محمد الکیلی الترمذی (م ۳۲۴ھ)	دارالکتب العلمیہ، بیروت
۲۸	اکمال المعلم الحافظ ابوالفضل عیاض بن موسیٰ بن عیاض الحمیمی (م ۵۳۳ھ)	دار الوفاء، دمشق
۲۹	المہم (شرح مسلم) الامام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی (م ۶۵۶ھ)	دار ابن کثیر، دمشق

۳۰	المہاج شرح مسلم	الطامہ محی الدین بن محیی النودوی (۱۶۷۶ھ)	بيت الافکار الدولہ بریاض
۳۱	ریاض الصالحین	الطامہ محی الدین بن محیی النودوی (۱۶۷۶ھ)	ادارہ اشاعت دیجات بدلی
۳۲	فتح الباری	الطامہ الحافظ ابن حجر احمدی (۸۵۲م)	دارالکتب العلمیہ، بیروت
۳۳	دلائل النبوة	الطامہ ابوبکر احمد بن حسین الہمدانی (۲۵۸م)	دارالکتب العلمیہ، بیروت
۳۴	تفسیر روح البانی	طامہ ابوالفضل السید محمود الآلوسی الہمدانی (۱۲۷۳ھ)	مطبع خیرین مصر
۳۵	الروض الانف	الطامہ ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداللہ السہلی (۵۸۱م)	دارالکتب العلمیہ، بیروت
۳۶	اشرف الوسائل	الطامہ شہاب الدین احمد بن حجر الہمدانی (۹۷۳م)	دارالکتب العلمیہ، بیروت
۳۷	فیض القدر	طامہ زین الدین عبدالرؤف محمد بن علی النوادی (۱۰۳۱م)	دارالفکر، بیروت
۳۸	کنز العمال	الطامہ علاء الدین علی السبکی بن حام الدین الہندی (۹۷۵م)	دارالکتب العلمیہ، بیروت
۳۹	شمائل الرسول	الحافظ ابن کثیر دمشقی (۷۷۳م)	دارالقبلة، جدہ
۴۰	کتاب الزہد	شیخ الاسلام عبداللہ بن المبارک الروزنی (۱۸۱م)	دارالکتب العلمیہ، بیروت




کتاب سے شروع ہو کر		
۴۱	کتاب الرواج	الامام ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن عمر الحقی (۱۰۹۷ھ)
		دارالکتب العلمیہ، بیروت
۴۲	التکوی المردیہ	الامام ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن عمر الحقی (۱۰۹۷ھ)
		دارالعرفہ، بیروت
۴۳	مرقات الفائق	العلامة علی بن سلطان القاری (۱۰۱۴ھ)
		دارالکتب العلمیہ، بیروت
۴۴	شرح فقہ اکبر	العلامة علی بن سلطان القاری (۱۰۱۴ھ)
		دارالکتب العلمیہ، بیروت
۴۵	الاصابہ	الحافظ ابن حجر الحسینی (۸۵۶ھ)
		دارالکتب العلمیہ، بیروت
۴۶	اسد الغابہ	الامام عزالدین ابن الاثیر الجزینی (۶۳۶ھ)
		دارالفکر، بیروت
۴۷	شرح الصدور	الحافظ جلال الدین السیوطی (۹۱۱ھ)
		دارالتراث، مدینہ منورہ
۴۸	الذکر فی احوال الموتی والآخرة	الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی (۶۷۱ھ)
		مکتبہ تجاریہ، مکہ معظمہ
۴۹	الہدایہ والنهایہ	الحافظ ابن کثیر الدمشقی (۷۷۷ھ)
		دارالعرفہ، بیروت
۵۰	کتاب العاقبہ	الحافظ عبد الحق بن عبدالرحمن الاشعری (۵۸۲ھ)
		دارالکتب العلمیہ، بیروت
۵۱	مغزوا الجمان	العلامة محمد بن يوسف الصامی الشافعی (۹۳۲ھ)
		مکتبۃ الامان، مدینہ منورہ

﴿ اللہ سے شکر ہے ﴾		﴿ ۴۲۸ ﴾	
۵۲	کتاب الروح	الامام محمد بن ابی بکر الدمشقی المعروف بابن القیم الجوزیہ (م ۷۵۱ھ)	دارالکتب العربیہ، بیروت
۵۳	ادب الخفاف	الامام ابو بکر الخفاف (م ۲۶۱ھ)	دارالکتب العلمیہ، بیروت
۵۴	کتاب العفن	الامام ابو عبد اللہ نعیم بن حماد الروزی (م ۲۲۹ھ)	مکتبہ تجاریہ، مکہ مقننہ
۵۵	احیاء العلوم	حیدر الاسلام امام غزالی	نول کشور، کینٹو
۵۶	فیض الباری	امالی: الطامہ محمد انور شاہ کشمیری	مجلس علمیہ، لاہور
۵۷	مکملہ فتح الملہم	الطامہ محمد تقی عثمانی	مکتبہ دارالعلوم، کراچی
۵۸	الدر المنثور	اشیخ علاء الدین الحسینی (م ۱۰۸۸ھ)	انجمن سعید کینی، کراچی
۵۹	رد المحتار	علامہ ابن عابدین شامی (م ۱۲۵۲ھ)	انجمن سعید کینی، کراچی دارالمنکر، بیروت احیاء التراث العربیہ، بیروت
۶۰	شرح مقود رسم الفتی	الطامہ ابن عابدین شامی (م ۱۲۵۲ھ)	مکتبہ انجمن، سہارنپور
۶۱	رسائل ابن عابدین	الطامہ ابن عابدین الشامی (م ۱۲۵۲ھ)	سجیل اکیڈمی، لاہور








بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ			
۶۲	الملابس والزیاده من الزینة المطهرة	محمد عبدالکیم القاضی	دارالحدیث، القاہرہ
۶۳	معارف القرآن	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب	سمرج بکڈ پو، دیوبند
۶۴	مظاہر حق	علامہ قطب الدین شاہ جہانپوری	کتاب خانہ رحمہ، دیوبند
۶۵	مذاہق العارفین	مولانا محمد احسن صدیقی نانوتوی	مطبع حج کمار کسنو
۶۶	معارف امدادیہ	حافظ محمد اقبال قریشی	کتبہ امدادیہ، ملتان
۶۷	معارف الاکابر	حافظ محمد اقبال قریشی	کتاب خانہ محموی، سہارنپور
۶۸	اصلاح الرسوم	حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی قانونی	قانونی، دیوبند
۶۹	امداد القنادی	حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی قانونی	ادارہ تالیفات اولیاء، دیوبند
۷۰	عطر ہدایہ	علامہ فتح محمد صاحب کسنوی	کانپور
۷۱	غیر اسلامی حکومت کے شرعی احکام	مرتبہ: مفتی محمد زید صاحب مظاہری	ادارہ افادات اشرفیہ، پتھوڑا بانڈہ
۷۲	احسن القنادی	حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی	دارالاشاعت، دہلی

﴿ اللہ سے شروع کیجئے ﴾

۴۳	فتاویٰ محمودیہ	حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب کنگنوتی	مکتبہ محمودیہ، میرٹھ
۴۴	بیس بڑے مسلمان	مولانا عبدالرشید ارشد	مکتبہ رشیدیہ، لاہور
۴۵	بیس مردان حق	مولانا عبدالرشید ارشد	مکتبہ رشیدیہ، لاہور
۴۶	اصلاحی نصاب	حکیم الامت حضرت تھانویؒ	دارالاشاعت، دہلی
۴۷	قصدا سبیل	حکیم الامت حضرت تھانویؒ	دارالاشاعت، دہلی
۴۸	تاریخ اظہار (اردو ترجمہ)	علامہ جلال الدین السیوطیؒ	ذکریا بک ڈیپو، دیوبند
۴۹	انجم العظیم	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ	کتاب خانہ نصیبہ، دیوبند
۸۰	مشاہیر کے آخری کلمات	زاہد حسین انجم	تاج کھٹی، دہلی



ہماری دیگر مطبوعات



مکتبۃ اہل علم  
۱۸-۱۹ پانچواں کلاں



7231788  
7231788